

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

INDICI E SUSSIDI BIBLIOGRAFICI DELLA BIBLIOTECA

— 6 —

I MANOSCRITTI ARABI
DI RECENTE ACCESSIONE
DELLA FONDAZIONE CAETANI

Catalogo di

RENATO TRAINI



ROMA
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

1967

SOMMARIO

<i>Prefazione</i>	Pag. VII
Elenco delle abbreviazioni	» XIII
Codici Caetani 301-375	» I
Appendice	» 119
Prospetto cronologico dei codici	» 125
Elenco in ordine cronologico dei manoscritti datati	» 126
Indice per materie	» 127
Indice dei nomi di persona	» 137
Indice delle opere	» I*

PREFAZIONE

È necessario premettere al presente catalogo due avvertenze. La prima riguarda il titolo, che è stato adottato per semplicità, anche se non riflette esattamente il contenuto. Infatti, il catalogo comprende tre gruppi di codici:

a) 55 codici (nn. 301-355), acquistati dal prof. Ettore Rossi in occasione del suo secondo viaggio di studio nel Yemen, nel 1937-1938, e da lui successivamente donati alla Fondazione Caetani, il 26 dicembre 1938;

b) 8 codici (nn. 356-363), che la Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei acquistò nel 1953 dal dr. Cesare Ansaldi, già membro della missione sanitaria italiana nel Yemen dal 1929 al 1932, e autore di un'opera storica sul Yemen ⁽¹⁾;

c) 12 codici (nn. 364-373) di provenienza varia e comunque *non tutti* di recente accessione: di essi 2 (nn. 364-365) pervennero in dono alla Fondazione nel novembre 1933 da parte dell'allora Capo del Governo, al quale erano stati offerti in omaggio dal sunnominato dr. C. Ansaldi ⁽²⁾; 4 (nn. 366-368 bis) appartengono al Fondo Caetani vecchio, ma non appaiono nella monografia sulla Fondazione Caetani ⁽³⁾; 2 (nn. 369-370) sono esemplari di Corano, offerti da singoli donatori; di altri 4 (nn. 371-374) la provenienza è ignota.

Una seconda avvertenza riguarda la numerazione dei codici, nella quale si è deciso, non senza perplessità, di continuare quella, « unica e continuativa », che nella citata monografia si applica indistintamente ai mss. e alle copie fotografiche, a mss. orientali e non orientali ed anche ad opere a stampa di singolare pregio, a mss. di Fondi diversi (Caetani, Accademico, Corsini). Se nella serie così numerata i mss. orientali si trovassero elencati di seguito in una sola sezione o in più sezioni successive, la numerazione avrebbe potuto riprendere, in modo del tutto naturale, dalla fine di tale supposto elenco. Si è dovuto invece adottare la soluzione anzidetta, empirica più che logica, poiché di fatto era l'unica possibile. In appendice al catalogo vero e proprio,

(1) *Il Yemen nella storia e nella leggenda*, Roma 1933.

(2) Cf. C. A. NALLINO, *Due manoscritti arabi di storia del Yemen ecc.*, in *Rendiconti della R. Accad. dei Lincei*, cl. sc. mor., s. VI, v. IX, pp. 669-684 (nota riprodotta nel vol. III, pp. 330-342, di *Raccolta di scritti editi e inediti*, Roma 1939-1948, 6 voll.).

(3) G. GABRIELI, *La Fondazione Caetani per gli studi musulmani*, Roma 1926.

si è poi ritenuto opportuno registrare gli elementi che si son potuti raccogliere riesaminando i mss. arabi già segnalati nella monografia suddetta e che integrano e talvolta rettificano le notizie relative ad alcuni di essi.

* * *

Dei tre gruppi sopra distinti, sono ovviamente i primi due e, di essi, specialmente il primo a destare maggiore interesse, per il contributo che le opere contenute possono dare allo studio della storia e delle istituzioni del Yemen e, in particolare, della letteratura zaidita, anche se questo esiguo manipolo di codici yemenici non può certamente competere per importanza, oltre che per numero, con le altre collezioni della medesima provenienza. Come è noto, la più cospicua è quella posseduta dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano, ricca di 1.790 codici: la « collezione Caprotti » di 1610 codici, acquisita alla Biblioteca nel 1909, più altri 180, anch'essi raccolti nel Yemen dal commerciante italiano Giuseppe Caprotti e donati all'Ambrosiana nel 1914 dal Senatore Luca Beltrami. Seguono, in ordine di consistenza numerica: la collezione Glaser, di 341 codici, formata dal viaggiatore austriaco Eduard Glaser durante il suo terzo viaggio nel Sudarabia, nel 1887-88, e acquistata dal British Museum nel 1889; la collezione di 280 codici, gli ultimi dei moltissimi raccolti dal già menzionato Giuseppe Caprotti, donata nel 1922 dal Sen. L. Beltrami alla Biblioteca Vaticana; la quarta collezione Glaser, di 279 codici, frutto dell'ultimo viaggio nel Yemen, nel 1892-94, posseduta dalla Österreichische Nationalbibliothek di Vienna e purtroppo non ancora descritta⁽⁴⁾; la prima e la seconda collezione Glaser, complessivamente di 241 codici (raccolti durante i viaggi del 1885 e 1886), acquistate nel 1887 dalla Königliche (ora Preussische Staats-) Bibliothek di Berlino; la cosiddetta « Sammlung Glaser » (ma in realtà di provenienza Caprotti), di 157 codici⁽⁵⁾, acquistati nel 1902 dalla Hof- und Staatsbibliothek (ora Staatsbibliothek) di Monaco; i 122 codici della Biblioteca dell'Università di Leida, dei quali 72 acquistati, con il resto della collezione Amīn, nel 1883, e 50 acquistati nel 1932-36 per conto della Biblioteca dall'incaricato d'affari olandese a Gedda, C. Adriaanse.

(4) Ne esiste tuttora soltanto la notizia sommaria di M. GRÜNERT, *Über Ed. Glaser's jüngste arabische Handschriften-Sammlung*, in *Actes du dixième Congrès international des Orientalistes. Session de Genève 1894*, Leiden 1896. 3^{ème} p., sect. III, pp. 33-43; il Grünert compose inoltre una lista provvisoria dei codici, per cui si veda più avanti nell'elenco dei cataloghi di manoscritti.

(5) Anche per essi si hanno finora unicamente le indicazioni molto succinte e parziali di E. GRATZL, *Die arabischen Handschriften der Sammlung Glaser in der königlichen Hof- und Staatsbibliothek zu München*, in *Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft* XXII, 1918, pp. 194-200.

Se infine si tiene conto di alcuni altri codici esistenti nella collezione Landberg acquistata nel 1884 dalla Biblioteca di Berlino e in quella, ugualmente formata da C. Landberg e donata nel 1900 all'Università Yale di New Haven (Connecticut), più qualche esemplare sparso, il totale dei codici yemenici noti assomma a circa 3.300. Tale cifra, per quanto considerevole, è pur sempre modesta in confronto a quella dei codici arabi di altra provenienza e di altro contenuto, distribuiti nelle varie biblioteche d'Occidente e d'Oriente; e lacunosa, nonostante tutto, rimane la conoscenza, che ne risulta, del patrimonio letterario del Yemen, in quanto pur sempre soltanto una sua parte è consegnata in questa massa di mss., non pochi dei quali contengono del resto opere della letteratura araba classica. Dirò subito che è questo il caso anche di 17 codici yemenici del presente catalogo: i nn. 306, 308, 309, 310, 321, 330, 333, 336, 337, 340, 344, 345, 350, 351, 352, 353, 354, in cui si trovano trattati grammaticali e giuridici, scritti di scienze esatte e occulte, mediche e naturali, trattatelli di coranistica e compendi enciclopedici, nonché alcuni componimenti poetici di rinomanza universale nel mondo musulmano, i quali tutti esulano dall'ambito particolare della cultura del Yemen. Se si aggiunge che i nn. 326, 337¹⁻⁵, 338, 347, 348, pur rientrando in tale ambito, presentano scarso interesse, il totale dei codici yemenici qui descritti, degni di qualche rilievo, si riduce a 41. La cifra, al paragone di quella sopra notata, sembra, ed è, ben piccola; ma poiché, come si è detto, pur dopo il reperimento di tanto materiale manoscritto, la provincia culturale yemenita, affatto sconosciuta fino agli ultimi del secolo scorso, rimane tuttora imperfettamente nota, anche le circa 70 opere contenute, per intero o alcune solo in parte, e quali più quali meno estese, nei 41 codici rappresentano un non disprezzabile complemento per la sua esplorazione e migliore conoscenza. Si tratta di circa 28 scritti interessanti la storia politica o la biografia di personaggi del Yemen, di 16 trattati di diritto zaidita, 10 opere teologiche, 7 scritti relativi alle scienze coraniche o raccolte di tradizioni (1 nn. 307² e 335¹⁴, di autori sciiti), 2 scritti di contenuto etico, un'opera di geografia, una di veterinaria, una di poesia, una di prosa ornata; oltre a numerose *rasā'il* di imām zaiditi e di altri personaggi, con diretto riferimento ad avvenimenti e situazioni, e a numerosissimi saggi di poesia. Per quanto riguarda il valore delle opere, sono da segnalare: tra le storiche, il n. 315 per le vicende del sec. XI/XVII, il n. 339 per i documenti che contiene su fatti della seconda metà del sec. XIII/XIX, e il n. 356; tra le giuridiche, il n. 302¹; tra le teologiche, il n. 335¹, contenente uno dei tre esemplari conosciuti di uno dei più antichi trattati zaiditi, e il n. 320 di autore mu'tazilita; tra le rimanenti, il n. 322, egualmente di autore mu'tazilita. Merita poi di essere osservato come la preponderanza, che gli studi di diritto ebbero nel quadro complessivo della produzione scientifica degli Zaiditi, si rifletta pure qui, non solamente nel numero, ma anche nella varietà delle opere che rappresentano un po' tutti gli stadi della speculazione, da quello più antico

(n. 302¹) ai successivi cicli: del *Tahrir* (n. 312), della *Tadkira* (n. 311), di *al-Azhār* (nn. 303, 313 a, 317², 341), di *al-Bahr az-zahhār* (nn. 303, 307²), del *Bayān* (n. 319²). Giudicate dal punto di vista della novità, 12 sono le opere di cui non si possiedono finora altre copie, ossia quelle corrispondenti ai nn. 302², 303, 316², 327², 332, 333⁴, 335¹⁴, 338, 353 (di letteratura non yemenita), 356, 361 = 365, 367, ma di queste, in verità, le più interessanti sono soltanto i nn. 302², purtroppo acefalo, e 322, purtroppo apodo. D'altra parte, sono ben 13 quelle di cui esiste un solo altro ms. conosciuto: i nn. 302¹, 312, 313 b, 328², 329, 334⁴, 334⁶, 335², 335⁶, 358, 360², 363⁴, 374; e per almeno 5 di esse il ms. della presente collezione è il più antico. Infine, di altri 5, i nn. 304, 313 a, 315, 335³, 341³, sono note soltanto due altre copie che, nel caso del n. 341³, hanno data più recente. Rilievi, tutti questi, che autorizzano un giudizio abbastanza lusinghiero circa l'interesse che non pochi di questi mss. possono presentare per l'edizione dei testi contenuti.

In senso assoluto, i codici qui descritti non vantano una ragguardevole antichità; le eccezioni sono pochissime e comunque modeste, poiché anch'esse non vanno oltre il sec. VII/XIII. È però giusto osservare che la produzione scientifico-letteraria, da una parte, e l'attività scrittoria, dall'altra, si fecero nel Yemen singolarmente intense nei secoli XI/XVII e XII/XVIII e che pertanto i mss. di opere emananti dalla cultura zaidita o, più in generale, yemenita e risalenti a data più arretrata, formano una limitata minoranza anche nelle altre collezioni sopra menzionate (i loro codici più antichi contengono perlopiù opere della letteratura classica). D'altra parte, l'antichità è condizione sufficiente, ma non necessaria, del pregio di un ms.; così, tra quelli segnalati come presenti in redazione unica, alcuni, anche se non sono testi di primaria importanza, datano dal sec. XIII-XIX (cf. specialmente il n. 303) o addirittura dal sec. XIV/XX (segnalo il n. 327², che è il solo scritto noto di Yahyà b. al-Husayn b. al-Qāsim). L'ultimo rilievo, del resto negativo, si riferisce alla generale assenza di particolari pregi artistici e calligrafici con la sola eccezione, forse, dei due esemplari del Corano (nn. 369, 370) e del n. 374, le cui miniature sono peraltro recenti.

Per quanto riguarda la descrizione, essa è stata divisa in due parti: prima, quella del codice, poi quella del manoscritto (o dei manoscritti, se il codice è miscelaneo). La datazione del codice fa riferimento al secolo se mancano indicazioni esatte di data oppure se queste si riferiscono a singole parti. La descrizione del ms. si presenta più particolareggiata per le opere non note o non abbastanza ampiamente descritte nei repertori, come pure per quelle mute e non identificate; per le altre si rimanda al repertorio che ne dà più diffusa notizia. Gli elementi di cui essa si compone, si seguono nell'ordine: titolo dell'opera, con tutte le sue varianti, e nome dell'autore nella sua forma integrale, entrambi restituiti, se necessario, in tutto o in parte; contenuto dell'opera e sua divisione (dei componimenti in versi sono indicati il metro,

la rima e il numero dei versi, per facilitare eventuali riscontri); rimando all'opera del Brockelmann, tenuta come repertorio di base, e eventualmente ad altre opere tra quelle registrate a suo luogo; *incipit* e *explicit* del testo; data, e nome del copista. In molti accorgimenti, come per la numerazione delle parti dei codici miscelanei, nell'uso delle parentesi spezzate e tonde, nei rinvii ecc., ho cercato di conformarmi al modello dell'esemplare *Elenco* ⁽⁶⁾ di G. Levi Della Vida, che del resto mi è stato di preziosissimo aiuto anche in singole questioni, specialmente di onomastica, poste dallo studio dei testi. Anche gli indici, per materie, dei nomi di persona e dei titoli, sono stati compilati ad imitazione di quello, con una sola variante notevole: nel secondo e nel terzo appaiono tutti i nomi e i titoli, non solo quelli degli autori e rispettivamente delle opere, che ricorrono nel testo; e delle opere sono incluse anche quelle il cui testo è inserito nel corpo di un commento. Inoltre, agli indici è stato premesso un prospetto cronologico dei codici e un elenco in ordine cronologico dei mss. datati.

La cortesia con cui il prof. G. Levi Della Vida ha benevolmente acconsentito a leggere il dattiloscritto, ha aggiunto al debito per l'utilità della Sua opera un più immediato motivo di gratitudine: oltre che per l'amabilità nuovamente dimostratami, per gli emendamenti suggeritimi dalla Sua dottrina. Dell'una e degli altri vivamente qui Lo ringrazio.

Un doveroso ringraziamento rivolgo anche al prof. A. Bausani per avermi affidato le note da Lui prese quando, circa vent'anni or sono, preparò una provvisoria descrizione della collezione Rossi: note che peraltro il riesame dei codici mi ha indotto a rielaborare in modo autonomo.

Modesta, si diceva, è la collezione a cui è dedicato il presente lavoro; ma più modesto il lavoro che su di essa ho compiuto, come potevo e sapevo, e che altri avrebbe potuto svolgere con maggiore competenza e migliore intelligenza. Perciò mi piace finire con le parole che spesso mi è capitato di leggere, quasi suggello di non convenzionale modestia apposto alla propria opera dal pio autore musulmano: *in kāna haqq^{an} fa-min tawfiq al-malik al-'allām wa-in kāna fīhi ḥata'^{an} fa-huwa min sū' ṣan' aḥqar al-anām*. Che viene a dire press'a poco così: « Se qualcosa è ben fatto, il merito è di Dio, dell'Onnisciente; se qualche errore c'è, ne ha colpa un uomo che val poco, o niente ».

R. TRAINI

Roma, febbraio 1966.

(6) Si veda più avanti nell'elenco dei cataloghi di manoscritti.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

I. — REPERTORI BIO-BIBLIOGRAFICI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE.

- Ahlw., *Register* W. AHLWARDT, *Verzeichnis der arabischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin*. Bd. X, *Register und Schrifttafeln*.
- Br. G. C. BROCKELMANN, *Geschichte der arabischen Literatur*. Weimar-Berlin 1898-1902, 2 voll.
- Br. S. id., *Supplementband* I, II, III. Leiden 1937-1942.
- Chauvin, *Bibl. ar.* V. CHAUVIN, *Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes publiés dans l'Europe chrétienne de 1810 à 1885*. Liège 1892-1922.
- Dozy, *Supplément* R. DOZY, *Supplément aux dictionnaires arabes*. Leyde-Paris, 1927, 2^{ème} ed., 2 voll.
- E.I. *Encyclopédie de l'Islam, dictionnaire géographique, ethnographique et biographique des peuples musulmans*. Leyde 1908 sgg.
- E.I.² Seconda edizione (francese) di E. I. Leiden 1954 sgg.
- Fihrist* Ibn an-Nadīm, *Kitāb al-Fihrist, mit Anmerkungen herausgegeben von G. Flügel*. Leipzig 1871-1872, 2 voll.
- Ḥ.Ḥ. Ḥ ā ḡ ḡ ī Ḥ a l ī f a, *Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum [Kaṣf az-zunūn] ... edidit latine vertit ... G. Flügel*. Leipzig-London 1835-1858.
- Ibn Ḥallikān, *Wafāyāt* Aḥmad b. Muḥammad Ibn Ḥallikān, *Vitae illustrium virorum [Kitāb Wafāyāt al-a'yān] ... arabice edidit F. Wüstenfeld*. Göttingen 1835-1843, 4 voll.
- Kaḥḥāla 'Umar Riḍā Kaḥḥāla, *Muḡam al-mu'allifin. Tarāḡim muṣannifi 'l-kutub al-'arabiyya*. Damasco 1376-1381/1957-1961, 15 voll.
- Mas'ūdī, *Murūḡ* 'Alī b. al-Ḥusayn al-Mas'ūdī, *Les Prairies d'or*, texte et trad. par C. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille. Paris 1861-1877, 9 voll.
- Muḥibbī Muḥammad Amīn b. Faḍlallāh al-Muḥibbī, *Ḥulāṣat al-aṣar fī a'yān al-qarn al-ḥādī 'aṣar*. Cairo 1284/1867, 4 voll.
- Munaggid Salahuddin AL-MUNAJJID, *A dictionary of Arabic manuscripts edited between 1954-1960*. Beirut 1962.
- RIMA* *Revue de l'Institut des manuscrits arabes (Maḡallat Ma'had al-maḥfūṣāt al-'arabiyya)*. Cairo 1375-1384/1955-1964, voll. I-IX.
- RSO* *Rivista degli Studi Orientali*. Roma 1907 sgg.
- Sarkis Y. I. SARKIS, *Muḡam al-maṭbū'āt al-'arabiyyā wa'l-mu'arraba (Dictionnaire encyclopédique de bibliographie arabe)*. Cairo 1326-1328/1928-1930.
- Šawkānī Muḥammad b. 'Alī a š - Š a w k ā n ī, *al-Badr at-ṭūli bi-maḥāsin man ba'd al-qarn as-sābi'*. Cairo 1348/1929, 2 voll.
- Šawkānī, *Muḥḥaq* Muḥammad b. Muḥammad Z a b ā r a, *Muḥḥaq al-Badr at-ṭūli*. (Appendice al vol. II dell'opera precedente).
- al-Wāsi'i, *Ta'riḥ* 'Abdalwāsi' b. Yahyā al-Wāsi'i, *Ta'riḥ al-Yaman al-musammā Fargat al-humūm wa'l-huzn fī ḥawādiḡ wa-tawāriḡ al-Yaman*. Cairo 1346/1927.
- Wüstenfeld, *Jemen* F. WÜSTENFELD, *Jemen im XI. (XVII.) Jahrhundert. Die Kriege der Türken, die arabischen Imāme und die Gelehrten*. Göttingen 1885. (*Abhandlungen der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen* XXXII.)

- Yāqūt Y ā q ū t b. 'Abdallāh ar-Rūmī, *Mu'ğam al-buldān*, herausgegeben von F. Wüstenfeld. Leipzig 1866-1873, 6 voll.
- Zabāra Muḥammad b. Muḥammad Z a b ā r a, *Nayl al-waṭar min tarāğim riğāl al-Yaman fi 'l-garn aṭ-tāliq 'aṣar*. Cairo 1348-1350/1929-1931.
- ZDMG *Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft*. Leipzig 1847 sgg.
- Ziriklī Ḥayraddīn az - Ziriklī, *al-A'lām*. Cairo 1373-1378/1954-1959, 2^a ed., 10 voll.

2. - CATALOGHI DI MANOSCRITTI.

- Ambr. E. GRIFFINI, *Lista dei manoscritti arabi Nuovo Fondo della Biblioteca Ambrosiana di Milano*, in *Rivista degli studi orientali* III 253-278, 571-594, 901-921, IV 87-106, 1021-1048, VI 1283-1316, VII 51-130, 565-628, VIII 241-367, e in volume col titolo *Catalogo dei manoscritti arabi di nuovo fondo della Biblioteca Ambrosiana di Milano*. Vol. I: codici 1-475. Roma 1910-1919.
- Bagdad Awqāf Muḥammad As'ad ṬALAS, *al-Kaššāf 'an maḥṭūṭāt ḥazā'in kutub al-awqāf (Al-Kuchchaf. Catalogue générale (sic) des manuscrits arabes de la Bibliothèque générale des Wakfs de Bagdad)*. Bagdad 1372/1953.
- Bagdad Awqaf² 'Abdallāh al-Ğubūrī, *al-Mustadrak 'alā 'l-Kaššāf ilh*. Bagdad 1385/1965.
- Berl. W. AHLWARDT, *Verzeichnis der arabischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin*. Voll. I-X, Berlin 1887-1899 (*Die Handschriften-Verzeichnisse der königlichen Bibliothek zu Berlin VII-IX, XVI-XXII*).
- Birmingham Isl. *Catalogue of the Mingana Collection... in the Selly Oak Library*. Vol. IV. *Islamic Manuscripts* by H. L. Gottschalk (Parts I-II). Birmingham 1948, 1950.
- BM W. CURETON, C. RIEU, *Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in Museo Britannico asservantur. Pars II Codices Arabicos amplectens*. Londinii 1847-1871.
- BMS C. RIEU, *Supplement to the Catalogue of the Arabic manuscripts in the British Museum*. London 1894.
- Bodl. II A. NICOLL, E. B. PUSEY, *Bibliothecae Bodleianae codicum manuscriptorum orientalium catalogi partis secundae volumen primum et secundum*. Oxonii 1871-1885.
- Brat. *Arabische, türkische und persische Handschriften der Universitätsbibliothek in Bratislava...*: K. Petráček, *Die arabischen Handschriften...* Bratislava 1961.
- Brill-H.² M. T. HOUTSMA, *Catalogue d'une collection de manuscrits arabes et turcs appartenant à la maison E. J. Brill à Leide*. Leide, 2. éd. 1889 (ora nella Biblioteca dell'Università di Princeton).
- Bühār *Catalogue raisonné of the Bühār Library*, vol. III *Catalogue of the arabic Manuscripts in the Bühār Library* by M. Ḥidayat Husain. Calcutta 1923.
- Cairo² *Fihrist al-kutub al-'arabiyya al-mawğūda bi-Dār al-Kutub al-Miṣriyya li-ğāyat šahr siptimbir* 1925. Voll. II-VI, Cairo 1345-1348/1926-1934.
- Cairo³ F. SAYYID, *Fihrist al-maḥṭūṭāt: našra bi'l-maḥṭūṭāt allātī 'qṭanathā ad-Dār min sana 1936-1955*. Voll. I-III, Cairo 1380-1383/1961-1963.
- Cambridge 2nd Suppl. A. J. ARBERRY, *A second supplementary handlist of the Muhammadan Manuscripts in the University Colleges of Cambridge*. Cambridge 1952.
- Chester Beatty A. J. ARBERRY, *The Chester Beatty Library. A Hand-List of the Arabic Manuscripts*. Voll. I-VII. Dublin 1955-1964.
- Damasco Zāh. Yūsuf al-'Išš, 'Izza Ḥ a s a n, 'Abdalğani ad - D a q i r, *Fihrist maḥṭūṭāt Dār al-kutub aṣ-Zāhiriyya*. Voll. I-IV, Damasco 1947-1964.

- Dembski W. DEMBSKI, *Katalog rekopisów arabskich (Katalog rekopisów orientalnych ze zbiorów polskich V. 1.) (Catalogue des manuscrits arabes [Catalogue des manuscrits orientaux des collections polonaises V. 1.]*). Warszawa 1964.
- Esc.² H. DERENBOURG, E. LÉVI-PROVENÇAL, H. P. I. RENAUD, *Les manuscrits arabes de l'Escurial*. Voll. I-III, Paris 1884, 1903, 1928, 1939.
- Garr. Ph. K. HITT, N. A. FARIS, B. 'ABD-AL-MALIK, *Descriptive Catalogue of the Garrett Collection of Arabic Manuscripts in the Princeton University Library*. Princeton 1938.
- Gotha W. PERTSCH, *Die arabischen Handschriften der herzoglichen Bibliothek zu Gotha*. Gotha 1878-1892 (*Die orientalischen Handschriften der herzoglichen Bibliothek zu Gotha I*).
- Hels. J. ARO, *Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der Universitätsbibliothek zu Helsinki*. Helsinki 1958 (*Helsingin Yliopiston Kirjaston Julkaisuja [Publications of the University Library at Helsinki]* 28).
- Kazan *Opisanie arabskih rukopisej prinadležavših Biblioteke Imperatorskago Kazanskago Universiteta*. Kazan 1854-1855.
- Leeds J. MACDONALD, *Catalogue of oriental manuscripts*. Fasc. I-VI, Leeds 1958-1962.
- Leid.² M. J. DE GOEJE, M. T. HOUTSMA, T. W. JUYNBOLL, *Catalogus codicum Arabicorum Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae*. Editio secunda, I-II 1. Lugduni-Bataavorum 1888-1907.
- Manch. H. MINGANA, *Catalogue of the Arabic manuscripts in the John Rylands Library Manchester*. Manchester 1934.
- Mešh. Muḥammad Waliḥān A s a d i, *Fihrist-i kutub-i Kitābhāneh-i Āstāneh-i quds Riğawī*. Ṭūs 1305-1329/1926-1950.
- Moskva INA. 2 *Katalog arabskih rukopisej Instituta Narodov Azii Akademii Nauk SSSR*: 2. - A. I. MIHAJLOVA, *Geografičeskie sočinenija*, Moskva 1961.
- Münch. Gl. E. GRATZL, *Die arabischen Handschriften der königl. Hof- und Staatsbibliothek zu München, in Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft XXII*, 1918, 194-200.
- Nasrallah J. NASRALLAH, *Catalogue des manuscrits du Liban*. Voll. I-III, Harissa-Beyrouth 1958, 1963, 1961.
- Paris M. G. DE SLANE, *Bibliothèque Nationale. Catalogue des manuscrits arabes*. Paris 1883-1895.
- ID. E. BLOCHET, *Bibliothèque Nationale. Catalogue des manuscrits arabes des nouvelles acquisitions (1884-1924)*. Paris 1925. (Continua, anche nella numerazione, l'op. precedente).
- Rabat V. S. 'A l l ū š (Allouche), 'A. a r - R a ğ r ā ğ i (Ragragui), *Fihris al-maḥṭūṭāt al-'arabiyya al-maḥṭūṭa fi 'l-Ḥizāna al-'amma bi-Ribāṭ al-faṭḥ (Catalogue des manuscrits arabes de Rabat. Deuxième série)*. Vol. I-II, Paris-Rabat 1954-1958.
- Rāmpūr *Fihrist Kitāb 'Arabī (Catalogue of Arabic Books in the Rāmpūr State Library)*. Rāmpūr 1902.
- RIMA Degli elenchi di manoscritti pubblicati dalla rivista sono citati quelli delle seguenti biblioteche: Šan'a' al-Ğami' al-kabīr (I 195-209); Šibīn al-Kōm (II 264-285); Teheran Hikmat (III 14); Zangān Faḍlallāh (III 34-36); Teheran Ḥanğī (III 55-65); Zagazig (III 79-104); Taṅṭa (III 237-265); Maṣūra (IV 259-300); Fez Kattānī (V 174-189); Kazimiyya Ḥusayn 'Alī Maḥṭūz (VI 15-58); Dūḥa (IX 3-46); Mossul Sa'id ad-Diveğī (IX 203-230).
- Sbath F. P. SBATH, *al-Fihris (Catalogue de Manuscrits Arabes)*. I^{ère} et 2^{ème} parties + Supplément. Le Caire 1938-1940.
- Soc. As. G. VAJDA, *Catalogue des manuscrits arabes de la Société Asiatique de Paris*, in *Journal Asiatique*, 1950, 1-29.
- Taškent *Sobranie vostočnyh rukopisej Akademii Nauk Uzbekskoj SSSR*. Pod redakcij... A. A. Semenova (I D. G. Voronovskogo, il vol. VI). Voll. I-VI, Taškent 1952-1963.

- Teheran Ḥuqūq Muḥammad Taqī Dāniš Pažūh, *Fihrist-i nusḥehā-i ḥattī-i Kitābhāneh-i Dānišgāh-i Ḥuqūq wa-'ulūm-i siyāsī wa-iqtisādī-i Dānišgāh-i Tih-rān* (Catalogue méthodique, descriptif et raisonné des Manuscrits de la Bibliothèque de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Économiques de l'Université de Téhéran). Teheran 1380/1961.
- Teheran Univ. Muḥammad Taqī Dāniš Pažūh, *Fihrist-i Kitābhāneh-i markazī-i Dānišgāh-i Tih-rān* (Catalogue méthodique, descriptif et raisonné des Manuscrits de la Bibliothèque Centrale de l'Université de Téhéran). Voll. IX, X, XI, XIV, Teheran 1380-1381/1961-1962.
- Vat. V. G. LEVI DELLA VIDA, *Elenco dei manoscritti arabi islamici della Biblioteca Vaticana: Vaticani, Barberiniani, Borgiani, Rossiani*. Città del Vaticano 1935 (Studi e Testi 67). Id., *Secondo elenco dei manoscritti arabi islamici della Biblioteca Vaticana*. Città del Vaticano 1965 (Studi e Testi 242).
- Voorhoeve P. VOORHOEVE, *Handlist of Arabic manuscripts in the Library of the University of Leiden and other collections in the Netherlands*. Lugduni Batavorum 1957 (Bibliotheca Universitatis Leidensis, Codices manuscripti VII).
- Wien G. FLÜGEL, *Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der kaiserl.-königl. Hofbibliothek zu Wien*. Wien 1865-1867.
- Wien Gl. *Kurzer Katalog der Glaser'schen Sammlung arabischer Handschriften, verfasst von Prof. Dr. Max Grünert (Prag)*. Manoscritto, non pubblicato, da me consultato in microfilm.
- Yale L. NEMOY, *Arabic Manuscripts in the Yale University Library*. New Haven 1956 (*Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences*, vol. 40, 1-273).

301 (Rossi 1)

Dat: 4 muḥarram 1327 (1909); 0,358 × 0,238; ff. 148 di 18 righe; *nashī* corsivo; ff. 1-33 e f. 50 v inquadri; ff. 1-50, nomi geografici e puntini divisorii in rosso; f. 3 v, carta dell'ecumene in rosso, con didascalie in nero; ff. 1-5, numerazione araba per pagina e, sotto il numero, indicazione del contenuto della pagina; rileg. orientale in tela nera.

k. *Ṣifat ḡazīrat al-'Arab*.

Autore: Abū Muḥammad al-Ḥasan b. Aḥmad b. Ya'qūb b. Yūsuf b. Dāwūd a l - H a m d ā n ī (m. 334/945). V. nn. 322 323.

Descrizione della penisola arabica. Per il contenuto, cf. Berl. 6059.

Br. G I 229, S I 409 (per gli altri mss., cf. l'ediz. di D. H. Müller, *Al-Hamdānī's Geographie der arabischen Halbinsel*, Leiden 1884-1891, v. 2, p. VIII-IX; da aggiungere Yale 1357; quanto a Paris 5822, si tratta del ms. Schefer di cui parla Müller, *op. cit.*, p. v e segg. ed è copia di Köprülü 1067, uno dei 5 mss. usati per l'edizione); Ziriklī II 192; Kaḥḥāla III 204; Sarkīs 73.

Inc., dopo la *basmala*: معرفة افضل البلاد المعمورة افضل البلاد المعمورة من شق
الارض الشمالي الى الجزيرة الكبرى

Term.: عملت الارجوزة وكمل بكمالها كتاب جزيرة العرب
Senza nome di copista.

302 (Rossi 2)

Probabilmente secolo XI/XVII; 0,325 × 0,235; ff. 136 di 31 righe; *nashī* di due mani diverse; ff. 1-20, rubriche in nero ripassato in rosso; ff. 21-50, rubriche in nero; ff. 50-136, rubriche in nero ripassato in rosso, con parziale vocalizzazione e punti diacritici in rosso; alcune brevi note marginali; rileg. orientale in tela, deteriorata; ff. 9-50 molto deteriorati dall'umidità; sul dorso, tassello con scritto il titolo.

¹ (ff. 1-50) *Badā'i' al-anwār wa-maḥāsīn al-ātār yusammā ayd^{on} bi-kitāb Iḥtilāf 'ulamā' ahl al-bayt*. Noto anche con il titolo *Amālī Aḥmad b. 'Isā, Kitāb Aḥmad b. 'Isā*. Mutilo.

Autore: Aḥmad b. 'Isā b. Zayd b. 'Alī b. al-Ḥusayn b. 'Alī b. Abī Ṭālib (m. 240/854 o 247/861 secondo Ziriklī I 182).

Corpus di tradizioni, raccolto da Abū Ġa'far Muḥammad b. Manṣūr b. Yazīd al-Muqri' a l - M u r ā d ī al-Kūfī (m. 290/903 ca.: Kaḥḥāla XII

53), che costituisce, in ordine di tempo, il secondo o, secondo altri, il terzo compendio di diritto zaidita.

La parte contenuta nel ms. comprende: (f. 1 v) *k. at-tahāra*; (f. 13 r) *k. aṣ-ṣalāh*; (f. 35 v) *k. az-zakāh*; (f. 42 v) *k. aṣ-ṣiyām*; (f. 46 v) *k. al-ḥaḡḡ*, interrompendosi al *bāb mā dukira fī nikāh al-muḥrim wa-aklihi fī-mā aṣāba 'l-ḥalāl*. La materia è anche divisa, indipendentemente dall'argomento, in *ḡuz'*: 1° (ff. 1 v-22 r), 2° (ff. 22 r-31 r), 3° e 4°, indicati insieme (ff. 31 r-49 r) 5° (ff. 49 r-...).

Br. S I 314: citato un solo altro ms., Ambr. H 135 (dat. 567/1172; descritto da E. Griffini, *Die jüngste ambrosianische Sammlung arabischer Handschriften*, in *ZDMG*, LXIX, 64-65).

Inc.: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِهِ نَسْتَعِیْنُ رَبِّ وَوَقَفْنِیْ لِاتْمَامِهِ قَالَ اَخْبَرْنِی السَّیِّدُ الشَّرِیْفُ الْاَجَلُّ الْاَوْحَدُ الْاَسْمَاءُ بَدْرُ الدِّیْنِ دَاعِیْ اَمِیْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ یَحْیٰی بْنِ یَحْیٰی بْنِ النَّاصِرِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ مَنَاوَلَهُ وَاجَازَهُ... قَالَ حَدَّثَنِیْ اَحْمَدُ بْنُ عِیْسٰی بْنِ زَیْدٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلْوَانَ عَنْ اَبِیْ خَالِدٍ عَنْ زَیْدٍ عَنْ اَبِیْثَةَ عَنْ عَلِیِّ عَمِّ اَنْهُ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْمَخْرَجَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الرَّجْسِ النَّجْسِ الْخَبِیْثِ الْمَخْبُثِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ

Term. *ex abrupto*, ma la scrittura è quasi illeggibile, per la deteriorazione del foglio.

² (ff. 51-136 r) Raccolta acefala e anonima di tradizioni (molte delle quali introdotte con il termine *hikāya*) su argomenti di contenuto teologico, giuridico ed etico. È divisa in 64 *bāb*, ognuno dei quali incomincia con l'*isnād* seguente: dal *qādī* l'imām Aḥmad b. al-Ḥasan al-Kannī (الكنی); cf. Yāqūt IV 312), dal suo maestro Faḥraddīn Abū 'l-Ḥusayn Zayd b. al-Ḥasan b. 'Alī al-Bayhaqī, da Maḡdaddīn 'Abdalmaḡīd b. 'Abdalḡaffār b. Abī Sa'd al-Astarābādī az-Zaydī, da Abū 'l-Ḥasan 'Alī b. Muḥammad b. Ḡa'far al-Ḥasanī, *naqīb* (forse il *naqīb al-aṣrāf*) di Astarābād, il quale trasmise nel raḡab 518/1124, dal padre Abū Ḡa'far Muḥammad b. Ḡa'far b. 'Alī Ḥalīfa al-Ḥasanī e da Mustafīn bi-'Ilāh Abū 'l-Ḥasan 'Alī b. Abī Ṭālib Aḥmad b. al-Qāsim al-Ḥasanī al-Āmulī, dall'imām Abū Ṭālib Yaḥyā b. al-Ḥusayn b. Hārūn al-Ḥasanī (l'imām a n - N ā ṭ i q b i ' l - ḥ a q q a l - B u ṭ ḥ ā n i, v. n. 335³), il quale trasmise nel 420-421/1029-1030. Segue, diversa per ogni caso, la serie dei trasmettitori più lontani. Non è stato possibile identificare l'op. con nessuna di quelle a carattere enciclopedico (comprese le zaidite) o precettistico-morale, né con alcuna delle raccolte di tradizioni a contenuto misto; soltanto *Niṣāb al-aḡbār wa-taḡkirat al-aḡyār*, di Sirāḡaddīn 'Alī b. 'Uṭmān b. Muḥammad b. Sulaymān a l - Ū ṣ ī (m. 569/1173; Br. G I 430, S I 765) presenta alcuni *bāb* quasi uguali (f. simile a 57,3 a 39,5 a 35,10 a 40,20 a

11,30-40 a 15-27,50 a 30,60 a 38,79 a 51, 92 a 48,97 a 58,98 a 59 e a 61,99 a 64), ma tale segnalazione è per pura curiosità. Nemmeno è identificabile l'A., verisimilmente uno zaidita, che deve essere vissuto nel secolo VII/XIII, come si deduce dalle date fornite dall'*isnād*; non identificabili ugualmente i trasmettitori sopra elencati, dei quali è tuttavia non inutile, forse, rilevare che i loro nomi recano tutti una *nisba* derivata da località persiane.

L'op. incomincia *ex abrupto*, nel corso dell'8° *bāb*, che tratta dell'*ahl al-bayt*. Seguono: 9° (f. 58 r) *fī faḡl al-'ilm wa'l-ḡaṭṭ 'alayhi*; 10° (f. 62 r) *fī ḡikr al-aḡādīf wa't-tarḡīb fī ḡifāihā*; 11° (f. 62 v) *fī ḡikr 'ulamā' as-sū' wa't-taḡdīr minhum*; 12° (f. 63 r) *fī ḡikr al-īmān wa-ḡisālihi wa-aḡlāq al-mu'min*; 13° (f. 66 r) *fī faḡl al-Qur'ān*; 14° (f. 68 v) *fī 'l-ḡuṭab wa'l-marwā'iz*; 15° (f. 77 v) *fī 'l-wuḡū' wa'l-tahāra*; 16° (f. 78 r) *fī ḡikr aṣ-ṣalāh*; 17° (f. 82 r) *fī ṣalāt al-ḡum'a*; 18° (f. 82 v) *fī ṣalāt al-'idayn*; 19° (f. 83 v) *fī 'd-du'ā'*; 20° (f. 88 r) *fī 'l-istiḡfār*; 21° (f. 89 r) *fī faḡl al-masāḡid*; 22° (f. 90 r) *fī 'z-zakāh wa's-ṣadaqa*; 23° (f. 91 r) *fī zakāt al-fitr*; 24° (f. 91 v) *fī faḡl aṣ-ṣiyām wa'l-i'tikāf wa-faḡl ṣaḡr ramadān*; 25° (f. 95 v) *fī faḡl as-saḡūr wa'l-ḡaṭṭ 'alayhi*; 26° (f. 96 v) *fī faḡl al-ḡaḡḡ*; 27° (f. 97 r) *fī faḡl al-ḡihād wa'l-muḡāhidīn*; 28° (f. 98 v) *fī 'l-amr bi'l-mā'rūf wa'n-nahy 'an al-munkar*; 29° (f. 100 v) *mimmā ḡā'a fī 'l-umarā' wa-man yatawallā 'alā 'n-nās*; 30° (f. 101 v) *fī birra al-wālidayn wa-ḡilat ar-raḡim*; 31° (f. 103 r) *fī ṣabr 'alā 'ḡtimāl kulfat al-awlād*; 32° (f. 103 v) *fī 't-tarḡīb fī 'ḡtisāb al-ḡayr*; 33° (f. 105 v) *fī 't-tarḡīb fī naf' al-mu'minīn*; 34° (f. 107 v) *fī 't-tarḡīb fī ḡusn al-ḡulq*; 35° (f. 108 r) *fī 't-tarḡīb fī ḡubb Allāh wa-ḡikr mā yuḡibbuhu*; 36° (f. 109 r) *fī 't-tarḡīb fī ḡubūl al-'uḡr*; 37° (f. 109 v) *fī 'l-ādāb wa'l-irsād ilā makārim al-aḡlāq*; 38° (f. 112 r) *fī ādāb al-aḡl*; 39° (f. 112 r) *fī 't-tarḡīb wa'(sic) ḡikr Allāh*; 40° (f. 113 v) *fī 't-tarḡīb fī ṣalāt 'alā 'n-nabī*; 41° (f. 114 v) *fī aḡbār 'Abdalmutṭalīb wa-Abī Ṭālib*; 42° (f. 115 r) *fī 't-tarḡīb fī 'n-nikāh*; 43° (f. 116 r) *fī 't-tarḡīb fī 'z-zuḡd*; 44° (f. 117 v) *fī ḡikr ar-risq*; 45° (f. 118 r) *fī ḡamm ad-du'nyā*; 46° (f. 119 r) *fī ḡikr al-wara' 'an al-maḡārim*; 47° (f. 119 v) *fī 't-taḡdīr 'an ma'aṣī' llāh*; 48° (f. 123 r) *fī 't-taḡdīr min al-maḡālim*; 49° (f. 124 v) *fī 't-taḡdīr min ṣurb al-ḡamr*; 50° (f. 125 v) *fī 'z-zinā'*; 51° (f. 126 r) *fī 't-taḡdīr min idā' li'l-mu'minīn*; 52° (f. 127 r) *fī 't-taḡdīr min al-ḡayba*; 53° (f. 127 v) *fī 't-taḡdīr min ar-ribā*; 54° (f. 127 v) *fī 't-taḡdīr min al-ḡaḡab*; 55° (f. 128 v) *fī 't-taḡdīr min ṣaḡīb as-sū'*; 56° (f. 129 r) *fī 'r-ru'yā'*; 57° (f. 129 v) *fī ḡikr raḡmat Allāh wa-luṭfihi bi-'ibādihī*; 58° (f. 130 v) *fī 'l-amrād wa'l-a'wād*; 59° (f. 132 r) *fī ḡikr al-mawt*; 60° (f. 132 v) *fī 't-ta'ziya wa'ṣ-ṣabr 'alā 'l-muṣība*; 61° (f. 133 r) *fī ḡikr al-ḡanā'iz*; 62° (f. 133 v) *fī ḡikr 'alāmāt as-sā'a*; 63° (f. 134 r) *fī ḡikr ṣafā'at an-nabī*; 64° (f. 134 v) *fī ḡikr al-ḡanna wa'n-nār*.

يا علي ما من دار فيها فرحة إلا اتبعنها ترحة وما من هم إلا وله فرح إلا هم
اهل النار وما من نعيم إلا وله زوال إلا نعيم اهل النار (sic) فإذا عيلت سبعة

فاتبعها حسنة تمر بيا سريعا وعليك بصنائع الخير فانها تدفع مصارع الشر تم
Senza data. Senza nome di copista.

303 (Rossi 3)

Sec. XIII/XIX; 0,365 × 0,240; ff. 66 di 11 righe fino al f. 15 r, poi di 7-11 righe, molto spaziate; tra f. 11 e f. 12 un foglietto volante che fa parte del testo; *nashī* grande e chiaro; rubriche in arancione e rosso; f. 2 v fregio in arancione; numerosissime note interlineari o marginali; f. 1 r un primo frontespizio dice *k. al-Azhār fī fiqh al-a'imma al-aḥār, ta'rif al-imām ... Aḥmād b. Yaḥyā b. al-Murtaḍā*, senza corrispondenza con il contenuto; f. 1 v vac.; f. 2 r il vero frontespizio, inquadrato; rileg. orientale in mezza pelle.

al-Anhār al-mutafaḡḡira min ša'ābīb al-Ġayt al-midrār wa-anābīb al-Baḥr az-zahḡār. Mutilo.

Autore: 'Abdalḡamid b. Aḡmad b. Yaḥyā (b. Muḡammad b. 'Amr) Ibn al-Mu'āfā (m. 1050/1640 ca.: Kaḡḡala V 99 e Šawkānī, *Mulḡaq* 112-114 n. 198, danno la genealogia... b. Aḡmad b. Mūsā b. 'Amr. È citato in Br. S I 489 come A. di un commento a *Mulḡat al-i'rāb* [n. 344²], di al-Ḥarīrī; in Berl. 7857.5 e Vat. V. 1083³ un suo *tahmīs* a *al-Qašīda ar-riyāḡiyya*, in lode del Profeta, di Šafīyyaddīn Abū 'I-Faḡl 'Abdal'azīz b. Sarāyā al-Ḥillī, m. 749/1349; Br. G II 159-160, S II 199-200).

L'op. è un riassunto, come informa il frontespizio, di *al-Muntaza' al-muḡtār min al-Ġayt al-midrār* (Br. G II 187, S II 244; cf. Vat. V. 1002), commento-estratto di Faḡraddīn Abū 'I-Ḥasan 'Abdallāh b. Abī 'I-Qāsim Ibn Miḡtāḡ an-Naḡ(a)rī (m. 877/1472; Šawkānī I 394-395 n. 176) a *al-Ġayt al-midrār al-muḡfattiḡ li-kamā'im al-Azhār*, commento dell'imām al-Mahdī Aḡmad b. Yaḥyā Ibn al-Murtaḡā al suo trattato *al-Azhār fī fiqh al-a'imma al-aḥār* (n. 341²). Il riassunto è integrato da materia derivata dall'altro trattato di Ibn al-Murtaḡā, *al-Baḡr az-zahḡār al-ḡāmi' li-maḡāhib 'ulamā' al-amšār*.

Si tratta, in realtà, soltanto del 1^o ḡuz' (cf. nota nel frontespizio), contenente: (f. 2 v) *k. aḡ-ṡahāra*; (f. 7 v) *k. aṡ-ṡalāḡ*, (f. 15 r) *k. al-ḡanā'iz*; (f. 17 r) *k. az-zakāḡ*; (f. 22 v) *k. al-ḡums*; (f. 24 r) *k. aṡ-ṡiyām*; (f. 26 v) *k. al-ḡaḡḡ*; (f. 33 r) *k. an-nikāḡ*; (f. 40 v) *k. aḡ-ṡalāḡ*; (f. 52 r) *k. al-bay'*; in calce al f. 66 v è annunciato il *k. aṡ-ṡuḡ'a*.

Nessun altro ms. dell'op., che non è citata in nessun repertorio. Muḡibbī II 326 e Šawkānī, *Mulḡaq* 113, attribuiscono a Ibn al-Mu'āfā un commento ad *al-Azhār*, in cui dicono che ha rispettato più di Ibn Miḡtāḡ il testo commentato. Poiché il frontespizio dà la stessa indicazione, si può dedurre che si tratti della medesima opera.

هذه التعليق الموسومة بالانوار المتفرقة
من شأبيد الغيث المذرارة وانايب البحر الزخار
لخصها الفقير الى الله تعالى عبدك عبد الرحمن بن احمد بن يحيى المعافى
لطف الله به من شرح ابن مثنى رحمه الله وغيره كالبحر ونحوه خادما
للخلافه مقررًا ما بعد في بيان مسائل هذا المختصر من الاطراف
معمدا في غايتها على اختصار الامام عليم في الكتاب بلحاظ عبارته
شرحه مع في الاعراض لطفقا بينها في المعاني موطنها لورد عبارته
المختصر في كل كلام ما يحصل به تبيين التوصل والتدريج والله
الهادي والمولى لنا في الايام واليه اتضرع ان
ينفع به ويرغب في العلم في طلبه فانه
للدعاء قرين وهو حق السميع الخبير
من خط المؤلف حمد الله
بعبارة سدي
الوقيل
العلامة
في ايام وفصحة الائمة الامام عبد الله بن ابي بصير اليام
وصلى الله على سيدنا محمد واله
وصحبه
وسلم

Inc., dopo la *basmala*: كتاب الطهارة باب النجاسات هي عشر ما خرج من سبيلي
ذی دم لا یؤکل وجلال قبل الاستحالة والمسكر وان طمخ الا الحشيشة والبنج
ونحوهما

Senza data. Senza nome di copista. Copiato per 'Abdallāh b. Ibrāhīm b. al-
imām, il cui figlio 'Alī avverte, in una nota nel frontespizio (dat. 1334/1915),
che il codice appartenne al padre.

304 (Rossi 4)

Sec. XI-XII/XVII-XVIII; 0,322 × 0,205; ff. 168 di 31 righe, inquadrate; *nashī* regolare,
scarsamente punteggiato; il testo dell'op. commentata scritto in rosso; rubriche in nero, rosso,
verde e, alla fine, anche in giallo; note marginali di varie mani; frontespizio inquadrate e
diviso in compartimenti, scritto in vari colori; rileg. orientale in mezza pelle e tela rossa.

F.I Lunga preghiera; tre righe sulle qualità del gallo, del piccione, del corvo
e dell'avvoltoio; alcuni versi e alcune *farwā'id* (sul numero delle varie opera-
zioni della preghiera in un anno; sul dono nuziale; su Gesù).

k. 'Uddat al-akyās al-muntaza' min Šifā' šudūr an-nās fī šarḥ ma'ānī 'l-Asās.

Autore: (Šamsaddīn) Aḥmad b. Muḥammad b. Šalāḥ b. Muḥammad b.
Šalāḥ b. Aḥmad al-Qāsīmī az-Zaydī a š-Šarafi (m. 1055/1646; Br. S II
550; Šawkānī I 119 n. 73; RSO VII 578-579). V. n. 335¹⁵.

Compendio di *Šifā' šudūr an-nās*, dello stesso A., che è un commento —
l'unico noto — di *al-Asās al-mutakāffil bi-kašf al-iltibās* (altro tit. *Asās li-
'aqā'id al-akyās*), trattato di teologia zaidita dell'imām al-Manšūr
bi-'Ilāh al-Qāsīm b. Muḥammad (m. 1029/1620; v. nn. 328^e 335^{10 15} 339⁹).

Il commento si riferisce: alla dossologia (f. 2 v), alla *muqāddima* che tratta
del 'ilm al-kalām (f. 4 v), al k. *at-tawḥīd* (f. 20 v), al k. *al-'adl* (f. 50 r), al k.
an-nubuwwa (f. 81 r), al k. *al-imāma* (f. 105 r), al k. *al-manzila bayna 'l-
manzilatayn* (f. 136 r), al k. *al-wa'd wa'l-wa'id* (f. 153 r), alla *ḥātima* (f. 164 v).

Br. S II 559: citato un solo altro ms., Ambr. 409 (dat. 1052/1642), ma l'op.
in esso contenuta è data come anonima, cf. RSO VII 616; framm. in Berl.
10307 ff. 15-16, BMS 1217 VI; da aggiungere Yale 1113 (dat. 1649).

al-Asās inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي فلق اصباح العقول في قلوب اعلام
بريته فاشعلها سبحانه بمصابيح الانوار القاشعة لسدول الخنادس عن نهج حق
معرفته... وبعد فانه لما كان علم الكلام هو اجل العلوم قدرا واعظمها حظا

Term.: قلنا الاعظم عند الله... وليس كذلك الا الذين شهد الله بايمانهم وحكم

بنجاتهم من عترة خاتم النبيين ختم الله لنا بمرضاته ونجانا برحمته امين

Il commento inc., dopo la *basmala*: ... الحمد لله الاول بالابتداء والآخر بالانتهاء... اختصرته من كتاب شفاء صدور الناس في شرح معاني الاساس... قال الامام المنصور بالله

Term.: رزقنا الله التوفيق لسلك سبيلهم والتمسك بهداهم والثبات على طريقتهم بحقه عليه وحق كل ذي حق لديه انه جواد كريم رؤوف رحيم

Senza data (nel frontespizio, fra le annotazioni dei successivi proprietari, la data più antica è 1167/1754). Senza nome di copista.

305 (Rossi 5)

Sec. XIII/XVIII; 0,335 x 0,235; ff. 162 di 30 righe ca.; tra f. 81 e f. 82, 16 fogli di formato 0,250 x 0,180, di 16-19 righe, numerati 81 A-81 Q; *nashī* di varie mani; rubriche in nero, rosso e giallo; tavole numeriche e disegni geometrici in rosso; ff. 3-29 inquadri; note marginali; tre foglietti volanti trascurabili, tra f. 14 e f. 15, f. 25 e f. 50; rileg. orientale in mezza pelle e tela.

¹ (f. 1 v) Frammento sulle virtù della *basmala*. Anonimo.

Inc.: اعلم ان الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم في ثلاثة مواضع

² (ff. 2 v-61 r) *k. Gawharat* (var. *Gawhara fī 'ilm*) *al-farā'id al-kāšif li-ma'ānī 'ilm* (var. *Miftāh*) *al-fā'id*.

Autore: (Badraddīn Muḥammad b. Aḥmad a n-N ā z i r ī) (sec. XI-XII/ XVII-XVIII).

Commento al trattato di diritto successorio zaidita *Miftāh al-fā'id fī 'ilm al-farā'id* (n. 341⁴) di al-Faḍl b. Abī 's-Sa'd al-'Uṣayfirī (m. 750/1417: Br. S I 702; Kaḥḥāla VIII 68). Per il contenuto di tale trattato cf. Berl. 4735.

Br. S I 702; Ambr. 9 con rimandi; da aggiungere Leid. Or. 6364.2 6643.1. (Voorhoeve 209), Wien Gl. 123-125.

Il *Miftāh* inc.: باب اسباب الميراث اسباب الميراث ثلاثة نسب ونكاح وولاء

Term.: ويبقى ربع المال للعصبة او ردها عليها وتصح المسئلة من ثلاثة بعد الرد لها سهمين وله سهم تم

Il commento inc., dopo la *basmala*: وبعد فانه ... والحمد لله على انعامه وافضاله... وسألني بعض اخواني الصالحين ان اصنع كتابا يقرب فهمه للمبتدئين

Term.: وما كان من كسب العبد او وهب له فقد صار للسيد وكذا ما اخذته السيد

من ارش جراحات العبد اذا كانت قد ارش العبد ويرد الزائد وبتمام هذا الباب تم الكتاب في الورثة ومواريتهم

Dat. ramadān 1202 (1788). Copista: Aḥmad b. Aḥmad aš-Šarafī az-Zabīdī.

³ (f. 61 v) Frammenti, in versi, di carattere cabalistico. Anonimi.

⁴ (ff. 62-66) *Tarīqa* (cf. f. 66 r, sul margine superiore) (*fī 'l-munāsaha*) (cf. Šawkānī I 117 n. 71; var. *Risāla fī 'l-munāsahāt, R. fī 'amal al-munāsahāt bi'l-ḡadwal*).

Autore: Šihābaddīn (Abū 'l-'Abbās) Aḥmad (b. Muḥammad b. 'Imād b. 'Alī) I b n a l-H ā ' i m (a l - F a r a ḍ ī) (m. 815/1512).

Trattatello sulla divisione dell'eredità con l'aiuto di tavole.

Br. G II 126, S II 155; da aggiungere Bagdad Awqāf 3258, 1 (tit. *Kayfiyyat al-munāsaha fī 'l-farā'id bi'l-ḡadwal*), Wien Gl. 268 (tit. *Kayfiyya šinā'at al-munāsaha bi'l-ḡadwal*), Cairo³ I 422, Sbath F. 249 (714). Sarkīs 912.

Inc., dopo la dossologia: قال الشيخ... شهاب الدين احمد بن الهائم فصل اعلم ان عمل المناسخة بالجدول هو من الصناعة البدعية (sic) العجيبة تلقينتها من استاذي ابو (sic) الحسن الحلّوي... ولم اراها مصدرية في مصنف وما زلت اعلمها الطلبة... وهم سألوني ان افيد بها بالعبارة

Term.: اذا قسمتها على جملة المسئلة انالها قراريط ما في جدولها والله اعلم وفسر على ذلك موافقا

Dat. 3 šawwāl 1204 (1790). Copista: Aḥmad b. Aḥmad aš-Šarafī (az-Zabīdī).

⁵ (ff. 67-80 r) *Hāšiya* (nel testo *Hāšiya*).

Autore: (Šārimaddīn) Ibrāhīm (b.) Ḥālid (b. Aḥmad b. Qāsīm a l-'U l u f ī aš-Šan'ānī) (m. 1156/1743: Šawkānī I 13 n. 7; Ziriklī I 31; con questa data è da precisare Br. S II 562). V. n. 329.

Raccolta di glosse sparse in varie opere e di nozioni che l'A. apprese dal suo maestro, Zayd b. 'Abdallāh a l-A k w a ' (m. 1166/1753; Šawkānī, *Mulḥaq* 93 n. 152), relative ai calcoli richiesti dalla divisione dell'eredità.

L'op. non è citata, ma potrebbe identificarsi con quella che l'A. incominciò a scrivere, *Hāšiya* (var. *Hawāšī* in Wien Gl. 76, unico ms. noto) '*alā 'l-Azhār fī fiqh al-a'imma al-aṭhār* (di Ibn al-Murtaḍā; v. n. 341²), senza terminarla (cf. Šawkānī I 13 n. 7); si dovrebbe dedurre, allora, che la parte composta riguarderebbe soltanto il *k. al-wašāyā*.

Inc., dopo la *basmala*: وبعد فان القاضي... احمد بن محمد الخالدي... لما اثار في شرحه على المفتاح في كتاب الوصايا في مواضع منه الى ما يحتاج المبتدئ... فجعلت حواشيا كانت متفرقة

Term.: فليس القصد إلا المعاونة على ما يرضى الله فإن كثيراً مما في هذه الحواشي مع عدم وجدان ما يبنى عليه خصوصاً في الأبواب المتأخرة

Dat. 10 šawwāl 1204 (1790). Copista: Aḥmad b. Aḥmad aš-Šarafī (az-Zabīdī).

⁶ (ff. 80 v-81) Contiene:

a) Frammento del *Muḥtaṣar* (var. *Ḍarb*) *al-Hindī*.

Autore: Abū 'Abdallāh (var. Abū Ya'qūb) Iṣḥāq b. Yūsuf b. Ya'qūb (b. 'Abdaṣṣamad) aṣ-Šarḍafī (m. 500/1106).

Br. G I 470, S I 855; Kaḥḥāla II 240.

b) *Mufīd fī ma'rifat al-ḥisāb*.

Autore: Aḥmad b. Muḥammad b. 'Abdahlādī (b. Šālīḥ b. 'Abdallāh b. Aḥmad) Qāṭin aṭ-Ṭalā'ī (m. 1199/1784; Br. S II 554; Ziriklī I 231; Kaḥḥāla II 125).

Breve scritto sulla moltiplicazione e la divisione. Non è citato, come pure lo *Šarḥ al-Qāmūs al-fā'id fī 'ilm al-farā'id*, che l'A. dice di aver composto e di cui il *Mufīd* sarebbe un'appendice.

Inc., dopo la dossologia: فلما ختمت بحمد الله شرح قاموس الفاضل في علم الفرائض رأيت ان ألحقه بما لا بد منه ويحتاج اليه من الحساب وهو الضرب والقسمة

Dat. 11 šawwāl 1204 (1790). Copista: Aḥmad b. Aḥmad aš-Šarafī (az-Zabīdī).

⁷ (ff. 81 A v-81 Q, 82-162 r) (k. *Idāḥ al-ḡamiḍ al-kāšif li-ma'ānī Miftāḥ al-fā'id*).

Autore: Šamsaddīn Aḥmad b. Muḥammad b. Dāwūd al-Ḥālidī (m. 880/1475-1476; Šawkānī, *Mulḥaq* 43 n. 75).

Commento al trattato di diritto successorio zaidita *Miftāḥ al-fā'id fī 'ilm al-farā'id* (n. 341⁴) di al-'Uṣayfirī (v. n. 2).

Contiene: (f. 81 A v) *muqaddīma*; (f. 81 G r) il commento diviso in 20 *bāb*; (f. 122 r) k. *al-waṣāyā* o 21^o *bāb*, trattato però come se fosse un'appendice; (f. 132 v) *ḥātima*, divisa in tre *mawāḍi'*: (f. 132 v) *fī mīrāt al-muṭlaqāt*, (f. 136 v) *fī 'd-ḍarb*, (f. 143 v) *fī 'l-masāḥa*. Come avverte l'A. (f. 132 v), la *ḥātima* non fa più parte del commento; su di essa cf. Ambr. 112.

Br. G I 404, S II 702; da aggiungere Wien Gl. 126.

Inc., dopo la dossologia: فان كتابنا هذا مبني على مقدمة واحد وعشرين بابا وخاتمة و المقدمّة في حدّ الغنّ وموضوعه وغايته وبيان أهله والحثّ على طلبه

Term.: ثم جذر الاربعة (الاحد sic per العشرين والمائة وجذرها احد عشر فادرج الجذر على اثنين اضربهما في مثلهما تبلغ اربعة مثل الميزان وبتمام هذا الباب تم الكتاب

Dat. raḡab 1209 (1795). Copista: Aḥmad b. Aḥmad aš-Šarafī (az-Zabīdī).

306 (Rossi 6)

Sec. XIV/XX; 0,371 × 0,242; ff. 6 di 35 righe ca.; *riq'z*, con rubriche in *nashī* rosso; in brochure.

¹ (f. 1) *Kifāyat al-murtād fī ma'rifa 'ilm an-nabā wa'l-amrād*. Altro titolo, dato più sotto: *Kifāyat al-murtād fī 'ilm* (var. *'ilmay*) *al-abwāl wa'l-amrād*.

Autore: Ibn (*sic* per Abū) 'Alī (al-Ḥusayn b. 'Abdallāh) Ibn Sīnā (m. 428/1037).

Urḡūza in 99 versi, ripartiti in 30 gruppi ineguali, ciascuno con un sottotitolo, sulle diverse caratteristiche della pulsazione e dell'urina secondo i temperamenti. L'op. non è citata tra quelle di Ibn Sīnā; H. H. V 10815 la cita come anonima. Simile ad essa per titolo ed argomento, ma non identica nel testo, è quella contenuta in Berl. 6243, Borg. 87^o (G. Levi Della Vida, *Elenco*, p. 255) Garr. 2033, 1.

Inc. in metro *raḡaz*, dopo la *basmala* e il titolo:

الحمد لله الحكيم البارئ ثم الصلاة على المختار...
وآله وصحبة ذي القرب ما عدل النسيم حرّ القلب

1^o verso: اعلم بانّ الدمويّ نبضه سريع قد تنهى عرضه
مصلياً على النبيّ التهامي مُدّ الدهور والاعوام

Term.: Senza data. La copia da cui deriva la presente è detta poco attendibile (*da'ifa*) e ad essa sono fatte risalire le licenze metriche che il testo presenta. Copista: ... aš-Šarafī (la prima parte del nome è abrassa).

² (ff. 2-5 v) Elenco, anonimo e senza titolo, di nomi di piante con i corrispondenti nomi locali yemeniti, accompagnati parzialmente da alcune notizie su di esse. Dal f. 2 v segue l'ordine alfabetico.

Inc.: السماق هو العثرب - عنب الثعلب هو العنمة - الخروع هو الجار

Dat. 22 šawwāl 1356 (1937). Senza nome di copista.

³ (ff. 5 v-6) a) *Fā'ida fī ḥawāṣṣ al-qāt*, anonima, sulle qualità della pianta *qāt* (*Catha edulis*).

È tolta da un'op. intitolata *Nūr al-abṣār wa-ḡalā' ḥawāṭir al-afkār* di Aḥmad b. 'Abdallāh b. Ismā'il aḡ-Ḍanānir (?) al-Wāqidī al-Ḥārīṭī. Opera ed A. non identificabili.

b) Notizie su altre piante; formule apotropaiche; ricette medico-magiche. Senza data. Senza nome di copista.

307 (Rossi 7)

Sec. XI/XVII; 0,304 × 0,211; ff. 299 di 34 righe ca.; *nashī* yemenita con rubriche ripassate in rosso; numerose note marginali; tra f. 175 e f. 176 un foglietto incollato, con tradizioni sugli impedimenti legali del matrimonio, tra f. 214 e f. 215 un foglietto volante con tradizioni sul testamento; f. 2r scritto di traverso; il f. 299 è solo un frammento; f. 1r vac.; rileg. orientale in tutta pelle, con impressioni a freddo.

¹ (ff. 1v-2) Contiene:

a) (f. 1v) *Martīya*, di 27 versi basit̄ *alu* per il qādī Badraddīn Muḥammad b. 'Abdalwāhid an-Nuzaylī.

Autore: Waḡīhaddīn 'Abdalqādir b. 'Īsā b. Mūsā b. Yūsuf al-Ḥiḡāzī.

Inc.: قوارع الدهر تجري ما بها حيلٌ تُغني وأيامها بين الورى دُولُ

Term.: فالحمد لله لا يصى عايمه ثنا ولن تؤخر نفسٌ إن أنا أجلُ

Senza data. Senza nome di copista.

b) (f. 2) Richiesta di parere sulla natura delle rivelazioni di alcuni santi, di 'Abdarrahīm al-Maḥzūmī al-Ḥufāšī, e risposta del giurista Muḥammad b. Abī 'l-Ḡayṭ al-Kamrānī (il padre del quale, Abū Ḡayṭ al-Kamrānī aš-Sāfi'ī è citato in Berl. 2529 e 2530). Senza data. Senza nome di copista.

² (ff. 3-298) *Ḡawāhir al-aḥbār wa'l-ātār al-mustahraḡa min baḥr al-Baḥr az-zahḡār* (altro tit. *Tahrīḡ aḡādīt al-Baḥr az-zahḡār*: Muḡibbī II 306, Šaw-kānī II 279).

Autore: 'Izzaddīn (Ḡamāladdīn, Badraddīn) Muḥammad b. Yaḡyā b. Muḡammad b. Aḡmad b. Muḡammad b. Mūsā Ibn Bahrān (m. 957/1550: Kaḡḡāla XII 109; v. nn. 317^r f. 3 328^{ab}).

Raccolta commentata delle tradizioni contenute nel *k. al-Aḡkām*, parte principale di *al-Baḥr az-zahḡār* di Ibn al-Murtadā. Per il contenuto cf. BMS 412.

Br. S II 557; da aggiungere Ambr. 224, Wien Gl. 65.

Inc.: الحمد لله الذي هدانا للدين الحنيف وعلمنا ما لم نكن نعلمه . . . وبعد فلما

كان كتاب الاحكام من البحر الزخار مما لم يُصنّف مثله في سائر الاعصار

Term.: اللهم اذنا نسألك ان تمدنا بمواد التوفيق والتسديد وان تمتنا (sic) على التوبة

والتوحيد وان تجعلنا من الأمنين يوم الوعيد وان تصلي على محمد وعلى آل محمد كما

صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم

Dat. rabī' I 1057 (1647). Senza nome di copista. Copiato per il qādī Waḡīh-addīn Ṣalāḡ b. 'Abdallāh al-Ḥayyī (cf. Ahlw., *Register*, p. 220). Collazionato e corretto nel ṣafar 1071 (1660) da Ḍiyā'addīn al-Mahdī b. 'Abdalhādī.

³ (f. 299) Richiesta di parere su una questione di divorzio, del qādī al-Ḥasan b. Aḡmad al-Ḥaymī (m. 1071/1660: Br. G II 402, S II 550-551; Kaḡḡāla III 199; v. n. 334²) e risposta dell'imām al-Muta wakkil 'alā 'Ilāh Ismā'il b. al-Qāsim (m. 1087/1676: Br. S II 560; Wüstenfeld, *Jemen*, pp. 64-68; v. nn. 334² 349² f. 3).

308 (Rossi 8)

Dat. 19 ḡumādā II 1282 (1865); 0,325 × 0,231; ff. IV, 131 di 43 righe ca.; *nashī* chiaro e regolare, con tendenza al *riq'ī*; rubriche in rosso; frontespizio di altra mano, in inchiostro viola; numerose note marginali; ff. I-IV, 126v e 131 vac.; rileg. orientale in tutta pelle con impressioni a freddo; slegato e alquanto deteriorato.

¹ (ff. 1-126r) *Ramz al-ḡaqā'iq šarḡ Kanz ad-daḡā'iq*.

Autore: (Badraddīn) Abū Muḡammad (Maḡmūd) b. Aḡmad al-'Aynī (m. 855/1451).

Commento al trattato di diritto ḡanafita *Kanz ad-daḡā'iq fī 'l-furū'*, di 'Abdallāh b. Aḡmad an-Nasaḡī (m. 710/1310), a sua volta estratto di *al-Wāfi fī 'l-furū'*, del medesimo.

In realtà, si tratta soltanto della prima parte, che arriva fino al *k. al-waḡf* (f. 124v), come Berl. 4580 nn. 1, 3, 5.

Br. G II 53 e 197, S II 266; da aggiungere Bagdad Awqāf 777-784, Kazan 52 (dato per anonimo), Nasrallah II p. 107-108, Tanta 268 (RIMA III 264). Sarkīs 1404.

Il *Kanz ad-daḡā'iq inc.* dopo la *basmala*: الحمد لله الذي أتمّ العلم في الاعصار واعلى حربه في الامصار

Term.: ومن بنى سقاية وخابا ورباطا او مقببة لم يزل ملكه عنه وان جعل شيء من

الطرق مسجدا صحّ كعكسه

Il commento inc., dopo la dossologia: ان أجل ما يتسهل به اللسان بالبيان وأشد ما يستمد به الإركان من الحنّان... وبعد فان الفقير الى رحمة ربه الغنيّ ابا محمود العينيّ... يقول لما امتحنت بما امتحنت به

Term.: وجاز لكل احد ان يمرّ فيه حتى الكافر الا الجنب والحائض والنساء لما عرف في موضعه وليس لهم ان يدخلوا فيه الدواب والله اعلم

Senza nome di copista. Collazionato da Muḥammad b. Muḥammad 'Īsà (*sic*), discepolo di Ṭālib b. Ḥasan مورنا (cf. nota al f. 126 r).

² (ff. 127-130) Contiene:

a) (ff. 127-128 r) *Tarğama šāhib al-kitāb*, anonima. Biografia di a l-' A y n ī.
b) (f. 128 v) Cenni biografici su due dotti ḥanafiti: Šams al-a'imma Abū Bakr Muḥammad b. Abī Saḥl Aḥmad a s-S a r a ḥ s ī (m. 483/1090: Br. G I 373, S I 638) e Abū 'l-'Abbās Aḥmad b. Muḥammad b. 'Umar a n-N ā ṭ i f ī (m. 446/1054: Br. G I 372, S I 636).

c) (ff. 129-130) *Fā'ida* sull'impurità causata dallo sperma, tolta da *an-Nihāya* (nel testo *al-Bidāya*) fī *šarḥ al-Hidāya*, commento di a l-' A y n ī (Br. G I 377, S I 645) al trattato di *furū'*, *al-Hidāya*, di 'Alī b. Abī Bakr a l-M a r-ḡ ī n ā n ī (m. 593/1197).

309 (Rossi 9)

Dat. šawwāl 1173 (1760); 0,315 × 0,216; ff. 238 di 30 righe ca.; *nashī* yemenita con rubriche e il testo commentato in rosso; i ff. 1-14 apparentemente di mano diversa; scarse note marginali; senza frontespizio; f. 1 r vac.; rileg. orientale in tutta pelle, rivestita di tela.

¹ (ff. 1 v-238 r) (*Tuḥfat al-muḥtāḡ bi-šarḥ al-Minhāḡ*).

Autore: (Aḥmad b. Muḥammad b. 'Alī I b n Ḥ a ḡ a r a l-H a y t a m ī) (m. 973/1565).

Commento al trattato di diritto sciafita *Minhāḡ at-ṭālibīn*, di Abū Zakariyyā Yaḥyā b. Šaraf a n-N a w ā w ī (m. 676/1278).

In realtà, si tratta soltanto di una prima parte (il primo *ḡuz'*, meno il *k. al-ḥaḡḡ*). Il commento riguarda: (f. 1 v) la dossologia, (f. 6 r) la *muqaddima*, (f. 13 v) *k. at-ṭahāra*, (f. 60 r) *k. aṣ-ṣalāt*, (f. 168 r) *k. al-ḡanā'iz*, (f. 189 r) *k. az-zakāh*, (f. 219 r) *k. aṣ-ṣiyām*, (f. 234 v) *k. al-i'tikāf*.

Br. G I 395 e II 389, S I 681; da correggere l'attribuzione a I b n Ḥ a ḡ a r a l-H a y t a m ī di Paris 1011 e 4546, il cui autore è invece Ġalāladdīn Muḥammad b. Aḥmad a l-M a ḡ a l l ī, (m. 864/1459); da aggiungere Dam. Zāh. 1966, Bagdad Awqāf 1163-1170, Yale 1003, Birmingham Isl. 401. Sarkīs 82.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي جعل لكل امة شرعة ومنهاجا... وبعد فانه طال ما خطر لي ان اتبرك بخدمته شيء من كتب... ابي زكريا يحيى التواوي

Term.: واعترضه ابن الصلاح بانه صلعم كان يعتكف نضلا ولا يخرج لذلك ويحث الملقيني ان الخروج لعيادة نحو رحم وضار وصديق افضل والله اعلم

Senza nome di copista. Copiato per 'Alī b. 'Abdallāh b. 'Umar al-Qulaysī.

² (f. 238 v) Richiesta di parere, anonima, sull'uso dell'acqua per irrigazione, con risposta di Šafiyyaddīn Aḥmad Ḥablān (Ḥablān?) al-Ḥaḍramī.

310 (Rossi 10)

Sec. XI-XII/XVII-XVIII; 0,300 × 0,197; ff. 214, di cui ff. 1-16 e 147-214 di 30 righe ca., ff. 17-145 di 18 righe ca.; i ff. 1-146 di carta giallastra e spessa, i ff. 147-214 di carta bianca, lucida e più sottile; *nashī* inelegante e scarsamente punteggiato nei ff. 1-16, grosso e punteggiato nei ff. 17-145, minuto ed elegante nei ff. 147-214; ff. 17-80 con numerosissime note marginali e interlineari; tranne nei ff. 1-16, rubriche in nero e in rosso, punteggiatura parzialmente in rosso e, nei ff. 147-214, il testo commentato in rosso; ff. 147 v-214 r inquadri; ff. 1, 5, 6 r, 9 v, 145 v, 146, 214 v vac.; tra f. 128 e f. 129 foglietto volante con un brano sul divorzio, tra f. 143 e f. 144 un foglietto volante con appunti logico-grammaticali, tra f. 206 e f. 207 un foglietto volante con appunti vari a penna e a matita; ff. 1-22 corrosi dai vermi, gli ultimi fogli restaurati con incollature; rileg. orientale in mezza pelle.

¹ (ff. 2-4) Frammento acefalo e apodo di un'opera grammaticale.

Inc.: عينا واما النون فيكون علامة للرفع في الفعل المضارع اذا اتصل به ضمير تثنية

Term.: وتسمى النواسخ ونواسخ الابتداء وهي ثلاثة انواع الاول

² (ff. 6-9) *Ġāyat al-amānī fī 'ilm al-ma'ānī*.

Autore: (Izzaddīn Abū 'Abdallāh Muḥammad b. Abī Bakr b. 'Abdal'azīz I b n Ḡ a m ā 'a) (m. 819/1416: Br. G II 94, S II 111; Ziriklī III 282).

Trattatello di retorica, diviso in una *muqaddima*, 3 *fann* e una *ḥātima*. I 3 *fann* trattano: (f. 6 v) 'ilm al-ma'ānī, (f. 8 r) 'ilm al-bayān, (f. 8 v) 'ilm al-badī'.

Br. S II 112: citato un solo altro ms., Cairo² II (non I), p. 212, che è molto più antico (dat. 854/1450).

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي نور قلب من اصطفاه لدرك المعاني... اما بعد فهذه مقدمة وضعتها في علم المعاني ليسهل على المبتدئ حفظها

Term.: ينبغي للمتكلم ان يتأثق في ثلاثة مواضع احدها الابتداء ثانيها التخلص ثالثها الانتهاء

Dat. 6 šafar 1208 (1793). Copista: 'Alī b. Yaḥyā b. Aḥmad (b. Maḍmūn) al-Baraṭī (cf. Ahlw., *Register*, p. 279).

³ (ff. 10-15) *al-Ummūdağ fī 'n-naḥw*.

Autore: (Ġārallāh) Abū 'l-Qāsim Maḥmūd b. 'Umar b. Muḥammad a z-Z a m a ḥ š a r ī (m. 538/1144).

Estratto di *al-Mufaṣṣal* (v. nn. 310⁵ 321).

Br. G I 291, S I 510; da aggiungere Garr. 328, Šibīn al-Kōm 58, 3 (RIMA II 271), Tanta 41, 1 e 141 (RIMA III 242, 253), Brat. 321. Sarkīs 974.

Inc., dopo la dossologia: قال الاستلا ابو القسم محمود بن عمر بن محمد الزغشري...

اما اسم كرجل واما فعل كضرب واما حرف كقد

Term.: هاء السكت تراد في كل متحرك حركته غير اعرايية للوقف خاصة نحو ثمه وحيهله وماليه وماهيه وسلطانيه ولا تكون الا ساكنة وتحريكها لحن والله اعلم

Senza data. Copista: 'Alī b. Yaḥyā b. Aḥmad (b. Maḍmūn) al-Baraṭī.

⁴ (f. 16) Frammenti vari: a) *fā'ida* sull'etimologia del nome Allāh, citata da uno *Šarḥ al-Mufaṣṣal* di Muḥammad Ibn Dihqān b. 'Alī b. Abī Bakr b. 'Alī aš-Šamanī al-Kundī (?), che la riporta da un *k. Ištiqāq* (probabilmente il *k. Ištiqāq asmā' Allāh* di Abū 'l-Qāsim 'Abdarrahmān b. Ishāq a z-Z a ḡ-ḡ ā ḡ ī, m. 337/949; Br. S I 170-171). Questo commento è sconosciuto: Br. S I 512 cita un Muḥammad b. Dihqān 'Alī an-Nasafī (vissuto intorno al 700/1300) come autore di un commento a *Nawābiğ al-kalim* di az-Zamaḥšarī, e non si può escludere che si tratti della stessa persona, nonostante la diversità delle *nisba*, che, se è esatta la lettura aš-Šamanī (da un villaggio presso Astarābād, cf. Yāqūt III 323) al-Kundī (da un villaggio presso Samarcanda, cf. Yāqūt IV 309), si riferiscono tutte e tre a località sufficientemente vicine; b) *ḥadīṭ*, anonimo e senza *isnād*, sulla fretta; c) appunti grammaticali da *al-Mufaṣṣal* e dal già citato commento di Ibn Dihqān.

⁵ (ff. 17-145) *al-Mufaṣṣal fī 'ilm al-i'rāb*. V. n. 321.

Autore: (Abū 'l-Qāsim) Maḥmūd b. 'Umar a z-Z a m a ḥ š a r ī (v. n.³.)

Br. G I 291, S I 509 (senza indicazione dei numerosissimi mss.); da aggiungere Wien Gl. 209. Sarkīs 975.

Inc., dopo la *basmala*: الله اجد على ان جعلني من علماء العربية وجبلني على الغضب للعرب والعصبية

Term.: واذا كانوا ممن يذفون مع امكان الادغام في يتسع ويتقي فهم مع عدم امكانه احلاف (sic)

Senza data. Senza nome di copista. Le ultime 6 righe al f. 145 r sono aggiunte da altra mano.

⁶ (ff. 147-214 r) *al-Fawākih al-ğaniyya 'alā Mutammimat al-Āğurrūmiyya*.

Autore: (ʿAfīfaddīn, Ġamāladdīn) 'Abdallāh b. Aḥmad al-Fākihī (m. 972/1564; Br. G II 380, S II 512; Kaḥḥāla VI 28).

Commento alla *Mutammimat* (var. *Tatimmat*) *al-Āğurrūmiyya*, di Ġamāladdīn (var. Šamsaddīn) Muḥammad b. Muḥammad b. 'Abdarrahmān b. Ḥasan al-Ḥ a ṭ ṭ ā b a r - R u ' a y n ī (m. 954/1547), la quale è a sua volta un complemento di *al-Muğaddima al-Āğurrūmiyya*, di Abū 'Abdallāh Muḥammad b. Muḥammad b. Dāwūd aš-Šanhāğī Ibn Āğurrūm (m. 723/1323; Br. G II 237-238, S II 332-335).

Br. G II 238, S II 334, 512 (dove impropriamente il titolo è *Šarḥ al-Āğurrūmiyya*); da aggiungere Bagdad Awqāf 2522, Leeds 286. Sarkīs 1432.

La *Mutammima* inc., dopo la dossologia: وبعد فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل آجرومية

Term.: وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين
Il comm. inc., dopo la dossologia: فهذا تعليق لطيف وضعته على المقدمة
الموضوعة في العربية تأليف سيدنا وصاحبنا... محمد بن الشيخ محمد الرعيني الشهير بالخطاب

Term.: وليكن هذا آخر ما تيسر بوجه على هذه المقدمة جعله الله خالصا لوجهه الكريم وموجبا للفوز لديه بجمته وكرمه

Dat. rabī' II 1092 (1681). Senza nome di copista. Copiato per il qādī 'Alī b. Yaḥyā b. Aḥmad (b. Maḍmūn) al-Baraṭī.

311 (Rossi II)

Dat. 2 ramadān 1056 (1646); 0,311 × 0,207; ff. 276 di 10-15 righe, con largo margine occupato dal commento; *nashī* regolare, di carattere più minuto nel commento, ma della stessa mano; rubriche e punti divisorii in rosso; due frontespizi, ai ff. 1 v e 2 r, di cui il primo, più recente, con inquadrature e ornamenti in inchiostro roseo, contenenti entrambi 5 versi in lode dell'A.; foglietti volanti tra f. 113 e f. 114, f. 146 e f. 147 (qaṣīda in lode di un dotto), f. 165 e f. 166 (specie di lettera di testimonianza, dat. ġumādā I 1250 (1834); rileg. orientale in tutta pelle con impressioni a freddo.

a) (ff. 1 v-275) *at-Taḍkira al-fāhira fī fiqh al-'itra aṭ-ṭāhira*.

Autore: (Šarafaddīn) al-Ḥasan b. Muḥammad b. al-Ḥasan a n-N a ḥ w ī (m. 791/1389).

Trattato di diritto zaidita. Si tratta in realtà soltanto del 1° *ġuz'*, comprendente: (f. 2 v) *k. at-ṭahāra*, (f. 27 r) *k. aṣ-ṣalāh*, (f. 68 r) *k. al-ġanā'iz*, (f. 76 r) *k. az-zakāh*, (f. 99 r) *k. aṣ-ṣiyām*, (f. 108 r) *k. al-ḥaġġ*, (f. 134 r) *k. an-nikāh*, (f. 169 v) *k. at-ṭalāq*, (f. 216 v) *k. al-bay'*, che termina con il *bāb al-iḥtilāf*. Per il contenuto del 2° *ġuz'* cf. BMS 354.

b) (ff. 2 v-275, in margine) *al-Kawākib an-nayyira al-kāšifa li-ma'ānī 't-Tadkira*.

Autore: 'Imā d d d ī n Yaḥyā b. Aḥmad b. Muḥammad Ibn Muza f a r (m. 875/1470-1471: Šawkānī II 325-326 n. 571; cf. anche Ambr. 356).

Commento di a).

Br. G II 186, S II 243; da aggiungere Wien Gl. 85 87-89 90 (soltanto il 2° *ġuz'*), contenenti la *Tadkira*; Wien Gl. 86 contiene un suo commento, che ne segue fedelmente il testo, ma non si è potuto stabilire se si tratta di *al-Kawākib an-nayyira*.

La *Tadkira* inc., dopo la *basmala*: كتاب الطهارة ندب لقاضي الحاجة ان يبعد

ويستتر عن الناس ويقدم رجله اليسرى دخولا ويعتمدها واليمنى خروجا

Term.: ولو تبايعا في ارضين فبان عيب باحدهما فقال مشتربيها اشتريتها بارضي فاستردّها وقال الآخر بالدراهم ثم بعثها بها بين قبل القبض لا بعده فالآخر

Il commento inc., dopo la *basmala*: قوله ان يبعد وحدّ البعد حيث لا يرى ولا يجس غيره بصوت حدثه ولا ريحة لأن اسماع الغير صوت الحدث يحظر

Term.: فانهما متخالفان ويُفسخ بيع هذه الارض السليمة من العيب لاختلافهما في ثمنها: Senza nome di copista. Copiato per il qāḍī Ṣalāḥaddīn Ṣalāḥ b. 'Abdallāh b. Ibrāhīm b. 'Izzaddīn al-Ḥayyī (cf. Ahlw., *Register*, p. 220). Collazionato, sia il testo sia il commento, il 20 ša'bān 1059 (1649).

F. 276 r contiene un responso, in materia di compravendita, del qāḍī 'Abdalqādir b. 'Alī b. Yaḥyā b. 'Abdarrahmān al-Muḥayrisī (m. 1077/1666, autore di un commento a *al-Azhār* di Ibn al-Murtaḍā: Šawkānī I 370-371 n. 246; Br. G II 187, S II 245), dat. ramadān 1140 (1728). F. 276 v contiene una genealogia del Profeta.

312 (Rossi 12)

Senza data, ma probabilmente del sec. XI/XVII (f. 206 v, nota di un proprietario dat. 1053/1643-1644); 0,285 × 0,201; ff. 208 di 28-29 righe; carta giallastra, spessa; *nashī* rosso, scarsamente punteggiato; ff. 206 r e 207 in carattere più minuto, di altra mano; rubriche in rosso; al f. 177 il testo si interrompe dopo 12 righe, cui seguono un *abġad*, esercizi di lettura

e curiose figure alfabetico-ornamentali, molto rozze; f. 206 v occupato da versi e altre scritte, con frammenti di carta incollati; bella rileg. orientale in tutta pelle con impressioni a freddo e arabeschi, deteriorata.

az-Zuhūr al-mušriqa wa'n-nafahāt al-'abiqa (altro tit. *az-Zuhūr 'alā k. al-Luma'*). Mutilo.

Autore: Šamsaddīn (var. N a ġ m a d d ī n) Yūsuf b. Aḥmad b. Muḥammad b. 'Uṭmān al-Yamanī (m. 832/1428: Šawkānī II 350 n. 586).

Commento a *al-Luma' ilā k. at-Tahrīr*, di Ġamāladdīn al-Muṭahhar 'Alī b. al-Ḥusayn b. Yaḥyā b. al-Hādī (vissuto all'inizio del sec. VI/XII), che è a sua volta un commento e un rifacimento del trattato di diritto zaidita *at-Tahrīr fī 'l-fiqh*, dell'Imām an-Nāṭiq bi 'l-Ḥaqq Abū Ṭālib Yaḥyā b. al-Ḥusayn b. Hārūn al-Buṭḥānī (v. n. 335³).

Si tratta, in realtà, soltanto di parte del 1° *sifr*, diviso in: 1° *ġuz'*, comprendente (f. 6 r) *k. at-ṭahāra*, in 8 *bāb*, (f. 39 v) *k. aṣ-ṣalāh*, in 15 *bāb*, (f. 102 v) *k. al-ġanā'iz*, in 8 *mawḍi'*, (f. 110 r) *k. az-zakāh*, in 6 *mawḍi'*, (f. 134 v) *k. al-ḥums*, in 3 *mawḍi'*, (f. 137 v) *k. aṣ-ṣiyām*, in 5 *mawḍi'*, (f. 149 r) *k. al-ḥaġġ*, in 11 *mawḍi'*; 2° *ġuz'*, comprendente (f. 178 r) *k. an-nikāh*, in 11 *mawḍi'* ...

Br. G II 113, S II 251: citato un solo altro ms., Berl. 4887 (dat. 841/1438; ivi il nome dell'A. è al-Muṭahhar b. 'Alī, ma cf. Ambr. 108, in *RSO* III 906). L'identificazione di BMS 364 con questa op. non trova conferma nella sua divisione interna; anche il *bāb al-ġusl*, con cui tale ms. incomincia, nel presente ms. è diverso.

Il *k. al-Luma'* inc. (f. 3 r): قوله بسم الله الرحمن الرحيم روى ابو عيسى الزجاج
عن النبي معلّم ان عيسى بن مريم معلّم أفتد بين يدي مؤدّب فقال له المؤدّب قل
بسم الله الرحمن الرحيم

Il commento inc.: الحمد لله الذي سنّ لعباده مسالك الرشاد... وبعد فإنه تكرر
الطلب من جاعة من الاخوان الصالحين... لجمع تعليق على كتاب اللمع

Term. *ex abrupto*: واسلم ودخل الاخر في الذمة ولو ادعى الولد
Senza nome di copista.

313 (Rossi 13)

Sec. XII/XVIII; 0,319 × 0,218; ff. 162 di 31 righe; *nashī* yemenita; rubriche in nero e in verde; tra f. 156 e f. 157 foglietto volante con appunti lessicali, tra f. 158 e f. 159 frammento di un foglio di altra opera di diritto; appunti vari sul retro dei piatti; rileg. orientale in mezza pelle, con risvolto e ornamenti di carta verde incollata, molto corrosa dai vermi e scucita.

a) *Gāyat at-tahqīq wa-nihāyat at-tadqīq*.

Autore: (Šamsaddīn) Aḥmad b. Yaḥyā b. Aḥmad b. Muḥammad Ibn Ḥābis (ad-Dawwārī) (m. 1061/1651: Šawkānī I 127 n. 78; Br. S II 559). V. nn. 335¹⁶ 346.

L'op. non è citata, con questo titolo, in nessun catalogo nè dal Br. L'esame del testo ha però consentito di identificarla con il *Takmīl šarḥ al-Azhār al-Muntaza' min al-Ġayt al-midrār*, complemento di Ibn Ḥābis ad-Dawwārī a *al-Muntaza' al-muḥtār min al-Ġayt al-midrār*, di Faḥraddīn Abū 'l-Ḥasan 'Abdallāh b. Abi 'l-Qāsīm Ibn Miḥtāḥ an-Nağ(a)rī (v. n. 303).

Si tratta, in realtà, soltanto del 1° *ġuz'* acefalo, per la mancanza probabilmente di un solo foglio (la *basmla* deve essere stata premessa in un secondo tempo), e mutilo. Comprende il commento a parte della *muqaddima* (f. 1 v) ed ai *kitāb* seguenti: (f. 3 v) *aṭ-ṭahāra*, in 7 *bāb*; (f. 23 r) *aṣ-ṣalāh*, in 10 *bāb*; (f. 57 v) *al-ḡanā'iz*; (f. 65 v) *az-zakāh*, in 8 *bāb*; (f. 79 r) *al-ḥums*; (f. 81 v) *aṣ-ṣiyām*, in 3 *bāb*; (f. 87 r) *al-ḥağğ*, in 4 *bāb*; (f. 109 v) *an-nikāh*, in 3 *bāb*; (f. 134 r) *aṭ-ṭalāq*, in 9 *bāb*, che s'interrompe al *bāb ar-riḍā'*.

Br. G II 187, S II 244. Dei mss. citati, solamente Berl. 4927 (che finisce con il *k. az-zakāh*) e soprattutto BMS 374 (che giunge fino al *bāb al-ḥal'* del *k. aṭ-ṭalāq*; dat. 1083/1672) coincidono in parte o, rispettivamente, in tutto con il presente manoscritto; Berl. 4928 e BMS 376 contengono il 3° *ġuz'*, BMS 375 e Ambr. 217 il 2°. Del ms. Münch. Gl. 61 non è specificato il contenuto. Il presente ms., dunque, oltre ad essere il solo a fornire il titolo specifico del *Takmīl*, è una delle due (o tre) copie del 1° *ġuz'*.

Inc. *ex abrupto*, dopo la *basmla*: قوله (التقليد) وهو قبول قول الغير المراد بالقبول العزم على العمل بقوله.

Term.: قلت فعلى هذا لها ان تدافعه ولو بالقتل في الرضاع المجمع عليه وكذا في المختلف فيه قبل ان يحكم بعدمه حاكم هكدي قرر الجزء الاول بحمد الله ومنه

Dat. 10 rabī' I 1148 (1735). Copista: 'Alī b. al-Ḥusayn b. Šamsaddīn (Muḥammad) b. Ibrāhīm Ġaḥḥāf. Copiato per Šarafalislām al-Ḥasan b. (Šamsaddīn) Muḥammad b. al-Ḥusayn Ġaḥḥāf (cf. Vat. V. 1078).

b) (ff. 23-28 r, in margine) *aṭ-Ṭamānī 'l-masā'il al-marḍiyya fī bayān ittifāq ahl as-sunna 'alā sunan aṣ-ṣalāh wa'z-Zaydiyya*.

Autore: (Izzaddīn) Muḥammad b. Ismā'il (b. Šalāh) al-Amīr (al-Kahlānī) (m. 1182/1768; da osservare che Br. dedica all'A. della presente op. tre voci distinte: S II 556 n. 4, S II 562 n. 14, dove è da correggere Šawkānī II, e S II 902 n. 54!). V. nn. 339²⁵ 371.

Risposta ad un anonimo richiedente, in cui l'A. dimostra che gli Zaiditi devono eseguire la preghiera come i Sunniti. Le otto questioni si riferiscono

ad altrettanti particolari della preghiera: *raf'*, *ḍamm*, *tawarruk*, *išāra*, *tawağğuh*, *du'ā'*, *ta'mīn*, *qirā'a ḥalfa 'l-imām*. Precede (ff. 23-26 r, in margine) una *muqaddima fī ma'rifat ahl al-bayt*, divisa in: 1° *qawl, innahum allādīn hurrimat 'alayhim aṣ-ṣadaqa*; 2° *qawl, inna ālahu azwāğuhu wa-ḍurriyyatuhu*; 3° *qawl, inna ālahu atbā'uḥu ilā yawm ad-dīn*; 4° *qawl, inna ālahu hum al-atqiyā' min ummatihī*.

Br. S II 556: citato un solo altro ms., Brill-H.² 1138 (dat. 1219/1804-1805), ora Garr. 1621.

Inc., dopo la *basmla*: قال السائل... ما لفظه الحمد لله... اما بعد فاناطوب... من افادة مولانا... محمد بن اسماعيل الامير... نقل مذاهب العاملين من اهل البيت

عم من ألسنة العلماء الاعلام من افعال واقوال كتبت في الصلاة مثل الرفع والضم

Term.: واطرح اللوم للوامه والحمد لله

Dat. 15 ġumādā II 1244 (1828). Copista: Yaḥyā b. al-Ḥusayn al-Mağannī (?). Dello stesso al-Amīr sono riportati, sul frontespizio, 6 versi citati dal *k. Ġam' aṣ-ṣatīt šarḥ abyāt at-Taṭbīt (at-Taṭbīt fī 'ilm at-tabyūt*, di Ġalāladdīn as-Suyūṭī: Br. G II 151, S II 187).

314 (Rossi 14)

Sec. XI/XVII; 0,301 × 0,204; ff. 168 di 34-38 righe; *nashī* yemenita scarsamente punteggiata; rubriche e qualche intero brano in rosso; i versi commentati in arancione; scarse note marginali; f. 1 restaurato; rileg. orientale in mezza pelle, molto più recente.

¹ (ff. 1-157 v) *Ma'ātir al-abrār fī tafṣīl muğmalāt Ġawāhir al-aḥyār wa-yusammā al-Lawāḥiq an-nadiyya li'l-Ḥadā'iq al-wardiyya*.

Autore: Ġamāladdīn Muḥammad b. 'Alī b. Yūnus b. 'Alī Ibn az-Zuḥayf (scrise l'op. nel 916/1510: cf. f. 159 v; Šawkānī II 232 n. 488).

Commento alla qaṣīda *Ġawāhir al-aḥbār fī siyar al-a'imma al-hādīn al-aḥyār*, detta anche *Bassāmat ahl al-bayt* o *al-Bassāma aṣ-ṣuğrā* (v. n. 319^{2b}), di Šārimaddīn Abū Muḥammad Ibrāhīm b. Muḥammad b. 'Abdallāh b. al-Hādī (Muḥammad) b. Ibrāhīm b. 'Alī Ibn al-Wazīr (m. 914/1508; v. nn. 314² 317² 319^{2b}); e al tempo stesso, come indica il secondo titolo, continuazione di *al-Ḥadā'iq al-wardiyya fī dīkr (manāqib) a'immat az-Zaydiyya*, di Ḥusāmaddīn Abū 'Abdallāh Ḥumayd b. Aḥmad b. 'Abdalwāhid al-Maḥallī (m. 652/1254: Br. G I 325, S I 560). Il commento incomincia al f. 9 v; per il contenuto dell'introduzione, cf. Berl. 7915.

Br. G I 325 II 188 (corretto da S II 248), S I 560; da aggiungere Leid. Or. 6327 (Voorhoeve 42), Cairo³ III 1.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي شرح صدور اوليائه بموالات العناية... اما بعد

فان افضل القرب رعاية حقوق اهل الرتب

Primo verso: الدهر ذو عبر عظمى وذو غيرٍ وصرفه شامل للبدو والحضر

Ultimo verso: صلى الله عليهم بعد ما طلعت شمس وما حقت الهالات بالقمر

Dat. 28 dū 'l-qa'da 1070 (1660). Copista: Ḥusayn b. Aḥmad b. 'Uṭayfa ('Aṭifa?) b. Sa'īd b. Ḥāḡib.

² (ff. 157 v-159) Biografia di Ibrāhīm b. Muḥammad Ibn al-Wazīr (v. n. ¹), contenente alcune sue poesie. Autore: lo stesso del n. ¹.

³ (ff. 160-168) Miscellanea contenente: (f. 160 r) *ḥuṭba ṣalāt al-kusūf*; (f. 160 v) *ḥuṭba yudkar fihā 'l-istisqā' yawm al-ḡum'a*, *ḥuṭba uḥrā yudkar fihā ni'mat Allāh wa-ḥusn iḡābatihī*; (f. 161 r) un *ḥadīṭ* sciita, un *faṣl* sul *tiryāq*, dat. 1074/1663; (f. 161 v) un *ḥadīṭ* su Mosè, altri sciiti; (f. 162 r) *ḥuṭbat al-istisqā' yuḥṭab bihā fī 'l-muṣallā*; (ff. 163-167) *dīkr band min aḥwāl sirat al-imām al-Mutawakkil 'alā 'llāh Šarafaddīn (Yaḥyā) b. Šamsaddīn b. al-Mahdī (Aḥmad b. Yaḥyā Ibn al-Murtadā)* (m. 965/1557: Br. G II 405, S II 557-558; Ziriklī IX 185; v. n. 342⁴), comprendente, dopo alcune notizie biografiche: il commento dell'Imām a due *ḥadīṭ* riportati nello *Šarḥ as-sunna*, di Abū Muḥammad al-Ḥusayn b. Mas'ūd al-Baḡawī (m. 516/1122: Br. G I 363-364, S I 620-622), (ff. 165 r-166 r) una *risāla* allo sceriffo della Mecca Abū Muḥammad b. Barakāt b. Muhammad, dat. 1 muḥarram 1071 (1660), (ff. 166 r-167 r) una *marṭiya* e una *risāla*, ugualmente di condoglianze, per la morte del *faqīh* Badraddīn Muḥammad b. Ibrāhīm (m. 900/1494) e dei suoi figli Faḥraddīn 'Abdallāh b. Muḥammad e Ḡamāladdīn 'Alī b. Muḥammad, dat. 1 muḥarram 1071 (1660) e copiate, come la precedente *risāla*, da Ḥusayn b. Aḥmad b. 'Uṭayfa ('Aṭifa?) b. Sa'īd b. Ḥāḡib, (f. 167 r-v) *qaṣīda basīṭ li* e *qaṣīda basīṭ ri*, scritta quest'ultima per il figlio al-Muṭaḥhar (m. 980/1572-1573; cf. Vat. V. 1083²⁵, con rimandi), entrambe di contenuto parenetico; (f. 167 v) *ḥuṭba yudkar fihā 'l-ḡihād, ḥadīṭ masḡid Šan'ā'*, un *ḥadīṭ* su 'Umar b. al-Ḥaṭṭāb ed un altro su 'Alī; (f. 168 r) una *ḥuṭba* senza titolo, un *ḥadīṭ* sul Profeta e alcune ricette mediche; (f. 168 v) versi vari, di contenuto zaidita, tra cui alcuni con *taḥmīs*. Su quest'ultimo foglio, la data ḡumādā II 1074 (1663) e il nome del copista Ḥusayn b. Aḥmad b. 'Uṭayfa ('Aṭifa?) b. Sa'īd b. Ḥāḡib.

315 (Rossi 15)

Dat. 22 rabī' II 1225 (1810); 0,300 × 0,203; ff. 200 di 26 righe, inquadrate; *nashī* regolare, con rubriche in nero, rosso e verde; scarse note marginali; f. 1 restaurato; tra f. 1 e

f. 2 nove piccoli ottagoni di carta lucida, scritti su ambe le facce, contenenti iscritte in un cerchio delle *sūre* coraniche; rileg. orientale in tutta pelle con impressioni a freddo.

Buḡyat al-murīd wa-uns al-farīd ilā ma'rifat ansāb al-a'imma al-a'lām wa's-sāda al-kirām ḡurriyyat as-sayyid al-ḡalīl 'Alī b. Muḥammad b. 'Alī b. ar-Rašīd.

Autore: 'Āmir b. Muḥammad b. 'Abdallāh b. 'Āmir b. 'Alī b. Muḥammad b. 'Alī ar-Rašīd (m. 1135/1723).

Storia dei discendenti dello zaidita Ibn ar-Rašīd, dal 1000 ca./1591 al 1130/1717-1718. Sull'importanza e il contenuto dell'op., cf. BMS 545.

Br. S II 552; citati due soli altri mss.: Cairo² V p. 59, più antico (dat. 1206/1792), e BMS 545, più recente (dat. 1290/1873); in entrambi il titolo è *Buḡyat al-murīd wa-uns (anīs) al-farīd fīman waladahu 's-sayyid 'Alī b. Muḥammad b. 'Alī b. ar-Rašīd.*

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي هو على تغاير الازمنة الى مجود وبتحول الايام وتداولها بين الناس بقدرته حكيم... وبعد فانه لما طرق سمعي من بعض ابناء السادة الاعلام... علمت يقينا انه قد جهل النسب من نفسه واهله

Term.: فمنهم مشايخ العلوم ومرجع الخلووم واليههم يرجع عند المهمات ويستنزل بهم الخيرات والبركات

Copista: Muḥammad b. Yaḥyā aš-Šuwayṭa (?). Copiato per 'Abdarrahmān b. Aḥmad b. Luṭfallāh (?).

316 (Rossi 16)

Sec. XII/XVII-XVIII (la data della copia deve essere compresa tra il 1097/1686, anno a cui arriva l'esposizione dei fatti, e il 1192/1778, che è la più antica data tra quelle segnate al f. 4 r dai successivi possessori del codice); 0,305 × 0,202; ff. 95 di 18-20 righe; *nashī* apparentemente di mani diverse e scarsamente punteggiato; ff. 1 r e 32 v vac.; ff. 1 r, 11 r, 85 v, 86 r inquadrate; due frontespizi, f. 1 r e f. 4 r; foglietti volanti tra f. 35 e f. 36 e tra f. 41 e f. 42; rileg. orientale in mezza pelle e cartone.

¹ (ff. 1 v-3) Giudizi sull'op. seguente: a) (ff. 1 v-2 r) di 'Imādaddīn Yaḥyā b. Ibrāhīm (b. 'Alī) a l-Ḡ a ḥ ḥ ā f i (al-Ḥabūrī) (m. 1117/1705: Br. S II 545, da correggere secondo Kaḥḥāla XIII 182); b) (ff. 2 v-3 r) di Muḥammad b. 'Abdallāh b. al-Ḥusayn b. al-Qāsīm (cf. Vat. V. 1053 f. 9 v); c) (f. 3 r-v) in forma di *qaṣīda ṭawīl āqī*, di Aḥmad b. Aḥmad (b. Muḥammad) a l-Ā n i s i (al-Hādawī al-Qahda az-Zanama) (m. 1119/1707: Br. G II 399, S II 545; Kaḥḥāla I 153).

(ff. 4-95 r) *Rawḍat al-mayyā' fī ta'rīḥ al-imām al-Qāsim wa-awlādihī al-ḥulafā' wa'l-umarā' al-a'lām*.

Autore: Muḥammad b. Aḥmad a l-H a b a l (al-Hiball) (vissuto nel sec. XII/XVII-XVIII).

Storia, in prosa rimata, degli Imām zaiditi del sec. XI/XVII. Contiene, senza particolari divisioni, le notizie sui seguenti: (f. 7 r) al-Manṣūr al-Qāsim b. Muḥammad, (f. 26 r) al-Mu'ayyad Muḥammad b. al-Qāsim, (f. 57 r) al-Mutawakkil Ismā'īl b. al-Qāsim, (f. 81 v) al-Mahdī Aḥmad b. al-Ḥasan b. al-Qāsim, (f. 86 v) al-Mu'ayyad Muḥammad b. Ismā'īl b. al-Qāsim.

L'op. e l'A. non sono citati da alcun repertorio. L'A. è probabilmente figlio del letterato yemenita Aḥmad b. 'Abdallāh b. Sa'īd a l-H a b a l, ancora vivente nel 1080/1669 (cf. Berl. 7993, 8616.4; Wüstenfeld, *Jemen*, p. 69), e fratello di 'Alī b. Aḥmad a l-H a b a l (cf. Vat. V. 1087).

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي جعل الايام دولا بين عباده وقضيا بالعاقبة للمتقين بحكم امره ومراده... وبعد فهذا مجموع اوراقه تثمر الثناء واحاديث اخباره طيبة الجنا

Term.: وفي شهر جمادى الاخرى (Jac.) ادنت شمس فضله بالغروب واستاثر به علام الغيوب فنقله الى دار السعادة لينال في مورد الصادقين ودار الخلود الحسنى وزيادة

Senza data. Senza nome di copista.

F. 95 r-v contiene appunti sulle date di morte dei califfi « ortodossi » alidi, di altra mano.

317 (Rossi 17)

Sec. XI/XVII; o,304 × o,200; ff. 229 di 12-18 righe alquanto spaziate; *nashī* con rubriche in rosso fino al f. 187 e nei ff. 220-227; ff. 228 e 229 in *nashī* di altra mano, rosso e non punteggiato; numerose note marginali e interlineari; i ff. 83, 144, 177, 178 sono in realtà fogli volanti, estranei al codice; altri fogli volanti tra f. 6 e f. 7, f. 17 e f. 18, f. 43 e f. 44, f. 44 e f. 45, f. 51 e f. 52, f. 73 e f. 74, f. 88 e f. 89, f. 100 e f. 101, f. 122 e f. 123, f. 166 e f. 167, f. 194 e f. 195, contenenti perlopiù frammenti di contenuto giuridico; i primi ff. restaurati; rileg. orientale in tutta pelle con risvolto e impressioni a freddo, molto deteriorata.

¹ (ff. 1-10) Miscellanea contenente, oltre a *fawā'id* da opere giuridiche, ad alcuni *ḥadīṭ* e sentenze morali: (f. 1 r) i primi 16 versi di una *qasīda ṭawīl rī*; (f. 2 v) una *qasīda rā* di 18 versi; (ff. 3-4) *Lāmiyyat al-'Arab* (Br. S II 557, da correggere così: Berl. 7972, 4 8306 f. 32; Vat. V. 1065²³ 1135⁴ 1186⁴; Ambr. B 74 XXVIII; v. n. 328^{4b}), di (Ḡamāladdīn (Badraddīn) Muḥammad b. Yaḥyā b. Muḥammad) Ibn Bahrān (v. n. 307²), con *taḥmīs* anonimo

(inc.: لا تجنحن الى الاهمال والامل وتتبع النفس في التسوييف والعلل واعمل بقول (الذي أسمى على رجل الجد في الجدّ ما اومض البرق في term. في الحمرمان في الكسل فانصب نُصب عن قريب غاية الامل (الديجور مبيتسما وما سفحت دموع العارض الهطل), dat. raḡab 1067 (1657);

(f. 4 v) i primi 6 versi di *Bānat Su'ād* (n. 339²⁷), di Ka'b b. Zuhayr, con *taḥmīs* diverso da quelli noti (Br. G I 39, S I 68); (f. 6 v) richiesta di parere, in versi, del *faqīh* Ḡamāladdīn 'Alī b. Yaḥyā الذانسي, e risposta, pure in versi, di 'Izzaddīn Muḥammad b. Salāḥ al-Falakī (m. 1074/1663-1664: Šawkānī, *Muḥaq* 201-202 n. 371); (f. 7 r) versi di Šamsaddīn Aḥmad b. 'Abdallāh Ibn al-Wazīr (m. 985/1557: Br. G II 405, S II 558), di 'Abdallāh a l-M a z z ā ḥ (Muzzāḥ) (v. nn. 328¹ *passim* 342³ f. 44 r), in morte di Ḡamāladdīn al-Hādī (Muḥammad) b. Ibrāhīm Ibn al-Wazīr (m. 822/1420: Br. G II 186, S II 243-244; v. nn. 335² 342³), e di 'Izzaddīn Muḥammad b. al-Manṣūr 'Abdallāh b. Ḥamza, alcuni dei quali per il fratello Aḥmad b. 'Abdallāh; (f. 7 v) versi di 'Abdallāh b. al-imām al-Mutawakkil Šarafaddīn (Yaḥyā) (m. 993/1585: Šawkānī I 383-384 n. 260; Br. S II 549; v. n. 331 f. 18 v), e dello *šayḥ* Muḥammad al-Bakrī (cf. Berl. 3706); (f. 9 r) racconto di un attacco al porto di Muḥā da parte di navi portoghesi, avvenuto il 25 dū 'l-ḥiḡḡa 1080 (16 maggio 1670), scritto da Ḥusayn b. al-Muṭahhar a l-Ḡ u r m ū z ī, governatore della città (probabilmente figlio di al-Muṭahhar b. Muḥammad a l-Ḡ u r m ū z ī, m. 1077/1666: Br. G II 402, S II 551; Kaḥḥāla XII 295); (f. 10 r) versi di Muḥammad b. 'Abdallāh b. al-Hādī b. Ibrāhīm (Ibn al-Wazīr), indirizzati al figlio (l'A. della *Hidāya*, v. n.²), ed altri di quest'ultimo; versi dell'Imām (a l-H ā d ī a l-M u t a w a k k i l) Aḥmad b. Sulaymān (m. 566/1170: Br. G I 402, S I 699; Ziriklī I 129; Kaḥḥāla I 239) e di al-Muṭahhar b. Muḥammad b. Tāḡaddīn; (f. 10 v) elenco esplicitivo delle abbreviazioni usate nella *Hidāya* (v. n.²), una *urḡūza* dell'A. della *Hidāya* sulla sua opera, versi del qāḏī Ḡamāladdīn Šālīḥ b. 'Abdallāh b. al-Ḥasan b. Ḥanaš (?) sull'imām a l-M a n ṣ ū r al-Qāsim b. Muḥammad, notizie sulle tombe degli Imām zaiditi, da uno scritto dell'imām al-Mahdī Aḥmad b. Yaḥyā (Ibn al-Murtaḏā) ed altre sulle tombe di altri personaggi, da uno scritto di Muḥammad b. Šalāḥ b. Yaḥyā العطاربي.

² (ff. 11-229) *Hidāyat al-afkār ilā ma'ānī 'l-Azhār fī fiqh al-'itra al-aḥār*.

Autore: Šārimaddīn Abū Muḥammad Ibrāhīm b. Muḥammad b. 'Abdallāh b. al-Hādī Ibn al-Wazīr (v. nn. 314² 317¹ f. 10r 319^{2b}).

Commento a *al-Azhār fī fiqh al-'amma al-aḥār* (v. n. 341²) di Aḥmad b. Yaḥyā Ibn al-Murtaḏā.

Br. G II 188, S II 248; da aggiungere Leid. Or. 6696 (Voorhoeve 33, dove però l'op. è attribuita a un Šarimaddīn Ibrāhīm b. Muḥammad as-Suḥūlī, m. 1060/1650, ignoto), Zangān Faḍlallāh 18 (RIMA III 35), Wien Gl. 77.

Inc., dopo la *basmala*: التقلید فی مسائل الفروع العملية القطعية والظنية جائر لاغير یجتهد الا فی عملي یترتب علی علمی كالمالاة والمعلاة

Term.: ترك له نصيب اكثر الحمل عادة وهو نصيب اربعة ذكور والله اعلم
Senza data. Senza nome di copista.

318 (Rossi 18)

Sec. IX/XV; 0,284 x 0,205; ff. 230 di 26-29 righe; *nashī* regolare, scarsamente punteggiato; rubriche in nero e rosso; frontespizio in rosso; scarse note marginali; foglietto volante tra f. 206 e f. 207, di contenuto giuridico; f. 230 v vac.; rileg. orientale in tutta pelle, molto deteriorata, di cui è rimasto soltanto il dorso e il piatto inferiore.

¹ (ff. 1-224 v) *Minhāğ at-tahqīq wa-mahāsīn at-talfīq fī usūl ad-dīn*.

Autore: 'Imādaddīn Yaḥyā b. Ḥasan b. Mūsā a l-Q u r a š ī (al-Qiršī? Cf. D. H. Müller, *op. cit.*, I 218 r. 15) (vissuto nel sec. VIII/XIV). V. n. 339¹⁶ 20.

Trattato di dogmatica zaidita. Per il contenuto, cf. Berl. 1870.

Br. S II 995. Il presente ms. è quasi coevo di Berl. 1870 (dat. 854/1450); Vat. V. 985 (dat. 885/1480) è un poco posteriore; di Ambr. D 539, F 30 47 non è fornita la data.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الدال على ذاته وصفاته بعجائب مصنوعاته... اما بعد فان اهم التكليف علم العقائد وان الظفر بالحق فيه اجل الفوائد

Term.: ولم يحصل دليل قاطع مثل هذا على جوازها في غيرهم والاصل عدم الجواز فيبقى هذا الجواز في حق غيرهم منغيا على الاصل

Dat. 10 ḡumādā I 858 (1454). Copista: 'Abdallāh b. Muḥammad b. Aḥmad b. 'Abdallāh b. Yaḥyā b. Ḥamza. Copiato per Sulaymān b. 'Alī al-Ġahrānī.

² (ff. 224 v-229) *k. al-Mu'attirāt wa-miftāḥ al-muškilāt*.

Autore: Ḥusāmaddīn (Abū Muḥammad) al-Ḥasan b. Muḥammad b. al-Ḥasan a r-R a ṣ ṣ ā ṣ (m. 584/1188; il *nasab*... b. Aḥmad b. Ibrāhīm, dato da Kaḥḥāla III 196, deve essere corretto secondo RSO II 156).

Trattatello sull'essenza di Dio. Per il contenuto, cf. Berl. 2366.

Br. S I 700; da aggiungere Cairo³ III 140; Šan'a' kalām 190 (RIMA I 203).

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله خالق الارضين والسموات... سالت... ان اوضح لك بجة القول في المؤثرات وما يجري مجراها من الشروط والمقتضيات

Term.: وقد بينا على الكلام في ذلك على طريق الاجال دون التفصيل والله ولي التوفيق
Dat. ḡumādā I 858 (1454). Il presente ms. è il più antico di tutti quelli noti. Copista: lo stesso nel n.¹.

³ (f. 230 r) *Qaṣīda ṭawīl fā*, di 42 versi, dell'A. del n.¹, che la scrisse in occasione di un viaggio in 'Irāq e che in essa si duole dell'infedeltà degli amici e delle vicissitudini della sorte.

Primo verso: تذكر من عهد الوفا ما تعرفا وأصبح رسم الصدق في الناس قد عفا

Ultimo verso: سلام على المعروف قد مات ذكره كما مات ذكر الصدق في الناس والوفا

Senza data. Senza nome di copista.

319 (Rossi 19)

Sec. XI/XVII; 0,285 x 0,194; ff. 202 di 34 righe ca.; *nashī* minuto, con rubriche in nero, rosso e verde; ff. 83-92 inquadriati; alcuni fogli restaurati; foglietti volanti tra f. 104 e f. 105 (versi citati da un Ebreo contro alcuni dotti sciafiti di Zabīd, che erano Muḡabbira, con risposta in versi dell'imām al-Wāṭiq bi-'llāh al-Muṭahhar b. Muḥammad b. al-Muṭahhar, m. 802/1400: Br. S II 232), e tra f. 199 e f. 200 (preghiera); manca il frontespizio; nel f. 1, note di possessori e alcuni versi attribuiti a 'Alī; rileg. orientale in tutta pelle con impressioni a freddo, alquanto deteriorata.

¹ (ff. 2-22) *Nubḍa fihā Sīrat Amīr al-mu'minīn... wa-Abī Bakr wa-'Umar wa-'Uṭmān mustawfā min Šarḥ Sīrat aṣḥāb sayyid al-bašar*.

Autore: l'imām a l-M a h d ī (Aḥmad b. Yaḥyā I b n a l-M u r t a ḍ ā) (m. 840/1437; v. nn. 335¹⁷ 339²¹ 341²⁵ 349⁶).

Estratto, contenente la vita dei primi quattro califfi, da uno *Šarḥ Sīrat aṣḥāb sayyid al-bašar* che, come si deduce dal f. 22 v, s'intitola più precisamente *Ḍiyā' al-qamar (fī šarḥ sīrat aṣḥābihi 'l-'ašara 'l-ḡurar)*. È, questo, il 5° *kitāb* di *Yawāqūt as-siyar fī šarḥ k. al-Ġawāhir wa'd-durar min sīrat sayyid al-bašar wa-aṣḥābihi 'l-'ašara 'l-ḡurar wa-'itratihī 'l-a'imma al-muntaḥabīn az-zuḥar*, commento dell'imām al-Mahdī Aḥmad b. Yaḥyā Ibn al-Murtaḍā al suo *k. al-Ġawāhir ilḥ.* (10ª parte dell'introduzione al suo trattato giuridico *al-Baḥr az-zahḥār*); *Yawāqūt as-siyar ilḥ.* è, a sua volta, la 5ª parte di *Ġāyāt al-afkār ilḥ.*, commento integrale di *al-Baḥr az-zahḥār*. Br. G II 187, S II 245 indica i mss. di *Ġāyāt al-afkār ilḥ.* come se contenessero l'op. intera, mentre ciascuno ne contiene una parte; *Yawāqūt as-siyar ilḥ.*, dei cui mss. pertanto Br. omette l'indicazione, è contenuto in BMS 420-422, e il *k. Ḍiyā' al-qamar ilḥ.* trovasi in BMS 420, con inizio al f. 120 a, e in BMS 422, con inizio al f. 181 b. A integrazione di Br. e a correzione di Ahlw., va

aggiunto che di *Yawāqūt as-siyar ilh.* esiste un terzo ms., Berl. 9601, contenente uno *Šarḥ k. al-Ġawāḥir wa'd-durar fī sīrat sayyid al-bašar ilh.*, che Ahlw., utilizzando impropriamente H. II 4310, ha attribuito a Zaynaddīn 'Umar b. Aḥmad a š-Š a m m ā' (Br. G II 304), del resto sospettandolo di plagio da Ibn al-Murtaḍā; in tale ms. il *k. Diyā' al-qamar ilh.* trovasi ai ff. 119 b-136 b, ed è diviso in parti con la singolare denominazione di *mas'ala*, che ricorre nel presente estratto.

Esso contiene, infatti: (f. 2) *mas'ala* (abbrev. امى) *ammā Amīr al-mu'minīn fa-huwa 'Alī . . .*, (f. 14 v) *mas'ala wa't-tānī min al-'ašara 'l-maš-hūrīn Abū Bakr*, (f. 16 r) *mas'ala wa't-tālīṭ 'Umar b. al-Ḥaṭṭāb*, (f. 18 v) *mas'ala wa-rābi' al-'ašara 'Utmān b. 'Affān*.

Inc., dopo *la basmala*: اما امير المؤمنين فهو علي . . . ونسبه معروف وامه فاطمة بنت اسد بن هاشم وهي اول هاشمية ولدت هاشميا

Term.: ثم ام خالد واروى وام ابان الكبرى فهؤلاء جملة اولاد عثمان رضى تَم

Dat. 14 raġab 1060 (1650). Senza nome di copista.

Ff. 22 v-23 r contengono, in *nashī* molto rozzo, delle preghiere, precedute dalla *basmala* iscritta in un rozzo fregio.

² (ff. 23 v-122) *at-Tarġumān al-mufattiḥ (li-tamarāt) kamā'im al-Bustān (fī asmā' ḡawāḥir as-šahāba wa't-tābi'in wa'l-'imma as-sābiqīn al-hādīn wa'l-fuqahā' al-umanā' wa-atbā'ihim ar-rāšidīn wa-'ulamā' al-funūn al-muršidīn wa-hulafā' as-sū' al-mu'ānidīn al-mufsidīn wa'l-fawā'id aš-šawārid allātī yarūqu 'n-nāzirīn)*.

Autore: (Badraddīn ('Izzaddīn)) Muḥammad b. Aḥmad (b. Yaḥyā) Ibn Muzaḥḥar (m. 925 ca./1519, secondo Šawkānī II 124 n. 411, o 970/1563, secondo Kaḥḥāla IX 28; cf. anche RSO VII 577).

Si tratta, in realtà, soltanto del 1° *ġuz'* dell'op., che è un'integrazione di *al-Bustān al-ġāmi' li'l-fawākih al-ḥisān al-muṭmir li'l-yāqūt wa'l-marġān an-nātiq bi-ḥuḡaḡ masā'il al-Bayān min as-sunna wa'l-Qur'ān aš-šādī' bi'l-anwār al-muntaza' min al-Intisār*, dello stesso A., a sua volta commento al trattato di diritto zaidita *al-Bayān aš-šāfi' 'an al-Burhān al-kāfi*, dello zio dell'A., il qādī 'Imādaddīn Yaḥyā b. Aḥmad Ibn Muzaḥḥar (v. n. 311 b). Questo 1° *ġuz'* comprende:

a) (ff. 23 v-65) i prolegomeni al *Bustān*. Per il loro contenuto, cf. BM 907.

Inc.: الحمد لله الذي منحنا معاصرة العلماء الكبار الاخيار واقتبسنا من علمهم الواسع الترخار . . . اما بعد فإن الله . . . اعاننا على تأليف البستان وايضاح الدليل والبرهان

Term.: توفي قدس الله روحه . . . في شهر رجب سنة عم ٩٢ فاتا لله وإنا اليه راجعون

Dat. 18 ramadān 1060 (1650).

b) (ff. 65 v-122) *bāb fī dīkr al-qašīda (al-Bassāma)* (v. n. 314¹), di Sārīm-addīn Abū Muḥammad Ibrāhīm b. Muḥammad b. 'Abdallāh b. al-Hādī Ibn al-Wazīr (v. nn. 314² 317²), contenente un commento a tale opera.

Inc., dopo *la basmala*: باب في ذكر القصيدة الفريدة النافعة المفيدة التي انشأها مولانا ابيد الامام الناظورة في اهل البيت الكرام

Term.: وكنا قد شاهدنا من العلماء في وقتنا ومنفوان شبائنا الجم الغفير وام يبق الا

القليل فآه ثم آه من انقراض العلم ودروسه واقول اقماره وشموسه

ونسأل الله سبحانه التوفيق للاقتداء بهم والاهتداء بهديهم الى ايمان طريق تَم

Dat. dū 'l-qa'da 1060 (1650). Copista: Aḥmad b. Nāšir al-Ḥaymī.

Br. G II 186, S II 244. Dei tre mss. citati, BM 907 contiene lo stesso 1° *ġuz'* ed è più antico (dat. 992/1584), Ambr. 356 contiene l'intera op., ma è molto più recente (dat. 1308/1890), mentre Berl. Fol. 3373 non è reperibile; da aggiungere Yale 1099 (dat. 1216/1801), Wien Gl. 173 (dat. 1045/1635).

³ (ff. 123-202) *Aṭwāq al-ḥamāma fī šarḥ al-qašīda al-Bassāma*. Noto di solito con il titolo *Kimāmat az-zahr wa-farīdat ad-dahr*.

Autore: (Abū Marwān) 'Abdalmalik (b. 'Abdallāh Ibn Badrūn) al-Ḥaḍramī aš-Šilbī (m. 608/1211).

Commento a *al-Qašīda al-Bassāma bi-atwāq al-ḥamāma*, di Abū Muḥammad 'Abdalmagīd Ibn 'A b d ū n (m. 529/1134).

Br. G I 271 (dove è da correggere Garr. 583) e 340, S I 480; da aggiungere Zāh. 3340; Bagdad Awqāf 2179-3180 3470.4 3494.2; Yale 295; Cambridge 2nd Suppl. 257; Rabat² 1816; Chester Beatty 4351. Sarkīs 45.

Inc.: الحمد لله الملك القديم المعبود الصمد العزيز المقصود . . . اما بعد فانه جعني يوما من الايام مع جماعة فرسان النثار والنظام

Term.: ولكن المقادير تنفذ أحب العبد ام كره وهنا انتهى الخبر ينأ في شرح القصيدة التي انشأها ابو محمد

Dat. 17 šafar 1061 (1651). Copista: Aḥmad b. Nāšir al-Ḥaymī.

320 (Rossi 20)

Dat. prima metà di rabī' II 691 (1292); 0,264 × 0,185; ff. 168 di 25-26 righe; *nashī* antico, grosso e scarsamente punteggiato; carta gialla opaca fino al f. 99, gli altri fogli in carta bianca; scarse note marginali; f. 1 e f. 168 v occupati da *fawā'id*, *ḥadīṭ* e note varie, come pure i frontespizi dei singoli *ġuz'*; f. 64 mancante della metà inferiore; rileg. orientale in tutta pelle con impressioni a freddo.

Mağmū' fī 'l-Muḥīṭ bi't-taklīf.

Autore: il qādī 'l-quḍāt Abū 'l-Ḥasan 'Abd al-ġabbār b. Aḥmad b. 'Abdalġabbār al-Hamaḍānī al-Astarābādī (m. 415 o 416/1025-1026; Kaḥ-ḥāla V 78).

Si tratta, in realtà, soltanto della prima parte, mutila, di un estratto, redatto dal suo discepolo Abū Muḥammad al-Ḥasan b. Aḥmad Ibn Mutṭawayh (Mattawayh) (vissuto nel sec. v/XI), del trattato di teologia mu'tazilita *al-Muḥīṭ bi't-taklīf*. L'intero *Mağmū'*, come informa una nota al f. 2 r, è diviso in 35 *ġuz'*, dei quali i primi 8 o 9 formano la prima parte (cf. Berl. 5149). Il presente ms. contiene 8 *ġuz'*, ciascuno dei quali ha un proprio frontespizio e incomincia con la *basmala*, rispettivamente ai ff. 2 r, 22 r, 43 r, 64 v, 85 r, 105 r, 124 r, 147 r; manca il *kalām fī 't-tawḥīd*, annunciato al f. 168 r, che si trova in Berl. 5149, contenente ugualmente la prima parte (ma, a sua volta, acefalo dei primi 3 *bāb*). Il contenuto è diviso indipendentemente dalla partizione in *ġuz'* e comprende: (f. 2 v) *kalām fī 't-taklīf*, in 7 *bāb*; (f. 12 v) *kalām fī 't-tawḥīd*, con un *bāb* introduttivo e 5 *aṣl: fī itbāt al-muḥaddatāt ad-dālla 'alā 'llāh, fī itbāt al-muḥaddit, fī 's-ṣifāt, fī bayān mā lā yaġūz 'alayhi ta'ālā, innahu wāḥid fī ḥādihī 's-ṣifāt*; (f. 100 v) *kalām fī 'l-'adl*; (f. 101 v) *kalām fī 'l-af'āl*, in 11 *bāb*; (f. 115 r) *kalām fī 'l-irāda*, in 15 *bāb*; (f. 134 r) *kalām fī 'l-Qur'ān wa-sā'ir kalām Allāh*, in 10 *bāb*; (f. 150 v) *kalām fī 'l-mahlūq*, in 7 *bāb*.

Br. S I 343-344. Citato un solo altro ms., Berl. 5149, di poco anteriore (dat. 671/1272); per altri due mss., cf. l'edizione dell'op. in corso di stampa, a cura del P. J. Houben, che ha utilizzato anche il presente ms., *Kitāb al-Majmū' fī 'l-Muḥīṭ bi'l-taklīf*, t. I, Beyrouth 1965 (Recherches publiées sous la direction de l'Institut de Lettres Orientales de Beyrouth, t. XXV), pp. 10-11.; da aggiungere Wien Gl. 41 (contenente soltanto la seconda parte, non meglio precisata; dat. 700 ca./1300).

Inc., dopo la *basmala*: *الهم زدنا علما تنفعنا به باب في جمل التكليف الذي يجب معرفته اول ما يريد بالتكليف وقد ذكر ابو هاشم انه الامر بما على المرء فيه كلفة*
Senza nome di copista.

321 (Rossi 21)

Dat. 2 ġumādā II 786 (1384); 0,267 × 0,187; ff. 87 di 24 righe ca.; *nashī* abbastanza ben punteggiato e in parte vocalizzato; rubriche in rosso fino al f. 63 r; ff. 1-7 e 87 alquanto deteriorati e restaurati; rileg. orientale in mezza pelle e tela a fiorami.

al-Mufaṣṣal fī 'ilm al-i'rāb (n. 310⁵).

Autore: (Ġarullāh) Abū 'l-Qāsim Maḥmūd b. 'Umar az-Zamaḥṣārī.

Inc. e term. come il n. 310⁵.

Copista: 'Alī b. Qāsim b. Muḥammad b. Mūsā aṣ-Ṣa'dī az-Zaydī (forse identificabile con 'Alī b. Qāsim b. Muḥammad al-'Ādil al-Hādawī aṣ-Ṣa'dī, citato da Ahlw., *Register*, p. 273).

F. 87 r, dopo la fine dell'op., contiene due racconti: uno su 'Umar b. 'Abdal-'azīz, l'altro su una schiava di al-Ḥaġġāġ b. Yūsuf. F. 87 v contiene un *ḥadīṭ* su 'Alī, oltre a frammenti insignificanti.

322 (Rossi 22)

Sec. XIV/XX; 0,254 × 0,175; ff. 51 di 24-28 righe; *nashī* yemenita; titoli e rubriche in rosso; f. 1 restaurato; il f. 51 (0,191 × 0,154) è un foglietto di carta da lettere europea, contenente la fine del ms., di pugno del donatore, che la trascrisse da una copia dat. 1350/1931-1932; rileg. occidentale in mezza tela.

al-ġuz' at-tāmin min al-Iklīl wa-huwa kitāb maḥāfid al-Yaman wa-quṣūrihā wa-masānidihā wa-dafā'inihā wa-marāṭī Himyar wa'l-qubūriyyat wa-ṣi'r 'Alqama b. Dī Ġadan.

Autore: (Abū Muḥammad) al-Ḥasan b. Aḥmad (b. Ya'qūb) al-Ḥamdānī. V. nn. 301-323.

Br. G I 229, S I 409; Sarkīs 73 (cf. l'osservazione a proposito di Vat. V. 992). Una descrizione dei mss. nell'ediz. del P. Anastase Marie al-Karmalī, Bagdad 1331, pp. 297-330; da aggiungere Leid. Or. 6357 a (Voorhoeve 126); Yale 1298.

Inc.: *باب ما جاء من ذكر قصور اليمن ومعاقليها وما قيل من الشعر وما فيها من الاخبار*

Term. dopo il verso *الف ملك سقاهم الدهر كأساً مرة زلزلت بهم كل ارض*

Senza nome di copista (ma è probabilmente lo stesso dei nn. 323 e 324).

323 (Rossi 23)

Dat. 21 ġumādā I 1352 (1933); 0,246 × 0,186; ff. 40 di 24 righe ca.; *nashī* yemenita tendente al *riq'ī*; scarse note marginali, di cui alcune in inchiostro blu; la prima riga del titolo scritta in giallo; f. 40 vac.; rileg. occidentale in mezza tela.

al-ġuz' al-'āṣir min kitāb al-Iklīl wa-huwa fī ma'ārif Ḥamdān wa-ansābiha wa-'uyūn aḥbārihā.

11 v) *tadyīl*, in prosa; (f. 12 r) *al-hulāsa*, in forma di qaṣīda mutaḡārib *īri* (inc.: *تزوّد بنفسك زمان يسير وحضّر عداتك وحمل وسيّر*)

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي علّم الانسان ما لا يعلم... نعم ايها العام المقبل لنا السعيد الرغيد المديد الخلاق لتقدمك مرتقبة والقلوب لوصولك منظرية

Term.: كان اكمال هذا التقويم في رمضان المبارك سنة ١٣٥٣ وانتظار حوادثه من بعد هذا التاريخ تنتظر من قبل دخول العام ١٣٥٤ بثلاثة اشهر ونصف

Senza nome di copista. Probabilmente autografo.

327 (Rossi 26)

Sec. XII-XIV/XVIII-XIX; formato vario (0,250 × 0,174, 0,234 × 0,167, 0,219 × 0,164); ff. 84: di 23 righe ca. i ff. 1-63, di 16-20 righe gli altri; *nashī* yemenita rozzo e scarsamente punteggiato; rubriche in rosso, verde, giallo e azzurro; ff. 1-63 inquadrate; ff. 14 v, 63 v vac.; rileg. orientale con risvolto.

¹ (ff. 1-13 r) *Mas'ala fī bayān iqāmat al-ḡum'a min ḡayr imām*.

Autore: 'Izzaddīn Muḡammad b. Ibrāhīm b. 'Alī b. al-Murtaḡā (I b n a l- W a z ī r) (m. 840/1436; Br. G II 188, S II 249; Kaḡḡāla VIII 210). V. n. 3423.

Trattatello sulla preghiera del venerdì senza imām, che non appare citato nei repertori.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي أوجب التفقه في الدين وقرن العلماء بالملائكة المقربين... وبعد فانه صح بل اشتهر وتواتر عن رسول الله صلعم انه قال من يزد الله به خيرا تفقه في الدين

Term.: وانما علت منذ المسألة من عناه ان يبتلي بذلك... واما نحن فقد عظم الله... علينا ائمة... وجعل ائمة مذهبنا وملوك بلادنا مثالا في العدل قد سارت بعدلهم الركب... ولا يرضون في بلادهم بظهور شيء من العصيان.

Dat. 23 ḡumādā I 1302 (1885). Il copista, di cui non è dato il nome e che deve essere lo stesso dell'op. seguente, informa che la propria copia risale, attraverso altre tre, ad una quarta che è stata collazionata con l'originale.

F. 13 v contiene notizie da una biografia di a z-Z a m a ḡ š a r ī, contenuta nell'*Is'āf* (probabilmente *al-Is'āf fī šarḡ šawāhid al-Qāḡī wa'l-Kaššāf*, di Ḥiḡr b. 'Aḡā'allāh al-Mawṡilī, m. 1007/1598; Br. S I 509). F. 14 r contiene notizie da una biografia di Aḡmad al-Amīr b. Ḥaddām (?) (vissuto nel sec. VIII/XIV), di Aḡmad (b.) Sa'daddīn (Muḡammad) a l-M i s w a r ī (v. n. 335^{4 5 7 9 11 33}).

(ff. 15-62) *al-Iṡāba fī-mā yaḡib min ri'āyat ḡaqq aṡ-ṡaḡāba bi-raf' al-ḡaḡa' an ṡaḡābat al-Muṡṡafā*.

Autore: Yaḡyā b. al-Ḥusayn b. [al-Manṡūr] al-Qāsim b. Muḡammad (m. dopo il 1080/1670 o, secondo altri, all'inizio del 1110/1688; Šawkānī II 328-329 n. 573, Kaḡḡāla XIII 192, dove però la citazione di Br. è a sproposito, perché si riferisce a Yaḡyā b. al-Ḥusayn b. Muḡammad b. al-Qāsim, m. 1090/1679, cf. Šawkānī II 329-330 n. 574).

L'A., che scrisse una quarantina di opere di vario genere, si dedicò specialmente alla scienza delle tradizioni, di cui trattò in particolare in *al-Īḡāḡ li-mā ḡafiya min al-ittifāq 'alā ta'zīm ṡaḡābat al-Muṡṡafā*. La presente op. potrebbe esserne un estratto.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بالشريف وفضلها على سائر الامم بالدين الخفيف... وبعد فانه لما كثر الاختلاف في شأن الصحابة وما زال يتجدد في هذه العصور من غير إصابة توجه بيان ما عليه الزيدية من الاثمة وسائر البرية

Term.: وعن عائشة... قالت زوجها ان كان ما علمته صواما قواما اخرجته الحاكم في مستدركه وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه والله اعلم

Dat. 20 ṡafar 1303 (1885). Senza nome di copista.

Ff. 62 v-63 r contengono 10 versi sull'op. precedente, di Luṡfallāh b. 'Alī b. Luṡfallāh b. al-Muṡaḡḡar b. Yaḡyā b. Šarafaddīn b. Šamsaddīn Aḡmad b. Yaḡyā b. al-Murtaḡā. F. 63 r contiene 11 versi sull'*ahl al-bayt*, di Aḡmad (b. Ḥasan) B a r a k ā t (m. 1186/1781; Šawkānī, *Mulḡaḡ* 25-27 n. 42).

³ (ff. 64-77) *Zahr ar-rawḡ al-mandūd fī aḡbār al-ḡawḡ al-mawrūd*. Mutilo.

Autore: Muḡammad b. Aḡmad (b. Muḡammad b. Aḡmad b. ḡārollāh) M u ṡ a ḡ ḡ a m (m. 1223/1808; Šawkānī II 116-119 n. 405), o suo nonno, omonimo (m. 1181/1767; Kaḡḡāla VIII 245).

Trattatello che raccoglie le tradizioni sul *ḡawḡ* (bacino d'acqua) del Paradiso, identificato col coranico *Kawṡar*. Comprende: (f. 64 v) un'introduzione, in cui l'A. informa di aver voluto integrare, rielaborare e spiegare la materia contenuta in *al-Budūr as-sāfira fī umūr al-āḡira*, di ḡalāladdīn a s-S u y ū ṡ ī (Br. G II 146, S II 182); gli 8 *bāb* seguenti: (f. 65 v) *fī qawlihi ta'ālā innā a'taynāka 'l-Kawṡar*, (f. 66 v) *fī qawlihi ṡallā 'llāh... anā faratukum 'alā 'l-ḡawḡ*, (f. 67 v) *fī qawlihi ṡallā 'llāh... inna minbarahu (?) 'alā ḡawḡihi wa-innahu yaṡrabu minhu*, (f. 68 v) *fī sa'at al-ḡawḡ*, (f. 71 r) *fī ḡāḡib ḡawḡihi wa-awwal man yuradd 'alayhi 'l-ḡawḡ*, (f. 73 r) *fī-man yarid al-ḡawḡ*, (f. 74 r) *fī-man yukaddib al-ḡawḡ*, (f. 74 r-v) *fī-man yuḡād 'an al-ḡawḡ min ummatihī wa-yaḡtaliḡ dūnahu*, (f. 75 v) *fī-mā warada anna li-kull nabīyy ḡawḡ yasqī minhu ummatahu yawm al-ḡiyāma...*

Br. e gli altri repertori non citano l'op.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي فضل انبياءه بما لا يحصى من الفضائل... وبعد فاني لما طالعت كتاب البيدور السفارة في امور الاخرة... وقفت على ما اورده في الحوض المحمدي من الاخبار

Term. *ex abrupto*: فلت وجملة الاحاديث ثمانية وسبعون حديثا والذي ألحقت من جواهر العقدين للسيد... السمهودي... ومن كتاب أسنى المطالب في مناقب علي بن ابي طالب للعلامة

Senza data, ma certamente del sec. XIII/XIX. Senza nome di copista.

⁴ (ff. 78-84) *ad-Durr al-mudī*.

Autore: Šarafalislām al-Ḥusayn b. [al-Manšūr] al-Qāsim b. Muḥammad (m. 1050/1640: Br. G II 406, S II 559; Kaḥḥāla IV 41).

Risposta a un quesito del qāḍī (Šārimaddīn) Ibrāhīm b. 'Abdarrahīm b. Salama (tesoriere, come informa una nota al f. 78 r, delle *buyūt al-amwāl* nella città di Ibb, nel 1043/1633-1634) sulla questione se e quando si debba dire *amīn* nella preghiera. Fu scritta (cf. f. 84 r) l'11 ramadān 1043 (1634).

Br. e gli altri repertori non citano l'op.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى... وبعد فانه باع بينا انه صدر منكم سؤال في مسألة التأمين في الصلاة

Term.: فيتوجه على من نيط به هذا الامر الوقوف كما وقف عليه الائمة عم والنظر فيما يصلح للاسلام واهله فان الامر عظيم والخطب جسيم

Dat. 26 ramadān 1178 (1765). Senza nome di copista.

328 (Rossi 27)

Sec. XI-XII/XVII-XVIII; 0,206 × 0,145, 0,215 × 0,150, 0,227 × 0,152; ff. 53 (più 6 bis, che non è stato numerato); *nashī* con rubriche in rosso e, nei ff. 29-53, anche in giallo; ff. 17-50 inquadri; il frontespizio al f. 29 r in vari colori e con disegni geometrici; f. 17 restaurato; margini dei fogli irregolari; rileg. occidentale in mezza tela.

¹ (ff. 1-15) Antologia, acefala e apoda, di poeti yemeniti. Contiene: (f. 1 r) 16 versi di una *qaṣīda mutaḡārib al*, anonima; (ff. 1 v-3 r) una *muwaššaha* di al-'Awwām; (ff. 3 r-3 v) versi di (al-) Ḥāḡizī (Ḥāḡirī? Br. G I 249, S I 443 cita Ḥusāmaddīn 'Isā b. Saḡar b. Bahrām al-Ḥāḡirī, m. 632/1235, come autore di un *Dīwān* e di altre poesie); (f. 3 v) una *muwaššaha* di ('Abdallāh al-) M a z z ā ḡ (v. nn. 317² f. 7 r 342³ f. 44 r); (ff. 4 r-5 r) 5 *mu-*

waššahāt di Falīta (*sic*, altrove Fulayta; Br. S I 416 cita Aḡmad b. Muḡammad b. Falīta come autore di un *Dīwān*, cf. n. 334⁶); (ff. 5 r-6 r) una *muwaššaha* di un *faqīh* non meglio specificato; (ff. 6 r-6 v) una *muwaššaha* di Falīta; (ff. 6 v-6 bis v) una *muwaššaha* di 'Abdallāh b. Aḡmad al-Qi-šayšilī (?); (ff. 6 bis v-7 r) una *muwaššaha* di Falīta; (ff. 7 r-8 r) 2 *muwaššahāt* di (al-) M a z z ā ḡ; (ff. 8 r-9 r) una *muwaššaha* di al-'Alawī (Br. S. II 233 cita 'Abdarrahmān b. Ibrāhīm b. Ismā'il al-'Alawī, m. 920/1514, come autore, tra l'altro, di un *Dīwān*); (ff. 9 r-9 v) una *muwaššaha* di al-Fayyūmī; (ff. 9 v-10 v) una *muwaššaha* di al-'Alawī; (ff. 10 v-11 v) 2 *muwaššahāt* di Falīta; (ff. 12 r-12 v) una *muwaššaha* di (al-) M a z z ā ḡ; (ff. 12 v-13 r) una *muwaššaha* di Waḡīhaddīn 'Abdarrahmān al-Ḡabalī; (ff. 13 r-14 r) replica, in forma di *muwaššaha*, di Muḡammad 'Afīr; (f. 14 r) una *muwaššaha* di (al-) Mazzāḡ; (f. 14 v) una *muwaššaha* di al-Wāṡīq (probabilmente al-Wāṡīq bi-'Ilāh al-Muṡahhar b. Muḡammad, m. dopo il 780/1378-1379 o, secondo altri, nell'802/1399-1400; sulla sua produzione poetica cf. Br. S II 232); (ff. 15 r) 2 *muwaššahāt* di (al-) M a z z ā ḡ, la seconda delle quali incompleta.

² (ff. 17-28) *Buḡyat aṡ-ṡālib wa-tuḡfat ar-rāḡib fī 'l-aḡādīt al-arba'in al-muntaza'a min Amālī Abī ṡālib*.

Autore: l'imām al-M a n š ū r b i - ' l l ā ḡ al-Qāsim b. Muḡammad. V. 304 335¹⁰ 339⁹.

Estratto di 40 *hadīt* da un *k. al-Amālī fī 'l-aḡbār* (cf. Berl. 4950 VII 44) dell'imām an-N ā ṡ i q b i ' l - ḡ a q q Abū ṡālib Yaḡyā b. al-Ḥusayn b. Hārūn al-Buṡḡānī (v. n. 335³).

Br. S II 559; citato un solo altro ms., BMS 1220 v.

Dat. 23 rabī' II 1027 (1618). Poiché l'op. fu scritta nel 1025/1616 (cf. f. 28 v), il presente ms. è di poco posteriore all'originale e più antico di BMS 1220 v (dat. 1044-1045/1634-1636).

Senza nome di copista.

Inc., dopo la *basmala*: قال... القاسم بن محمد... هذا الاربعون حديثا من امالي ابي طالب... وانا ارويها اجازة عن جماعة من الشيوخ منهم

Term.: كان السبب في تحصيل هذه الاحاديث النبوية ان رجلا من اهل دمشق وصل... زيارة امير المؤمنين... فعول عليه في جمعها فأجابته... وعزم بها الطالب الى دمشق في شهر شوال سنة خمس وعشرين بعد الالف

³ (ff. 29-49) *al-Kawākib ad-durriyya fī madḡ ḡayr al-bariyya* o *Qaṣīdat al-Burda* (Br. G I 264-266, S I 467-470; da aggiungere Vat. V. 1610⁵; Leid. Or. 5823, 2 [Voorhoeve 156]; Bagdad Awqāf 3226, 3 3251, 2; Garr. 2050, 3;

Cracovia Univ. 41 [Dembski 78]; Varsavia Soc. Or. 151 [Dembski 152]; Breslavia Univ. 35 [Dembski 175]; Šibin al-Kōm 180 [RIMA II 284]; Zagazig 2935 [RIMA III 99]; Tanta 257,2 [RIMA 263]; Maṣūra 1172 [RIMA IV 289]; Dūḥa maǧmu'a 9,9 [RIMA IX 40]; Taškent 944-969; Yale 270-272; Cambridge 2nd Suppl. 78 335³; Chester Beatty 3486,7 4168 4169 4177 4178 4209 4821,1 5475; Rabat² 823-826; Leeds 223 293,2; Teheran Univ. 4743; Brat. 380 381. Sarkīs 604), di Ṣarafaddīn Abū 'Abdallāh Muḥammad b. Sa'id al-Būširī (m. 694/1296, secondo altri 695 o 696/1297-1298).

Il celebre poemetto in lode del Profeta (nella presente redazione, di 166 versi), con *tasbī'* attribuito (cf. f. 50 v) ad Abū Muḥammad 'Abdallāh aš-Šāmī ادفا (?) ad-Dimašqī aš-Šāfi'i, detto «ospite alla Mecca» (*nazīl Makka*). Tale A. è sconosciuto, ma il *tasbī'* è identico a quello citato da H.H. IV 532-533 come op. di Ḡamāladdīn Muḥammad b. al-Wafā' (?) e contenuto, con attribuzioni varie (in parentesi), nei seguenti mss.: Paris 3186 (Ḡamāladdīn Muḥammad b. al-Wafā'), Gotha 2286 ('Uṭmān Bek, ?), Gotha 2287 (Šalāḥaddīn Aḥmad b. Muḥammad aš-Šarafī ad-Dimašqī, ?), Garr. 2003,7 (Šihābaddīn Aḥmad b. Muḥammad al-Wafā'i ad-Dimašqī, ?), Cairo³ I 157 (Aḥmad b. Muḥammad ar-Rifā'i aš-Šāmī), Maṣūra 1172 (Aḥmad b. Muḥammad ar-Riqābī ad-Dimašqī); BM 622, Bodl. II 315, Manch. 473 (anonimi); Dam. Zāh. 5106 7342, Bagdad Awqāf 2068 (Nāširaddīn Abū Sa'd/Sa'id 'Abdallāh b. 'Umar al-Bayḍāwī, m. 685/1286: Br. G I 416-418, S I 738-743); quanto a Garr. 73, anonimo, la descrizione ne è troppo sommaria per permettere una eventuale identificazione; è forse identico il *tasbī'* citato in Br. S I 470 con il titolo di *Tafrīḡ aš-šidda* e attribuito ad al-Bayḍawī, ma senza indicazione di alcun ms.

Il *tasbī'* inc.: الله يعلم ما بالقلب من ألم ومن غرام باحشائي ومن سقم

Dat. 3 ḡumādā I 1184 (1770). Copista: Aḥmad b. Muḥammad b. Ibrāhīm b. Aḥmad b. 'Abdallāh b. Aḥmad.

F. 50 contiene il noto racconto di ciò che fu occasione a comporre la *Qaṣīdat al-Burda*.

⁴ (ff. 51-53) Miscellanea contenente:

a) (f. 51 r) 15 versi di *al-Qaṣīda al-witriyya fī madḥ sayyid* (var. *ḥayr*) *al-barīyya* (n. 368 bis⁴), di Maḡdaddīn Muḥammad b. Abī Bakr b. Rašīd al-Witrī (m. 662/1264: Br. G I 250, S I 444; da aggiungere Yale 375). Poiché tale *qaṣīda*, di 610 versi, è divisa in 29 gruppi, in ciascuno dei quali i versi incominciano per una medesima lettera dell'alfabeto (più la lettera composta *lām-alif*), il presente frammento, i cui versi incominciano per *yā'*, appartiene all'ultimo gruppo.

Dat. 12 raḡab 1198 (1784). Copista: Ibrāhīm b. Muḥammad b. Ibrāhīm b. Aḥmad b. 'Abdallāh aš-Šahārī.

b) (ff. 51 v-53 r) *Lāmiyyat al-'Arab fī 'l-ḥikam wa'l-amṭāl wa'l-adab* (n. 317⁵ f. 3), di Ḡamāladdīn (Badraddīn) Muḥammad b. Yaḥyā (b. Muḥammad) Ibn Bahrān.

Dat. 14 raḡab 1198 (1784). Senza nome di copista, ma la mano è la stessa dell'op. precedente.

c) (f. 53 v) I vv. 1-16 della *Lāmiyyat al-'aḡam*, di (Abū Ismā'il al-Ḥasan b. 'Alī al-Tuḡrā'i) (m. 515/1121: Br. G I 247, S I 439; da aggiungere Leid. Or. 6333, 10 [Voorhoeve 422]; Zāh. 5078; Garr. 2003, 28; Cairo³ II 274; Rabat² 1811-1813; Wien Gl. 249². Sarkīs 1241).

329 (Rossi 28)

Senza data, ma posteriore alla metà del sec. XII/XVIII; 0,225 × 0,160; ff. 167 di 25 righe; *nashī* yemenita; rubriche in rosso e nero; alcune note marginali; ff. 166 v, 167 v vac.; rileg. orientale in mezza pelle, senza risvolto.

al-Aḡwiba al-mufīda 'alā 's-su'ālāt al-ḥamīda. Altro titolo, come informa una nota nel frontespizio: *Ḡurar al-fawā'id min ḡawābāt al-'allāma Ibrāhīm b. Ḥālid*.

Autore: Šārimaddīn Ibrāhīm b. Ḥālid (b. Aḥmad b. Qāsim) al-'Ulufī. V. n. 305⁵.

Raccolta, compilata da Ḥāmid b. Ḥasan Šākir (m. 1173/1760: Šawkānī I 188-189 n. 122; Kaḥḥāla III 178) di trattatelli giuridici in forma di domanda e risposta. Per il contenuto, cf. BMS 431, che è il solo altro ms. intero dell'op. (dat. 1163/1750); BMS 432 II ne contiene un frammento.

Br. S II 562; da aggiungere Leid. Or. 2650,1 (framm.) (Voorhoeve 344).

Inc., dopo la *basmala*: وبعد فانها اتفقت مذاكرة عن صحة الاحتجاج بقوله صلعم
يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله

Term.: وقد حصل فيه بسبب ذلك عمى او عور او نحو ذلك فينظر في ذلك ويبحث
عنه والله سبحانه اعلم انتهى

Senza nome di copista. Dal f. 164 r risulta che è stato copiato dall'autografo. F. 164 r-v contiene un quesito giuridico, con responso di Sa'ādāt b. 'Alī al-'Atṭārī.

Ff. 164 v-167 contengono altri responsi giuridici, di mano diversa, anonimi.

(f. 20) qaṣīda ḥafīf lā, di 70 versi (inc.: فانما اليوم اوحى الناص علما بغرام وابعده الناس شملا) dell'imām (a l-M u t a w a k k i l) Yaḥyā b. Ḥamīdaddīn (cf. al-Wāsi'ī, *Ta'rīḥ*, pp. 194-279), scritta per il padre al-M a n ṣ ū r (Muḥammad b. Yaḥyā) (v. n. 339²); (f. 22 r) *muwašṣaḥa* di ... an-Nuḥāmī (?) (cf. D. H. Müller, *op. cit.*, p. I 169 riga 15), in lode di al-amīr al-Mahdī; (f. 22 v) *muwašṣaḥa* di 'Abdalkarīm b. Aḥmad al-Kawkabānī; (f. 23) *muwašṣaḥa* di Aḥmad b. 'Abdarraḥmān al-Ānisī; (f. 29 v-29 r-28 v) *muwašṣaḥa* di 'Imādaddīn Yaḥyā b. Faḥraddīn al-imām al-Hādī; (f. 31 v-30 r) *muwašṣaḥa* di Ġamāladdīn 'Alī b. 'Abdallāh al-'Amrānī ('Imrānī, 'Amurānī); (f. 34-32) *muwašṣaḥa* di Abū Muṭlaq.

332 (Rossi 31)

Non dat. (sec. VII-VIII/XIII-XIV ?); 0,222 × 0,165; ff. 174 di 18 r.; carta giallastra, dal f. 133 quasi bianca; f. 174 vac.; tra f. 92 e f. 93 foglietto volante insignificante, più recente; *nashī* antico, regolare, grosso, scarsamente punteggiato; frontespizio a righe alternativamente in rosso e nero; divisione del testo con gruppi di grossi punti rossi; rileg. orientale senza risvolto, con impressioni a freddo, molto deteriorata e quasi staccata dal corpo del codice.

k. ar-Radd 'alā 'l-Ġabriyya al-Qadariyyah fī-mā ta'allaqū bihi min mutašābih āy al-Qur'ān al-karīm. Mutilo.

Autore: Abū 'Umar Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥafṣ a l-H a l l ā l.

L'op. e l'A. non sono citati da nessun catalogo né dal Br. (l'identificazione dell'A. con Abū Bakr A. b. M. b. Hārūn al-H a l l ā l al-Baġdādī, m. 311/923 - cf. Br. S I 311 - sarebbe arbitraria). Il solo che ne dà notizia è *Fihrist* I 174, l. 5-8, il quale annovera l'A. tra i Mu'taziliti, lo dice discepolo di aṣ-Ṣaymarī (m. 275/888; cf. Aḥmad b. Yaḥyā Ibn al-Murtaḍā, *Ṭabaqāt al-Mu'tazila*, hsg. v. S. Diwald-Wilzer, Wiesbaden 1961, p. 96) e di Abū Bakr b. al-Iḥšid (m. 326/937; cf. *Ṭabaqāt al-Mu'tazila*, *ed. cit.*, p. 100), e gli attribuisce un *k. al-Uṣūl* e un *k. al-Mutašābih*.

Appunto questa seconda opera è contenuta nel presente ms., che pertanto si deve concludere essere un *unicum*. L'A. cita (f. 2 r) come sue fonti due trattati, noti anche al *Fihrist* (I 36, l. 21-22), uno di Abū 'l-Faḍl Ġa'far b. Ḥarb (m. 236/850: Kaḥḥāla III 136), l'altro di Abū 'Alī Muḥammad b. 'Abdalwahrāb a l-Ġ u b b ā ' ī (m. 303/915: Br. S I 342; Kaḥḥāla X 269). Si deve dedurre che l'A. visse nella seconda metà del sec. III/IX e nella prima metà del sec. IV/X.

Dopo un'introduzione (ff. 1 v-2 v), l'op. discute il significato dei passi incerti del Corano, in polemica con i Ġabriyya, arrestandosi all'inizio della sūra 72.



Aḥmad b. Muḥammad al-Hallāl, *ar-Radd 'alā 'l-Ġabriyya*. Ms. Cact. 332 (Rossi 331), f. 17r.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الواحد القديم ذي الطول العظيم وامن الجسم والقوة القاهرة والصناعة المبتدعة والفطرة المخترعة... اما على اثر حمد الله الذي بنعمته يتم الصالحات... فقد تعظمتني نعمه فيك وابهجنتني موهبته عندك

Term. *ex abrupto* (f. 173 v): وعلمنا ان الله تعالى اراد انهم لو اطاعوا لاوسع عليهم في
Senza nome di copista. Copiato per 'Abdallāh b. 'Amr b. 'Alī b. Yahyà b. al-Ḥasan al-Ġayyid (?) b. Abī 'Amr at-Tamīmī (cf. f. 1 r).

333 (Rossi 32)

Sec. XI/XVII; 0,205x0,144; ff. 291 di 20 r. ca., quasi tutti inquadri in rosso, con rubriche in rosso; *nashī* apparentemente di due mani diverse, in carattere più minuto fino al f. 22, più grosso a partire dal f. 26; f. 28 v occupato da scritture in rozza calligrafia; tra il f. 37 e il f. 38 un foglietto volante insignificante; senza frontespizio e acefalo; rileg. orientale in tutta pelle, con risvolto e impressioni a freddo, alquanto deteriorata.

¹ (ff. 1-19) Raccolta acefala e anonima di aneddoti (*hikāyāt*) su santoni yemeniti, divisa in 10 *faṣl*, ciascuno su un santo; alcuni *faṣl* contengono varie *hikāyāt*. Mancano il 1° *faṣl* e le prime due *hikāyāt* del 2°.

Contiene: 2° *faṣl* (Abū Bakr b. Ibrāhīm b. Muḥammad b. 'Umar (b. Ḥuṣaybar)): 9 *hikāyāt*; 3° *faṣl* ('Umar b. 'Umar (b.) Ḥuṣaybar); 4° *faṣl* (Aḥmad b. 'Umar (b.) Ḥuṣaybar): 3 *hikāyāt*; 5° *faṣl* (Diyā'addīn Ibrāhīm b. Muḥammad b. 'Umar b. Ḥuṣaybar): 3 *hikāyāt*; 6° *faṣl* (Ḥasan b. Muḥammad b. 'Umar b. Ḥuṣaybar); 7° *faṣl* ('Imādaddīn 'Isā b. Muḥammad b. 'Umar b. Ḥuṣaybar); 8° *faṣl* (Ġamāladdīn Muḥammad b. Ḥasan b. Muḥammad b. 'Umar b. Ḥuṣaybar): 6 *hikāyāt*; 9° *faṣl* (Abū Bakr b. Ibrāhīm ad-Dahl): 6 *hikāyāt*; 10° *faṣl* ('Alī b. Aḥmad b. 'Umar b. Ḥuṣaybar): 15 *hikāyāt*, di cui però mancano l'8ª, la 9ª, la 10ª, la 11ª e la 12ª.

Inc. (fine della 2ª *hikāyā* del 2° *faṣl*): من لدن الفقيه عمر الى آدم ابي البشر
رضه ونفعنا به في الدارين آمين

Term. ودخل الفقيه علي بن احمد على الفقيه ابو (sic) بكر بن محمد ذلك البحر فام
الا شبح الفقيه علي بن احمد وهذا آخر الرؤيا تم

Senza data. Senza nome di copista.

² (ff. 20-25) Miscellanea contenente:

a) (ff. 20-22 r) *Qaṣīda kāmil li*, di 85 versi, in onore dell'*ahl al bayt* (v. n. 7).

Auore: Badraddīn Zayd b. 'Abdalwahhāb b. az-Zayn b. 'Uṭmān al-Masūhī (vissuto intorno al 1100/1688; Ahlw., *Register*, p. 200).

Inc.: مع يا حسب الآل كل تأملي في مدح غيرهم وكلّ توسلي

Term.: تمّ الصلوة مع السلام على الذي يرجوه كل موحد ومهمل

b) (f. 22 r) *Ġadwāl fīhi ḥisāb al-ḡālib wa'l-maḡlūb wa-ḥāl aṭ-ṭālib wa'l-maṭlūb*.
Tavola per calcolare il vincitore e il vinto, anonima.

c) (f. 22 v) *Urḡūza (fī 'š-šāṭranḡ)*. Mutila (solo i primi 16 versi, su 42).

Autore: Abū Ya'la Muḥammad (b. Šāliḥ) Ibn al-Ḥabbāriyya
(m. 509/1115 o 504/1111, cf. Kaḥḥāla XI 225).

Tratta del gioco degli scacchi. Precede, come in altri mss., un brevissimo
faṣl fī mawḍū' aš-šāṭranḡ wa-mā fīhi min al-ḥikam.

Br. G I 253, S I 447.

Inc.: الشاه لا تحضر عند الشاه لانها من اعظم الدواهي

d) (ff. 23 v-25 v) *k. Karāmāt aš-šāliḥīn*.

Dell'op., il cui titolo si legge, scritto dalla stessa mano, anche sul margine
superiore del f. 133 r, è riportato in realtà soltanto l'inizio, contenente una
sequela di invocazioni pie. Né l'op. né l'A. sono identificabili.

Senza data. Senza nome di copista.

3 (ff. 26-222 r) *Ḥarīdat al-'aḡā'ib wa-farīdat al-ḡarā'ib*.

Autore: (Sirāḡaddīn Abū Ḥafṣ) 'Umar b. al-Muḡaffar b. Aḥmad b. 'Umar
b. 'Abdallāh b. Yūsuf b. 'Abdallāh Ibn al-Wardī (m. 850/1446).

La più completa genealogia dell'A., fornita, salvo errore, soltanto dal
presente ms., potrebbe contribuire a risolvere la questione della sua identità
e della paternità dell'op. Infatti, seguendo H. H. III 132 n. 4688, molti, fra
cui F. Wüstenfeld, *Die Geschichtsschreiber der Araber usw.* n. 412 (e ancora
Kaḥḥāla VIII 3), l'attribuirono a Zaynaddīn Abū Ḥafṣ 'Umar b. al-
Muḡaffar Ibn al-Wardī (v. nn. 344² 352³), il che è da escludere per i
motivi cronologici analizzati da C. Rieu a proposito di BM 1320. Šawkānī
I 514 n. 350, al contrario, tra le opere di Zaynaddīn Ibn al-Wardī non include
la *Ḥarīda*; e Br. G II 131, S II 162-163 accetta come suo A., distinto dal pre-
cedente, Sirāḡaddīn Abū Ḥafṣ 'Umar b. al-Muḡaffar Ibn al-Wardī.
Insospettito dalla quasi totale omonimia, Ahlwardt ha supposto che l'A.
della *Ḥarīda*, per lui anonimo, abbia voluto spacciarla come op. del celebre
Zaynaddīn Ibn al-Wardī, vissuto un secolo prima; senonché egli non tiene
conto del *laqab* diverso e integra arbitrariamente il nome dell'A. di Berl. 6046
con la genealogia di Zaynaddīn Ibn al-Wardī. La questione è, invece, esatta-
mente posta da W. Pertsch, *Die arabischen Hnds. der herzogl. Bibl. zu Gotha*
I 304 n. 3, e risolta con la ragionevole ipotesi che il cosmografo Sirāḡaddīn
Abū Ḥafṣ 'Umar b. al-Muḡaffar Ibn al-Wardī non debba identificarsi con il
quasi omonimo giurista e grammatico, a dispetto delle analogie tra i due
nomi.

L'op., un compendio di cosmografia, ha, salvo qualche variante, la struttura
solita (cf. Berl. 6046): (f. 26 v) introduzione, in cui l'A. enumera le sue fonti;
il f. 28 r, dopo la rubrica *wa-ḥādīhi šūrat ad-dā'ira al-maḡkūra*, è bianco,
mentre f. 28 v è occupato da numeri riferentisi al planisfero che avrebbe do-
vuto precedere, come in altri mss.; (f. 29) commento al suddetto planisfero,
più un indice della materia trattata nell'op. vera e propria (ff. 38-175), divisa
in 12 *faṣl*.

Br. G II 131 (dove è da correggere Garr. 768/70), S II 163; da aggiungere
Vat. V. 1608², con rimando; Cairo³ I 293; Bagdad Awqāf 3017 3018; S bath
F. 253; Teheran Ḥikmat 6 (RIMA III 14); Teheran Ḥanḡī 38 (RIMA III 60);
Teheran Univ. 3387; Yale 1468; Birmingham Isl. 888-891; Rabat² 2337
2338; Chester Beatty 3111 4272,1 4734; Leeds 46; Hels. 26; Moskva INA. 2
28-34; Wien Gl. 164. Sarkīs 284.

Inc., dopo la *basmala*: قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله الحمد
لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب... وبعد فان خالق الخلق والبرية ومن له
الارادة والمشية قد ميّز الملوك والرعاة

Term.: فلما سمع عضد الدولة ذلك ضحك وتعجب من استحضاره خواص البلدان في
الجمال وامر له بخلعة سنينة ومال والله اعلم

Seguono, come in molti altri mss., le appendici:

a) (ff. 175 v-187 v) *Nubḡa... min k. ad-Dahab al-masbūk fī siyar al-mulūk*.
Estratto, dello stesso Ibn al-Wardī, di *ad-Dahab al-masbūk ilḡ*. (di Ibn al-
Ḡawzī: Br. G I 502, S I 915).

b) (ff. 187 v-197 r) *Durrar (var. Durr, Radd) al-kalām fī masā'il 'Abdallāh
b. Salām li-nabiyyinā Muḥammad*. Questioni rivolte dall'ebreo 'Abdallāh b.
Salām (cf. E.I. I 31-32) al Profeta. Altri mss.: Ambr. 444 VII, con rimandi;
Vat. V. 416²⁸ 1791¹, con rimandi; Garr. 2003, 16; Varsavia Soc. Or. 149
(Dembski 152).

Inc.: وفيه فوائد كثيرة وعلوم كثيرة تزيد هذا الكتاب رونق (sic) وبهجة وتفيد الناظر
فيه استدلالا وحجة روي عن عبد الله بن عباس رضى عنه قال لما بعث النبي صلعم وامر ان
يكناب ملوك الكفار وان يدعومهم الى عبادة الملوك الجبار كتب كتابا الى يهود خبيير

Term.: وان ما اخبرت به حق والساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في
القبور فكبرت الصحابة عند ذلك وسماه رسول الله صلعم عبد الله بن سلام وصار من
اكابر الصحابة ونقمة على اليهود رضى تمت

c) (ff. 197 r-218 v) Una serie di 36 brevi *diker*, relativi ai primordi dell'umanità
ed alla fine del mondo. È un estratto del *k. Bad' al-ḥalq wa't-ta'rīḡ*, di al-
Muṭahhar b. Ṭāhir al-Maqdisī (vissuto intorno al 355/966; Br. S I 222).

d) (ff. 218 v-222 r) *Qiladat ad-durr al-mantūr fī dīkr al-ba't wa'n-nuṣūr*. Poemetto escatologico di 'Izzaddīn Abū Muḥammad 'Abdal'azīz b. Aḥmad b. Sa'īd ad-Dīrīnī (m. 697/1297).

Br. G I 452, S I 811; da aggiungere Varsavia Soc. Or. 156 (Dembski 154).

N.B. - Nei mss. della *Ḥarīda* di solito il *Ġadwal* (n.^{2b}) e la *Urgūza* di Ibn al-Habbāriyya (v. n.^{2c}) seguono, anziché precedere.

Senza data. Senza nome di copista (ma probabilmente identico a quello del n.⁶).

⁴ (ff. 222 r-262 r) *k. al-'Ayn wa'l-'iyān 'an waqa'at āḥir az-zamān*.

Autore: Maḥmūd b. Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Ġaznawī as-Suhrawardī.

L'A. e l'op. non sono citati dal Br. È probabile, però, che l'A., al quale appartiene un trattato teologico senza titolo (Berl. 3482), sia identificabile con Maḥmūd b. Muḥammad al-Ġaznawī Abū 'l-Faṭḥ, citato da Br. S II 987 come autore di un *Tafsīr al-Qur'ān*. Quanto all'op., l'A. dice (f. 223 r) di averne derivato il contenuto da un *k. al-Kašf wa'l-bayān 'an ḥawādīṭ āḥir az-zamān*, di cui non indica l'autore e che non è dato identificare nemmeno dal titolo.

Trattato escatologico-apocalittico, diviso in 11 *bāb*: (f. 223 r) *fī damm ad-dunyā wa-fasād al-azmīna wa-tag'yīr al-aḥwāl*; (f. 228 r) *fī 'l-amr bi'l-ma'rūf*; (f. 230 r) *fī bayān fasād al-umarā' wa'l-wulāt*; (f. 232 r) *fī 'l-a'imma 'l-'ādilīn*; (f. 234 v) *fī ma'w'izat ahl al-'ilm li'l-ḥulafā' wa'l-wulāt*; (f. 237 r) *fī dīkr fasād 'ulamā' āḥir az-zamān*; (f. 237 v) *fī dīkr dalā'il iqtirāb as-sā'a min al-ḥurūf wa-ḡayrihā*; (f. 241 v) *fī dīkr ḥurūḡ al-mahdī*; (f. 247 v) *fī dīkr ḥurūḡ ad-daḡḡāl wa-nuzūl 'Isā ibn Maryam*; (f. 257 r) *fī dīkr ṭulū' as-šams min maḡribihā wa-ḥurūḡ dābbat al-arḡ*; (f. 251 r) *fī dīkr ḥurūḡ Yāḡūḡ wa-Māḡūḡ wa-aṣnāfihim wa-ṣifātihim*.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير... وبعد فان الله اتقن ما صنع واحكم ما ابدع... هذا ما حرره العبد المشرف على نفسه... مجود بن محمد بن الحسين الغزنوي

Term.: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وينبع فير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (Cor. IV, 115)

Senza data. Senza nome di copista (ma probabilmente identico a quello del n.⁶).

⁵ (ff. 262 v-269 r) Miscellanea contenente:

a) (ff. 262 v-263 v) una *fā'ida* sulla durata e la fine del mondo, con citazioni da Suyūṭī; una *fā'ida* sulle dimensioni e l'eclisse del sole, con citazioni da Ibn al-'Imād (lo stesso che in Br. S II 403, m. 1089/1679, ?), da an-Nišāpūrī

e aṭ-Ta'labī (probabilmente la stessa persona, Aḥmad b. Muḥammad aṭ-Ta'labī an-Nišāpūrī, m. 427/1035: Br. G I 350, S I 592); una *mas'ala* sulle dimensioni del sole, con *ḡawāb* di Ḡamāladdīn Muḥammad b. Abī Bakr al-Ašḥar (m. 991/1583 o 989/1581-1582: Br. S II 548; Šawkānī II 146 n. 424; Kaḥḥāla IX 106; v. n. 350² f. 10 v), che cita 'Abdallāh b. As'ad a l-Yāfi'i (m. 768/1367) in una sua op., *Sirāḡ at-tarḥīd*, di cui Br. S II 228, n. 15 conosce un *Muḥtaṣar*.

b) (ff. 263 v-269 r) *k. al-Kašf 'an muḡāwazat ḥādīhi 'l-umma al-alf*.

Autore: Ḡalāladdīn Abū 'l-Faḍl 'Abdarrahmān (b. Abī Bakr) a s-Suyūṭī (m. 911/1505).

Confutazione dell'opinione che la fine del mondo sarebbe venuta mille anni dopo Maometto.

Precede (ff. 263 v-264 r) una breve biografia dell'A., tratta da una più ampia, scritta da un suo discepolo (la più nota è *Bahḡat al-'Ābidīn* di 'Abdalqādir b. Muḥammad aš-Šādilī, m. 920/1514: Br. G II 144); il contenuto, quindi, è diviso in 4 *dīkr*, come in Berl. 2753, mentre la fine è come in Berl. 2759.

Br. G II 151, S II 187, n. 135; da aggiungere Garr. 2002,2 2029,5; Bagdad Awqāf 3108 3318,1 3372,5 3404,6 3485,2; Tanta 183 (RIMA 256); Yale 867; Birmingham Isl. 471; Rabat² 790; Chester Beatty 5550,12; Brat. 145.

Inc., dopo la *basmala*: كتاب الكشف عن مجاوزة الخ... وبعد فقد كثر السؤال عن

الحديث المشتهر على السنة الناس ان النبي صلعم لا يمكث في قبره الف سنة

Term.: فيأتي بهم الى الاسكندرية فيقاتل اهل الاسلام بها فهذا اول الملاحم

Senza data. Senza nome di copista (ma probabilmente identico a quello del n.⁶).

⁶ (ff. 269 v-288 v) *Ḥabar (Qiṣṣat) madīnat an-nuḥās wa-qaṣr ar-raṣās*.

È una rielaborazione di tre racconti delle *Alf layla wa-layla* (corrispondenti a pp. 37-52 dell'ed. 1251/1835, vol. I; cf. Chauvin, *Bibl. ar.* V 32-35; da aggiungere Barb. 79⁴ (G. Levi Della Vida, *Elenco* 245); Vat. V. 1747 v; Rabat² 2051): *ḥikāya 'Abdalmalik b. Marwān ma'a akābir dawlatihi fī saltana sayyidina Sulaymān*, *ḥikāya Ṭālib b. Sahl ma'a Mūsā b. Nuṣayr*, *ḥikāya safar Mūsā b. Nuṣayr ma'a 'š-šayḥ 'Abdaṣṣamad fī ṭalab al-qamāqim as-sulaymāniyya*.

Inc., dopo la *basmala*: وبعد فهذا خبر مدينة النحاس وقصر الرصاص

Term.: ثم ان الامير موسى خرج من ساعته الى مكان وحيش ولم ينزل يعبد الله حتى اتاه اليقين وهذا ما انتهى الينا رقة في خبر مدينة النحاس وقصر الرصاص

Dat. 18 šawwāl 1091 (1680). Copista: Rāšid b. Muḥammad b. 'Abdallāh az-Zafīrī az-Zuhdī al-'Adlī.

⁷ (ff. 289-291 r) La *qaṣīda* di al-Masūḥī (n.^{2a}).

334 (Rossi 33)

Sec. XI/XVII; o,204 × o,153; ff. 247; *nashī* yemenita di varie mani, con rubriche in rosso, varie glosse e vari frontespizi molto rozzi; rileg. orientale in tutta pelle senza risvolto, con impressioni a freddo, molto deteriorata e scucita.

¹ (ff. 1-147) *k. al-Badr as-sārī fī šarḥ Wāsiyat ad-darārī*.

Autore: Muḥammad b. 'Izzaddīn (b. Muḥammad b. 'Izzaddīn b. Šalāḥ) a l-M u f t ī (m. 1050/1640: Sawkānī II 203 n. 471).

Commento al trattato di teologia *Wāsiyat ad-darārī*, dello stesso A., a sua volta estratto di un'opera teologica dell'imām a l-M a n ṣ ū r al-Qāsim b. Muḥammad. La notizia è data dall'A., che parla della restaurazione religiosa dell'imām al-Manṣūr contro il diffondersi nel Yemen delle idee mu'tazilite (f. 1 r-v). La *Wāsiya*, il cui testo, scritto in rosso, è incluso nel commento, si divide in: *muqaddima* (f. 3 v), *maqṣūd* (f. 15 v) e *ḥātima* (f. 122 v).

Br. G II 407: citato un solo altro ms., BMS 1212 VI (dat. 1026/1617, quindi un poco anteriore); da aggiungere Cairo³ I 99 (dat. 1110/1699); Yale 1100-1101.

La *Wāsiyat ad-darārī* inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الوحيد جلالة المنزه عن الامثال... وبعد فقد سألتني الطالب للاسترشاد الى سبيل الرشاد

Term.: وفي امامة المفضول الخلاف وكذا في صحة التعدد تم المرام

Il commento inc. *ex abrupto*: على مذاهب مختلفة واقوال متشعبة مضطربة لما حاولوا تفضيل احوال الالهيات وجميع افعال رب البريات

Term.: فيه الخلاف ذهب الاكثر الى المنناع ذلك والبعض جؤز ذلك ورواه في الجامع عن علماء آل الرسول وموضع الحجج بسائط الفن

Dat. 22 ša'bān 1084 (1673). Copista Ḥasan b. Aḥmad b. Šāliḥ b. Aḥmad an-Nuḍārī. La copia fu eseguita per il qāḍī Ġamaladdīn 'Alī b. Aḥmad a s-S a m ā w ī.

² (ff. 148-159) Miscellanea di responsi giuridici, contenente un responso, anonimo, su un caso di schiavo fuggiasco (dat. dū 'l-qa'da 1070/1660), ed i seguenti altri dell'imām al-Mutawakkil 'alā' l-lāh Ismā'il b. al-Qāsim al-Manṣūr (v. nn. 307³ 349² f. 3): (f. 148 v) a un quesito del qāḍī Šarafaddīn al-Ḥasan b. Aḥmad a l-Ḥ a y m ī (v. n. 307³) sulle pene da applicare ai Muḡabbira e ai miscredenti; (f. 152 r) ai seguenti quesiti del qāḍī di Šan'a', Šaraf(addīn) al-Ḥusayn b. Yaḥyā a s-S u ḥ ū l ī (Saḥūlī) (fratello del qāḍī Ibrāhīm b. Yaḥyā a s-S u ḥ ū l ī, m. 1060/1650: Br. S II 559-650, e

forse identificabile, nonostante la differenza dell'*ism*, con il qāḍī al-Ḥasan b. Yaḥyā a s-S u ḥ ū l ī, di cui Vat. V. 1158¹⁰ contiene quesiti giuridici rivolti all'imām al-Mutawakkil Ismā'il): se sia lecito punire il padre o il tutore di una donna che disubbidisca al marito, se si debba dare corso alla denuncia per offese quando il loro autore si è servito di una terza persona per commetterle, se il retratto sia nullo per l'insolvenza del compratore, se meriti condanna chi accusa senza fondamento, se un *ḍimmī* che compera beni dei musulmani possa procurare dei danni, se debba essere diverso il risarcimento per ferite di tipo diverso; (f. 154 r) a un quesito del qāḍī Muḥammad b. Šalāḥ a l-F a l a k ī (aḍ-Ḍimārī) (v. n. 317¹ f. 6 v) e di Muḥammad b. al-Ḥasan b. (al-Qāsim al-Manṣūr) (m. 1079/1668: Šawkānī II 159-160 n. 435; Kaḥḥāla IX 209; v. n. 339 f. 2 v), su un caso controverso di colpevolezza per omicidio; (f. 156 r) a un quesito, anonimo, circa la proprietà degli alberi piantati in un terreno affittato; (f. 156 r) lettera dell'imām a l-M u t a w a k k i l al qāḍī Waḡīhaddīn 'Abdalqādir b. 'Alī a l-M u ḥ a y r i s ī (v. n. 311 f. 276 r) e risposta di quest'ultimo, in relazione a lamentate irregolarità di procedura; (f. 158 v) altri responsi dell'imām a l-M u t a w a k k i l: a un quesito, anonimo, circa un caso particolare di proprietà; a un quesito del qāḍī 'Abdalqādir a l-M u ḥ a y r i s ī su un caso di compravendita con clausola di pagamento a termine; (f. 159 r) a un quesito del qāḍī Šarafaddīn al-Ḥasan b. Aḥmad a l-Ḥ a y m ī sull'usura e l'impiego del denaro che essa ha fruttato.

³ (ff. 160-164 r) Raccolta di formulari di atti giuridici.

Dat. 7 ḡumādā I 1089 (1678). Copista: 'Alī b. Šāliḥ b. Aḥmad b. Qāsim b. 'Alī as-Sibā'ī.

Ff. 164 v-165 contengono frammenti in versi e in prosa.

⁴ (ff. 166-210 r) *k. an-Nāsiḥ wa'l-mansūḥ*.

Autore: 'Abdallāh b. al-Ḥusayn b. al-Qāsim (Šāḥib az-Za'farān) (vissuto intorno al 300/912).

L'op. è divisa in due *ḡuz'*, di cui il primo termina al f. 187 v.

Br. G I 191, S I 334: citato un solo altro ms. completo, Berl. 10226 (dat. 1036/1626), oltre ad un frammento dell'op., contenuto in Ambr. A 75 XII (RSO II 164, III 586).

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تواري منه الستور... قال عبد الله بن الحسين... اختلف الناس في معاني كتاب الله وتفسير ما فيه

Term.: وعن اهل البيت عم في هذا فكثير كرهنا بذكره التطويل لانه من لم يكتف بايسر الحق ويمنته لم ينتفع بكثيره

Dat. 30 rabī' I 1084 (1673). Copista: 'Alī b. Šāliḥ b. Aḥmad b. Qāsim b. 'Alī as-Sibā'ī.

⁵ (ff. 210 v-213) Miscellanea poetica, contenente frammenti di poesie del qāḍī Ġamāladdīn 'Alī b. Aḥmad as-Samāwī (m. 1117/1706: Šawkānī, *Mulḥaq* 157-158 n. 292) e di suo figlio 'Abdallāh b. 'Alī b. Aḥmad as-Samāwī, due versi del qāḍī 'Abdalwāhhāb al-Malikī, uno di al-Mutanābbī, vari frammenti di poesie dell'imām al-Wāḥiq bi'llāh al-Muṭahhar b. Muḥammad (v. n. 328^r f. 14 v), due versi riportati da al-Mubarrad (*Kāmil*, ed. Wright, p. 85 righe 1-2), altri anonimi.

⁶ (ff. 214-231) Pagine (*awrāq*) di un *Dīwān*.

Autore: Šihābaddīn Abū Muḥammad Aḥmad b. Muḥammad b. 'Alī b. Falīta (Fulayta) (v. n. 328^r). L'A., come si deduce dal contenuto (e cf. *Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft* XXII, 1918, p. 197), deve essere vissuto verso il 720/1320. Infatti, delle poesie riportate, la maggior parte sono in lode dei principi rasūlidi al-Malik al-Mu'ayyad Dāwūd b. Yūsuf (che regnò dal 696/1296 al 721/1321) e al-Malik al-Muḡāhid 'Alī b. Dāwūd (successore del precedente, dal 721/1321 al 764/1362). Ciò sembra far escludere la sua identificazione con il quasi omonimo Abū 'I-'Abbās Aḥmad b. Muḥammad b. 'Alī Ibn Qulayta (Fulayta) (m. 231/845: Br. S I 415-416 [cita un *Dīwān*, nell'unico ms. Münch. Gl. 95]), autore del più antico trattato sull'amore sessuale, *Ruṣd al-labīb ilā mu'āšarat al-ḥabīb*, nonostante l'affinità del genere poetico di preferenza trattato (anche Kaḥḥāla II 20 e 136 mantiene la distinzione tra i due autori, però attribuendo *Ruṣd al-labīb* sia all'uno sia all'altro, secondo la testimonianza di fonti diverse). Infatti, delle poesie riportate, alcune sono di carattere erotico e l'anonimo raccoglitore nella prefazione (ff. 214-216) parla della licenziosità di gran parte dei versi di Ibn Falīta. Egli informa di avere raccolto il *Dīwān* di Ibn Falīta per ordine di al-Malik al-Muḡāhid: tale *Dīwān* era intitolato originariamente *Tuḥfat al-muṭālī' wa-buḡyat al-muṭahālī'* e comprendeva 70 poesie, 10 per ognuno dei 7 *fann* in cui era diviso. Nella raccolta da lui curata dice di avere incluso altri versi sparsi, intitolando tale *Corpus*, diviso in due parti, *Sūq al-fawāqih wa-muḥat al-muṭafākih*.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي خلق الانسان علمه البيان... وبعد فان
الادب حلية الانسان وزينة اللسان وهو الدليل على فضيلة العرب

Term. col verso: كل عيد له بوجهك عيد طالعك اليك منه السعور

Senza data. Senza nome di copista.

Ff. 229 v contiene versi di Ibn az-Zaqqāq. Non si può decidere se si tratti di 'Alī b. 'Aṭīyya b. az-Zaqqāq (m. 528/1134: Br. G I 260).

⁷ (ff. 232-241) Scritto acefalo e anonimo, da identificare però con *Šidq al-wafā' bi-ḥaqq al-iḥā'*, di 'Abdalqādir b. Šayḥ b. 'Abdallāh al-'Aydārūs (m. 1038/1628: Kaḥḥāla V 288).

Biografia di Aḥmad b. Muḥammad b. 'Abdarrahīm al-Ḥaḍramī Bāḡābir (m. 1001/1593), amico dell'A. e šūfī al pari di lui. L'op. riporta versi in onore del defunto Bāḡābir, di 'Abdallāh b. Aḥmad b. Fūlān al-Ḥaḍramī e di Ġamāladdīn Muḥammad b. 'Abdallaṭīf al-Ġāmī al-Makkī Maḥdūmzādē, e la *martiya* per il medesimo di Šihābaddīn Aḥmad b. 'Alī al-Buskarī al-Makkī al-Mālikī (m. 1009/1600), contenuta in Berl. 7952 (dove però i versi sono 67, due in più).

Br. G II 419, S II 617. Due soli altri mss. citati: Berl. 10139; Būhār 457².

Term. col verso: ومن والاه من آل وصحبه على مر الاوائل والبكور

Senza data. Copista: Aḥmad b. 'Abdarrahīmān b. Abī Kaṭīr (Kuṭayyir). Copiato per as-sultān Muḥammad b. as-sultān Badr b. as-sultān 'Umar.

⁸ (ff. 242-244) Scritto anonimo, che sembra rivolto al sultano Badr b. 'Umar e tratta della cura dei governanti per i sudditi e, con riferimento alla situazione esistente nel Ḥaḍramawt, delle conseguenze che può avere l'ignoranza religiosa. Cita il k. *Šihāb al-aḥbār... min al-aḥādīṭ an-nabawīyya* di Muḥammad b. Salāma al-Qudā'ī (m. 454/1062: Br. G I 343, S I 584), uno *Šarḥ* a quest'ultima op., di Ismā'īl b. Muḥammad al-Ḥaḍramī (m. 678/1279: Br. G I 412, S I 731), e un *Maqāl an-nāṣihīn* di Muḥammad b. 'Umar Ġammāl (m. 964/1557: Kaḥḥāla XI 86).

⁹ (ff. 245-247) Miscellanea contenente, oltre a una citazione di Šarafaddīn al-Ḥasan b. Aḥmad al-Ġalāl (m. 1079/1668 o 1084/1673: Br. S III 608, Šawkānī I 191 n. 124) sui 7 *fuaḡahā* riconosciuti nel Ḥiḡāz, versi anonimi e altri: di Ġamāladdīn 'Alī b. Yaḥyā aḍ-Damadī, tolti da una qaṣīda intitolata *aḍ-Darī'a aš-šāfiya li-murīd al-'afw wa'l-'āfiya*; i vv. 1-25 di *al-Qaṣīda al-Ḥimyarīyya* (n. 363³) (che però corrispondono ai vv. 1-24 dell'ediz. di A. von Kremer, Leipzig 1865, più uno che in questa manca ed è il quinto della presente redazione), di Našwān b. Sa'īd al-Ḥimyarī (m. 573/1178: Br. G I 300-301, S I 527-528; v. n. 352^r f. 3 v); una qaṣīda kāmīl *rā*, in lode dell'imām al-Mutawakkīl Šarafaddīn Yaḥyā (b. Šamsaddīn) b. al-Murtaḍā (v. nn. 314⁺ 342⁺), di Ibn Bahrān (probabilmente Mūsā b. Yaḥyā, m. 950/1543: Br. S II 543, panegirista dell'imām sopra citato); una qaṣīda kāmīl *dā*, di Yaḥyā b. 'Isā b. Ibrāhīm Ibn Maṭrūḥ (m. 649/1251: Br. G I 263, S I 465), la stessa che è contenuta in Berl. 7754 f. 17 b; due versi della *Badī'iyya* di Taqīyaddīn Abū 'I-Maḥāsīn Abū Bakr b. 'Alī Ibn Ḥiḡḡa (m. 837/1434: Br. G II 16, S II 8); due versi di 'Abdalḥādī as-Sūdī (m. 932/1525: Br. G II 407, S II 565; Šawkānī I 408 n. 193; per le varianti del nome cf. Vat. V. 292³); tre versi di Tāḡaddīn (Abū 'I-Yaman Zayd b. al-Ḥasan?) al-Kindī (m. 613/1216: Br. G I 93²).

Sec. XI/XVII; o,200 × o,149; ff. 258 di 23 righe ca.; *nashī* yemenita; rubriche in rosso; ff. 93 v, 139, 140, 141, 142 v, 143 r, 218, 225 v, 226, 257 v, 258 vac.; il f. 242 r riporta, cancellato, il f. 251 r; rileg. orientale in mezza pelle con risvolto.

¹(ff. 1-39) *k. al-Bisāt*.

Autore: l'imām a n-Nāṣir li'l-ḥaqq al-Ḥasan b. 'Alī b. al-Ḥasan b. 'Alī b. 'Umar b. 'Alī b. al-Ḥusayn b. 'Alī b. Abī Ṭālib al-Uṭrūṣ (m. 304/916: Ziriklī II 216).

Breve esposizione della dottrina zaidita. Comprende: (f. 1 v) introduzione sulla *ma'rifa bi-llāh* e sulla *ṣalāt 'alā 'n-nabī*; (f. 3 v) *bāb fī waṣf haqīqat al-īmān mā hiya*; (f. 11 r) *bāb fī waṣf al-kufr bi-llāh wa'l-kufr bi-ni'matihi*; (f. 13 v) *bāb fī waṣf al-kufr min kitāb Allāh wa-ma'ānihi wa-awṣāfihi*; (f. 18 r) *bāb fī waṣf an-nifāq wa'd-dā'il 'alā anna kull 'aṣ munāfiq*; (f. 23 r) *bāb fī waṣf al-hidāya min Allāh wa-min 'ibādīhi*; (f. 24 v) *bāb fī waṣf idlāl Allāh li-'ibādīhi 'l-uṣāt lahu*, articolato in 20 *masā'il* con relative risposte, che confutano altrettanti punti della dottrina dei Muḡabbirā. Delle numerose opere, che l'A. avrebbe scritto, e di cui il *Fihrist* (193,16) dice di non poter citare nemmeno il titolo, pregando chi avesse conoscenza di qualcuna tra esse di colmare la lacuna (cf. R. Strothmann, *Der Islam* II 62-63), è questa la seconda di cui si sia avuta notizia, oltre a *al-Ibāna*, contenuta in un suo commento (cf. Br. S I 317).

Br. S I 317: citato un solo altro ms., Vat. V. 993 (del sec. XIV/XX); da aggiungere Ṣan'ā' kalām 96, dat. 950/1543 (RIMA I 203).

Inc., dopo la *basmala*: *هد كتاب عمله الداعي الى الله الناصر للحق... وجعله بساطا ودليلا للمتعلمين في القول بالتوحيد*

Term.: *وما الخسيس الذي ظفر به من الدنيا باعلا منيته كالنقيس الذي ضيعه من الاخرة بأدنى سهمته تم*

Dat. 17 ḡumādā 1052 (1642). Copista: 'Abdallāh b. Aḡmad b. Ibrāhīm (aṣ-Ṣarafī).

²(ff. 40-93 r) *Nihāyat at-tanwīh fī izhāq at-tamwīh*.

Autore: Ḡamāladdīn al-Hādī (Muḡammad) b. Ibrāhīm b. 'Alī b. al-Murtaḡā (Ibn al-Wazīr). V. nn. 317^r f. 7 r 342³.

Scritto apologetico, per confutare le aberrazioni dalla dottrina zaidita. Comprende: (f. 40 v) introduzione; (f. 44) *qaṣīda ṭawīl ā'imū*, dedicata all'imām

an-Nāṣir li-dīn Allāh Muḡammad b. al-Mahdī 'Alī b. Muḡammad (m. 793/1391: Ziriklī VII 178), sui torti subiti dalla famiglia del Profeta, *qaṣīda* seguita, a mò' di commento, dalla trattazione di 10 *masā'il*, che illustrano il pensiero zaidita sulle seguenti questioni: (f. 45 v) *fī muḡhir li't-tamassuk bi-maḡhab al-'itra an-nabawiyya*; (f. 52 v) *fī ilqā' ṣāhib ḡādīhi 'l-maḡāla maḡālatahu*; (f. 55 r) *fī-man ankara an yakūna iḡmā' al-'itra huḡḡatān*; (f. 61 r) *fī-man faḡḡala 'Ā'īṣa 'alā Fāṭima*; (f. 67 v) *fī-man ankara la'n Mu'āwiya*; (f. 72 v) *fī-man dahaba ilā anna Yazīd al-la'in mim-man yanbaḡi 't-tawaqquf fī ṣa'nihi*; (f. 74 v) *fī-man ḡāhhala 'l-Qāsim b. Ibrāhīm*; (f. 77 r) *fī-man ḡāla 'l-Hādī labbasa 'alā 'l-muslimīn adyānahum*; (f. 90 r) *fī-man da'afa isnād al-a'imma at-tāhirīn*; (f. 91 r) *fī-man ṣawwaba Naṣwān ibn Sa'id fī ḡaḡayānihi*. Br. S II 243: citato un solo altro ms., Ambr. 441 I (dat. 1076/1665-1666). BMS 539, citato dal Br., non rappresenta affatto un ms. di quest'op., ma di un'altra dello stesso A.; la citazione è stata provocata dal fatto che la presente op. si trova indicata nella descrizione del suddetto ms.

Inc., dopo la *basmala*: *الحمد لله الذي جعل العترة النبوية لهاميم الشرف... وبعد فانه قلما سلم حشد (؟) من حسد وكانت العترة النبوية محسدة المناقب وهذا آخر الكلام على الخيالات السانحة لا السؤالات القادحة والشبه المربقة لا الزبد المحققة*

Dat. 27 ṣafar 1054 (1644). Copista: 'Abdallāh b. Aḡmad b. Ibrāhīm (aṣ-Ṣarafī), il quale avverte di avere usato una copia guasta da errori e lacune ed esorta il lettore a verificare il testo su altra corretta.

³(ff. 94-137 r) *al-Ifāda fī ta'rīḡ al-a'imma as-sāda*.

Autore: l'imām a n-Nāṣir li'l-ḥaqq Abū Ṭālib Yaḡyā b. al-Ḥusayn b. Hārūn (al-Buṭṡānī) (Baḡḡānī) (m. 424/1033).

Storia degli imām zaiditi fino al 360/971 (cf. R. Strothmann, *Der Islam* I 358-361). L'A. informa (ff. 94 v-95 r) di aver voluto rimediare ad una lacuna, poiché le precedenti storie della famiglia del Profeta non distinguevano chiaramente la serie degli imām, e di avere quindi incominciato una storia più ampia, intitolata *al-Ḥadā'iq fī aḡbār dawī 's-sawābiq*, poi interrotta per mancanza di tempo dopo le prime due biografie. La presente op. è pertanto una redazione abbreviata, nella quale l'A. dice di aver seguito l'ordine con cui gli imām sono elencati nel *(Ḡāmi')* *al-Aḡkām (fī 'l-ḡalāl wa'l-ḡarām)* (Br. S I 316), di al-Hādī ilā 'l-ḡaqq Abū 'l-Ḥusayn Yaḡyā b. al-Ḥusayn b. al-Qāsim b. Ibrāhīm (di lui tratta la dodicesima biografia; v. n. 341³). L'op. contiene le biografie dei 16 imām seguenti: 'Alī, al-Ḥasan, al-Ḥusayn, Zayd b. 'Alī b. al-Ḥusayn, Yaḡyā b. Zayd, Muḡammad b. 'Abdallāh an-Nāṣir az-zakiyya, Ibrāhīm b. 'Abdallāh, al-Ḥusayn b. 'Alī al-Faḡḡī, Yaḡyā b.

'Abdallāh, Muḥammad b. Ibrāhīm, al-Qāsim b. Ibrāhīm, al-Hādī ilā 'l-ḥaqq Yaḥyā b. al-Ḥusayn, an-Nāṣir li'l-ḥaqq al-Ḥasan b. 'Alī, al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā, an-Nāṣir Aḥmad b. Yaḥyā, Muḥammad al-Mahdī b. al-Ḥasan ad-Dā'ī.

Br. G I 402, S I 698. Dei mss. citati, tranne Berl. 9666 (ca. 1000/1591), gli altri sono più recenti: Berl. 9665 (1133/1721), Leid.² 912 (1074/1664), Vat. V. 1159² (sec. XI/XVII).

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي اصطفى من عباده لتبليغ رسالته الانبياء المرسلين... هذا جوامع الكتاب الكبير الذي كنا بدأنا بجمعه في اخبار الاثمة الهادية لما نظرت انه عند الغسل شاهدت علامات السم فودت من بكائي وصحت
وقلت سم سيدي رضى تم

Dat. 17 ḡumādā I 1054 (1644). Copista: 'Abdallāh b. Aḥmad b. Ibrāhīm aš-Šarafī. Una nota di un certo 'Āmir b. 'Abdallāh b. 'Āmir (potrebbe essere il copista di Berl. 9701, dat. c. 1072/1661) avverte che « la presente copia contiene errori per difetto e per eccesso... e frasi che potrebbero indurre in errore ».

⁴ (ff. 137 v-138 v) Qaṣīda ṭawīl *dī*, di 53 versi, di (Šamsaddīn) Aḥmad b. Sa'daddīn (Muḥammad) b. al-Ḥusayn (b. Muḥammad) al-Miswārī (m. 1079/1668: Br. S II 560, da integrare con Ahlw., *Register*, p. 119 e con G. Levi Della Vida, *Elenco*, Indice, p. 314; v. nn. 327 f. 14 r 335^{5 7 9 11 13}). F. 142 r (dopo tre fogli vac.) contiene un frammento poetico, non identificabile.

⁵ (ff. 143 v-146 v) Biografia dell'imām an-Nāṣir li-dīn Allāh al-Ḥasan b. 'Alī b. Dāwūd al-Mu'ayyadī (v. n.⁶), scritta da Šamsaddīn Aḥmad b. Sa'daddīn (Muḥammad) b. al-Ḥusayn b. Muḥammad b. 'Alī b. Muḥammad al-Miswārī (v. nn. 327 f. 14 r 335^{4 7 9 11 13}), il quale fissa la data di morte dell'imām al 1025/1616, quasi identica a quella indicata dal ms. Berl. 10298, dopo avere esattamente collocato la sua rivolta contro il governo ottomano tra il 986/1578 e il 993/1585.

⁶ (ff. 147-168) *Asnā 'l-'aqā'id fī ašraf al-maṭālib wa-azlaf al-maqāṣid*.

Autore: l'imām an-Nāṣir li-dīn Allāh al-Ḥasan b. 'Alī b. Dāwūd al-Mu'ayyadī (m. 1024/1615 o 1025/1616: cf. n.⁵, Wüstenfeld, *Jemen*, p. 37 e Kaḥḥāla III 254; non è accettabile la data 929/1523, indicata da Griffini secondo il ms. Ambr. 368 II e accolta in Br. S II 556).

Dopo un'introduzione (ff. 147 v-149 r), l'A. risponde a 6 quesiti rivoltigli da uno scita del Yemen, sui seguenti argomenti: (f. 149 r) *qaḍīyyat al-ašbāḥ al-ḥamsa*; (f. 150 v) *inna 'l-ḥamsa 'l-ašbāḥ hum ahl al-kisā'*; (f. 152 r) *inna ahl al-kisā' fī 'l-ḡumla hum ahl al-bayt*; (f. 153 v) *inna ahl al-bayt ṭawā'ifu-*

hum wa-firaquhum ḡayr ḥāriḡiyyīn min al-firqa az-zaydiyya; (f. 154 r) *inna 'l-firqa az-zaydiyya hiya 'l-firqa an-nāḡiyya*; (f. 157 v) *ṭalab taṣḥīḥ al-ḥabar wa-iḥkāmihī wa-ma'rifa kayfiyyatihī wa-aḥkāmihī*. Seguono: un *far'* (f. 158 r), *mā... min ḥādihī 'l-maqāṣid as-sitta maṭlūb fihī 'l-qaṭ' wa-mā... minhā maṭlūb fihī 'ḡ-ḡann*; un *iškāl* (f. 162 v), se solo e tutta la *firqa zaydiyya* sia *firqa nāḡiyya*; un *tanbīḥ* (f. 163 v), se *ahl al-kisā' aw al-arba'a minhūm hum ahl al-bayt*.

Br. S II 557: citato un solo altro ms., Berl. 10298 (dat. 1057/1647).

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي... اما
بعد فان معاني هذه الاسئلة الآتي ذكره
ولا نعني بالإلجاج في هذا المعنى اكثر من هذا وهو طريق قطعي وبرهان يقيني
وهذا حصل الفراغ من المقصود

Dat. 25 rabī' II 1052 (1642). Copista: 'Abdallāh b. Aḥmad b. Ibrāhīm (aš-Šarafī).

⁷ (ff. 169-172) Cinque qaṣīde di Šamsaddīn Aḥmad b. Sa'daddīn (Muḥammad) b. al-Ḥusayn al-Miswārī (v. nn. 327 f. 14 r 335^{4 5 9 11 13}), la seconda delle quali è scritta in linee verticali nel f. 169 v. La successione delle qaṣīde è interrotta da una *'ibra wa-maw'iza*, tolta dallo *Šarḥ (Nahḡ al-balāḡa)* di Ibn Abī 'l-Ḥādīd (m. 655/1257: Br. S I 497 e 705), contenente il racconto di 'Abdallāh b. Mārwan ad al-Manšūr della sua avventura nella Nubia (ediz. di Beirut, 1963-1965, v. II 692; cf. Mas'ūdī, *Murūḡ*, VI, 162-165).

F. 172 v contiene versi di (Abū 'l-Qāsim al-Ḥusayn b. 'Alī) al-Wazīr al-Maḡribī (m. 418/1027 o 428/1037: Br. G I 353-354, S I 600-601) e di Abū 'l-Faḍl 'Ubaydallāh b. Aḥmad b. 'Alī b. Ismā'il al-Mikālī (m. 436/1044: Br. G I 286-287, S I 603), citati da un *Ḡalā' al-abṣār* di Abū Sa'id al-Muḥsin b. Muḥammad al-Ḥusaynī (= Abū Sa'id al-Muḥsin b. Muḥammad al-Ḡuṣamī al-Bayḥaqī, m. 494/1101 o 545/1150, cf. Br. G I 412, S I 731-732?), versi che peraltro non si trovano nei *Gedichte von... al-Mikālī*, ed. Moberg, Leipzig 1908.

⁸ (ff. 173-176 r) Lettera dell'imām al-Mu'ayyad bi-'llāh Muḥammad (b. Ismā'il) (m. 1097/1686: Ziriklī VI 262; Šawkānī II 139-140 n. 418) al faqīh Aḥmad b. Ḡābir al-Kusānī, che era divenuto zaidita, dopo essere stato sciafita. Come si legge al f. 176 r, fu scritta nel rabī' I 1080 (1669), il che porta ad escludere che l'A. sia l'imām al-Mu'ayyad bi-'llāh Muḥammad b. al-Qāsim (m. 1054/1644). Scopo della lettera è dimostrare l'eccellenza dell'*ahl al-bayt*.

Inc.: ذكر الفقيه... احمد بن جابر الكساني فيما كتبه اليها تعبيراً عن مطلبه

Term.: *قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيرة انا ومن اتبعني*

Senza data. Copista: 'Abdallāh b. Aḥmad b. Ibrāhīm aš-Šarafī.

⁹ (ff. 176 v-178) *Sanad ḥadīṭ Abī 'l-Ġanā'im fī 'l-asbāṭ min walad al-Ḥasanayn*.

Autore: Šamsaddīn Aḥmad b. Sa'daddīn (Muḥammad) b. al-Ḥusayn al-Miswārī (v. nn. 327 f. 14 r 335^{4 5 7 11 13}).

Genealogia degli 'Alidi, attribuita al tradizionalista Abū 'l-Ġanā'im 'Abdallāh b. al-Ḥusayn (al-Ḥasan) b. Muḥammad, citato da H. H. VI 329 come autore di *Nuzhat 'uyūn al-muštāqīn*, e che, come si legge al f. 178 v, scrisse fino al 432/1041. Il vero e proprio *ḥadīṭ* incomincia al f. 177 v, con il titolo *Dīk al-asbāṭ al-itnā 'ašara min walad al-Ḥasanayn*.

Senza data. Copista: 'Abdallāh b. Aḥmad b. Ibrāhīm aš-Šarafī.

¹⁰ (ff. 179-180) Lettera dell'imām al-Maṣū'ī bi-'l-lāh al-Qāsim b. Muḥammad (v. nn. 304 328² 335¹⁵ 339⁹), che la scrisse mentre era a Kawkabān, imprigionato dai Turchi, in risposta ad altra mandatagli da Šarafaddīn al-Ḥasan b. Šarafaddīn al-Ḥamza al-Kaḥlānī (al-Kuḥlānī) (m. 1028/1618-1619: Šawkānī, *Mulḥaq* 69 n. 108) per ordine del governatore ottomano Sinān aš-Šaġīr.

Inc.: *بلغ كتاب السيد قمر الاقبار وخيرة الاخيار*

Term.: *فقطع دابر القوم الذين ظلموا*

¹¹ (ff. 181-186) Quattro qašīde di Šamsaddīn Aḥmad b. Sa'daddīn (Muḥammad) b. al-Ḥusayn al-Miswārī (v. nn. 327 f. 14 r 335^{4 5 7 9 13}), delle quali la prima è una *martīya* per Šarafaddīn al-Ḥusayn b. [al-Manšūr] al-Qāsim b. Muḥammad (v. n. 327⁴), e le altre tre hanno contenuto parenetico-religioso.

¹² (ff. 187-191 v) *ar-Risāla al-wāzi'a li-šāliḥ al-umma 'an al-i'tirād 'alā 'l-a'imma*.

Autore: l'imām al-Mu'ayyad bi-'l-lāh Yaḥyā b. Ḥamza b. Rasūlallāh (m. 747/1346: Br. G II 186, S II 242; Kaḥḥāla XIII 195).

L'A. rivendica l'autorità dell'imām in materia giuridica, per giustificare l'ordine da lui dato al qāḍī Badraddīn Muḥammad b. Aḥmad al-'Anbas (f. 191 r) di rendere esecutive le *fatwā* emesse circa la vendita di certi legati testamentari.

Lo scritto non è citato dai repertori; può forse identificarsi con *ar-Risāla al-kāšifa li'l-ġumma 'an al-i'tirād 'alā 'l-a'imma* (Berl. 4950 XIV n. 126), di cui Vat. V. 956 contiene estratti.

Inc.: *الحمد لله الذي افاض علينا النوار... مشكاة العرفان... وبعد فان الله لما علم في قيام الائمة من صلاح الخلق في امور الديانة*

Term.: *وفي هذا ابلاغ وكفاية قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني*

¹³ (ff. 191 v-195) Tre qašīde di Šamsaddīn Aḥmad b. Sa'daddīn (Muḥammad) b. al-Ḥusayn al-Miswārī (v. nn. 327 f. 14 r 335^{4 5 7 9 11}), la prima di contenuto religioso-zaidita, la seconda una *martīya* per al-Ḥasan b. [al-Manšūr] al-Qāsim b. Muḥammad (m. 1048/1639: Zirikī II 228) e la terza una *martīya* per Yūsuf b. [al-Manšūr] al-Qāsim b. Muḥammad (m. 1044/1634 o 1045/1635).

¹⁴ (ff. 196-210) *Asānīd Šaḥīfat al-imām... 'Alī b. Mūsā ar-Riḍā*.

Si tratta, in realtà, della *Šaḥīfat ar-Riḍā*, raccolta di tradizioni (qui 194); gli *asānīd*, o serie completa dei trasmettitori, precedono al f. 196 v. In tale serie 'Alī b. Mūsā ar-Riḍā, l'8° imām sciita (m. 202/817 o 203/818), occupa il settimo posto, mancando tra gli imām precedenti Ḥasan b. 'Alī (da segnalare un'incongruenza: al f. 196 v si legge che ar-Riḍā avrebbe riferito le tradizioni nel 144/761, il che è impossibile, essendo egli nato nel 151/768 o nel 153/770).

L'ultimo trasmettitore è il qāḍī Muḥammad b. 'Abdallāh b. Ḥamza Ibn Abī 'n-Naġm, da cui l'anonimo raccoglitore dice di avere appreso le tradizioni mentre era suo discepolo in Ša'da, nel 630/1232. Questo dato porta ad escludere che la presente raccolta sia quella compilata da Raḍīyaddīn Abū 'Alī al-Faḍl b. al-Ḥasan aṭ-Ṭabarsī (m. 548/1153: Br. S I 708-709), la sola citata in Br. S I 319.

Inc., dopo la *basmala*: *اخبرنا القاضي الاجل ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمزة بن ابي النجم قراءة عليه بصعدة في جادى الاولى من سنة ثلاثين وستمائة قال اخبرني قال رسول الله... فركبتنها حتى انتهيت*

Senza data. Senza nome di copista.

¹⁵ (f. 210) *Qašīda wāfir bu* dell'imām al-Maṣū'ī bi-'l-lāh al-Qāsim b. Muḥammad (v. nn. 304 328² 335¹⁰ 339⁹), che esorta il figlio Muḥammad, il futuro imām al-Mu'ayyad bi-'l-lāh, alla ricerca della scienza. Segue un *ġawāb* in versi di Šamsaddīn Aḥmad b. Muḥammad b. Šalāḥ aš-Šarafī (v. n. 304), poi un *ġawāb* anonimo, pure in versi, infine versi dell'imām al-Qāsim b. Ibrāhīm (ar-Rassī) (m. 246/860: Br. G I 185-186, S I 314-315).

¹⁶ (ff. 211-217) *ar-Risāla an-nāsiha bi'l-barāhīn al-wāḍiḥa ilā sādātīnā min ahl al-bayt al-kirām wa-kā'bihim al-a'lām*.

Autore: Aḥmad b. Muḥammad Ḥābis (?), il cui nome si legge nell'ultima riga e che potrebbe identificarsi con il qāḍī Aḥmad b. Yaḥyā b. Aḥmad b. Mu-

ḥammad Ibn Ḥābis ad-Dawwārī (v. nn. 313a-346). Il contenuto dell'op. permette tale identificazione, almeno con i suoi riferimenti cronologici: l'A. invita gli Zaiditi ad essere uniti, a guardarsi dalle opinioni personali (*ḡann*) e ad obbedire all'imām al-Mansūr (f. 214), con ogni probabilità al-Qāsim b. Muḥammad (m. 1029/1620). Infatti, tra le autorità che egli cita a sostegno delle proprie parole è l'imām al-Ḥādī 'Izzaddīn b. al-Ḥasan (m. 900/1494; v. n. 341^{f. 7v}); ciò esclude che l'imām al-Mansūr possa essere 'Abdallāh b. Ḥamza (m. 614/1217) o al-Ḥasan b. Muḥammad (m. 670/1271).

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى... اما بعد ايتهيا العصابة الزيدية والغثة الهادية المهديية خصوصا سادات العترة الزكية... فاذكروا ما خولم الله

Term.: ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين آمنوا ربنا انت رؤوف رحيم

Dat. ramadān 1054 (1644). Autografo.

¹⁷ (ff. 219-225) k. *Ḡawāhir at-taqlīd al-muḥaddir min at-talbīs wa't-taqlīd al-muzayyil li-ḥawātir at-tawahhum wa'l-ḡawāya 'l-muršid ilā 'l-hidāya fī 'l-'aḡā'id wa'r-riwāya*.

Autore: l'imām al-Mahdī li-dīn Allāh Aḥmad b. Yaḥyā (Ibn al-Murtadā) (v. nn. 319^f 339²¹ 341¹²⁵ 349⁶).

Risāla scritta a gente della fazione di Ṣan'ā' a lui avversa, per respingere la proposta di un compromesso simile a quello stipulato con Mu'āwiya da Ḥasan b. 'Alī. La lettera deve essere anteriore al 794/1392, anno in cui l'imām al-Mahdī rimase prigioniero del suo avversario al-Mansūr 'Alī b. Ṣalāḥ (m. 840/1436; Ziriklī V 160; v. n. 339²¹).

Inc., dopo la *basmala*: من كلام الامام المهدي... اما بعد السلام التام... على المقام الافضل الاكمل والله المسئول ان ينفع ببركته

وانها تعدل عند الله احياء نفس ومن احيائها وكانما احيى الناس جميعا والسلام

Senza data. Senza nome di copista.

¹⁸ (ff. 227-241 r) (*Awrad al-usbu'*) (var. *al-ayyām*; altro titolo *al-Awrad as-sab'a*).

Autore: (Muḥyaddīn) Muḥammad b. Usāma (m. verso la fine del sec. I/inizio del sec. VIII; cf. Vat. V. 1790²).

Silloge di versetti coranici, da recitare come preghiere nei vari giorni della settimana.

L'A. narra (f. 227 r) di essere stato imprigionato ad Iṣfahān sotto accusa di carmatismo e di avere visto in sogno il Profeta, che gli assicurò la liberazione se avesse raccolto sette *awrad* del Corano, distribuiti secondo i giorni della settimana; e così avvenne. La raccolta si divide pertanto in: *wird at-tahmīd*, *wird al-istiḡfār*, *wird at-tasbīḥ*, *wird at-tawakkul*, *wird as-salām*, *wird at-tahlīl*, *wird ad-du'ā'*, incominciando dal venerdì.

Altri mss. dell'op., che è citata da Ḥ.Ḥ. I 1475, ma non dal Br.: Gotha 803 (parziale), Berl. 3678 f. 122 v-165 v, Vat. V. 1199 b 1790².

Inc., dopo la *basmala*: روي عن محمد بن اسامة انه اتهم بمدينة اصفهان بمنهوب القرامطة

Term.: اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيثي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا تم

Senza data. Senza nome di copista.

¹⁹ (ff. 241 v-242) Racconto, che ha per protagonista Rabī' b. Sulaymān (al-Murādī, m. 270/884, o al-Azdī, m. 256/870?; entrambi sono tradizionalisti, cf. Ibn Ḥallikān, *Wafāyāt* nn. 232 e 233), il quale rinuncia a fare il pellegrinaggio per dare il proprio denaro in elemosina a gente dell'*ahl al-bayt*, poi viene miracolato e vede in sogno il Profeta, che gli spiega come sia avvenuto il miracolo.

²⁰ (ff. 243 v-250 r) *Faḍā'il Amīr al-mu'minīn*... 'Alī b. Abī Ṭālib.

È la sezione, riguardante le prerogative e virtù di 'Alī, dello *Šarḥ Nahḡ al-balāḡa* di Ibn Abī 'l-Ḥādīd (v. n. 7), corrispondente alle pp. 35-46 dell'ediz. di Beirut, 1963-1965, v. I).

²¹ (ff. 251-257 r) *Risāla* di Abū Bakr (Muḥammad b. al-'Abbās) a l-Ḥuwwārīzmī (m. 383/993 o 393/1002: Br. G I 93, S I 150) a gente del Ṭabaristān, in cui sono commemorate le sventure dell'*ahl al-bayt*.

Inc.: وهذا جملة اخرى مما اصاب جماعة من اهل البيت عم وشيعتهم... قال الشيخ... ابو بكر الخوارزمي... سمعت... بما تكبكم به السلطان

Term. con il verso: والناس في الخفض والسرور وما نام طول الحياة خائفنا

336 (Rossi 35)

Sec. X/XVI; 0,205 × 0,140; ff. 159 di 14-16 righe ca.; *nashī*, in parte con rubriche in rosso; molte note marginali e interlineari dal f. 65 v al f. 75 r; ff. 23 v, 159 v vac.; tra il f. 23 e il f. 24 due fogli vac. non numerati; molti fogli corrosi e deteriorati dall'umidità, rozzamente restaurati; sul frontespizio titolo comprensivo di tutta la miscellanea *Maḡmū' al-kutub fī 'ilm al-Qur'ān*; rileg. orientale in tutta tela a vari colori.

¹ (ff. 1-23 r) *Infirādat an-Nāširī fī madḥab Qālūn wa'd-Dawrī*.

Autore: (Abū 't-Tawfīq 'Uṭmān b.) 'Umar b. Muḥammad b. Abī Bakr a n-Nāširī (m. 848/1445: Br. G II 189, S II 250 = S II 278. 10 b; Kaḥ-ḥāla VI 265).

Opera di *qirā'a* secondo l'insegnamento di Qālūn 'Īsā b. Minā' (m. 220/835: Br. S I 328, dove erroneamente si legge 'Īsā b. Mūsā; Ziriklī V 297) e di Ḥafṣ b. 'Abdal'azīz a d-Dawrī (m. 246/860: Ziriklī II 291). L'op. sembra simile, ma non è identica, a *Riwāyatay Qālūn wa'd-Dawrī*, dello stesso A., contenuta soltanto in Bank. XVIII 1, 1252. Contiene: (f. 1 v) le biografie dei predetti *qurrā'*; (f. 3 v) una trattazione generale, quindi (f. 11 r) quella delle singole sūre; (f. 21 r) altre norme generali.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله جدا يوافي نعمته ويكافئ مزيده... وبعد فاني تصفحت قراءة اهل هذا الزمان فوجدتهم بحمد الله غير خارجين عن اسلوب تحقيق القراءة غالبا غير انهم يخرجون في مواضع كخلط رواية برواية

Term.: وليس في القرآن العظيم وقف لازم لا يجوز وصله بما بعده والله سبحانه اعلم وقد اذنت لمن وجد في هذه الانفرادة خللا ظاهرا ان يصلح اذا لم يكن تاويله وبعد تمام مقصودنا

Senza data. Senza nome di copista.

² (ff. 24-64) Opera di *qirā'a*, acefala e mutila, non identificata. L'A. segue l'insegnamento di 'Āšim b. Abī 'n-Nuḡūd (m. 128/745: Ziriklī IV 12), sul quale dà notizie (ff. 24-25 r), e di Ḥafṣ b. Sulaymān (m. 180/796: Ziriklī II 291). Dopo aver parlato (f. 25 r) dell'*isti'āda*, tratta delle singole sūre (f. 26 r) arrivando fino alla sūra 107.

³ (ff. 65-118) *ad-Durar al-ḥisān fī ādāb al-Qur'ān*.

Autore: Ḡamāladdīn Muḥammad b. Ṣalāḥ b. Maḥdī b. Mudā'is (?) (Sec. IX-X/XV-XVI).

Compendio di varie opere di scienze coraniche, tra le quali è principalmente citato *an-Našr fī 'l-qirā'āt al-'ašr* (Br. G II 201-202, S II 274-275), di Šamsaddīn Abū 'l-Ḥayr Muḥammad b. Muḥammad Ibn al-Ḡazarī (m. 833/1429; v. n.⁵).

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله رب العالمين جدا طيبا مباركا... وبعد فان القرآن العظيم افضل كلام واشرف خطاب

Term.: فهو الكريم الذي يعفو عن السيئات والخطيئات والزلات ويقبل العلل لما لحا اليه وتوكل عليه... ومن اطلع على خلل في هذا المختصر اصلحه اصلح الله شأنه وصانه عما شأنه

Dat. 27 dū 'l-ḥiḡḡa 961 (1554). Senza nome di copista. Copiato per Yahyā b. 'Abḏallāh b. Muḥammad b. 'Aṭiyya.

⁴ (ff. 119-129 r) *Tabširat al-mudākir wa-nuzhat an-nāzir*.

Autore: 'Afifaddīn 'Abdallāh b. 'Alī al-Ba'dānī.

Trattatello di *qirā'a* secondo l'insegnamento di Qālūn (v. n.¹), diviso in 13 *faṣl*. Né l'A. né l'op. sono citati nei repertori.

Inc.: الحمد لله الذي انزل القرآن على سيد الانام... اما بعد فاني لما رأيت نقلة القرآن في التجويد راغبين واهل المعرفة فيه عنكم راغبين

Term.: فيتحصل تسعة اوجه مضمومة الى الخمسة المذكورة تكون الجملة اربعة عشر وجها والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب والحمد لله تعالى بهذا ما قصده

Dat. muḥarrām 962 (1554). Senza nome di copista.

F. 129 v contiene versi mnemonici, anonimi, per ricordare i nomi dei 7 *qurrā'* e dei 14 *ruwāḥ*.

⁵ (ff. 130-153) *ad-Daqā'iq al-muḥkama (al-muḥakkima) fī šarḥ al-Muqaddima*.

Autore: (Zaynaddīn Abū Yahyā) Zakariyyā' (b. Muḥammad b. Aḥmad) al-Anṣārī (m. 926/1520).

Commento alla *Muqaddima fī 't-taḡwīd*, di Šamsaddīn Abū 'l-Ḥayr Muḥammad b. Muḥammad Ibn al-Ḡazarī (v. n.³). L'op. è mutila, interrompendosi poco prima della fine con il *faṣl fī 'l-ḥā'āt*.

Br. G II 100 e 202, S II 118 e 276; da aggiungere Vat. V. 1724³, con rimandi; Dam. Zāh. 317 329-332 342 5035 6516 8151; Cairo³ I 321; Sbath F. 268 (755); Manšura 30 (RIMA IV 261); Birmingham Isl. 73-76; Rabat² 618; Leeds 222; Bagdad Awqāf² 9. Sarkīs 485.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي افتتح بالحمد كتابه واجزل لمن جودة... وبعد فان المقدمة المنظومة في تجويد القرآن

La *Muqaddima* inc., dopo la *basmala*: يقول راجي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي... وبعد ان هذه مقدمة فيما على قارته ان يعلمه

⁶ (ff. 154-159) Miscellanea contenente: (f. 154 r) frammento di un'opera di *qirā'a*; (f. 154 v) elenco delle parole di schema *fū'lā, fa'lā, fi'lā*; (f. 154 v-155) invocazioni religiose; (f. 156 r) due preghiere da recitare per la *qirā'a* e la *tilāwa*; (f. 156 v) il racconto della tavola fatta scendere da Dio a Gesù e del miracolo del pesce, compiuto da Gesù, racconto riportato da *al-Kaššāf* di a z-Zamāḥšārī (ed. Nassau Lees, pp. 391-392), che lo narra a commento di Cor. V, 114; (f. 157 r) i versi mnemonici già riportati al f. 129 v,

più altri versi attribuiti ad uno dell'*ahl al-bayt*, mentre era in prigione a Buḥārā; (f. 157 v) triplice invocazione a restituire il libro prestato; (f. 158 r) note lessicali; (f. 159 r) un'invocazione ad 'Alī ripetuta per tutta la pagina.

337 (Rossi 36)

Sec. XIII/XIX o XIV/XX; 0,245 × 0,170; ff. 123 di 20 righe ca., inquadrate; *nashī* inellegante, di varie mani, con rubriche in rosso; scarse note marginali; f. 3 vac.; rileg. orientale in tutta tela, colorata, con risvolto.

¹ (ff. 1-2) *al-Qawl al-aḥrā fī šarḥ (Zill) az-ziyāda aṣ-ṣuḡrā wa'l-kubrā*.

Autore: Muḥammad b. Muḥammad b. Ḥasan a l - A h d a l (Sec. XIII-XIV/XIX-XX).

Brevissimo commento a *Zill az-ziyāda al-kubrā wa's-ṣuḡrā* (sic al f. 1 v), sugli spostamenti delle culminazioni solari, di Sirāḡaddīn (Abū Bakr b. 'Alī) a l - H ā m i l i (v. n. 345 f. 10 r e *passim*).

Fu scritto il 28 dū 'l-qa'da 1311 (1894). L'A. non è citato dai repertori, come pure il suo commento e l'op. commentata.

Inc., dopo la *basmala*: ... نظم العلامة سراج الدين الهاملي ظل الزيادة الكبرى والصغرى
وقد شرحتها شرحاً لطيفاً جداً

Term.: قال مؤلفه... محمد بن محمد الاهدل... رسمته بتاريخ ليلة السبت الثمانية
وعشرين خلت من شهر القعدة الحرام 1311 سنة... في نحو ساعتين فلكيتين

Lo *Zill* inc.: تنزل الشمس اول ايار بلا ظل لدى العلماء طراً

Term.: وصلى الله خالقنا على من لنا قد صار في الدارين ذخراً محمد خير خلق الله
خيراً مع الاهلين والاصحاب طراً

Senza data. Copista: Aḥmad b. Muḥammad b. Sawād.

² (ff. 4-8 r) *Waraqāt al-uṣūl*.

Autore: Aḥmad (b. Zaynī b. Aḥmad) D a ḥ l ā n (m. 1304/1886: Br. G II 499-500, S II 810-811).

Trattatello sulle fonti del diritto, non citato dai repertori.

Inc., dopo la *basmala*: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه

Term.: ووجه الدليل ان النبي صلعم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى تمت

³ (ff. 8 v-10 r) *Risāla* sui due tipi di metafora detti *maḡāz mursal* e *maḡāz isti'āra*.

Autore: Aḥmad (b. Zaynī b. Aḥmad) D a ḥ l ā n (v. n. ²).

Inc., dopo la *basmala*: في غير ما وضعت له لعلاقة اي مناسبة بين المعنى الاصلي والمعنى الفرعي

¹ (ff. 10 r-12 r) *Risāla fī aḥkām al-mustaḥāda*.

Autore: Muḥammad b. Aḥmad (b.) 'Abdalbāri' a l - A h d a l (m. 1298/1880: Kaḥḥāla VIII 273).

Trattatello sull'emorragia mestruale, di cui descrive sette tipi (*ṣuwar*); non è citato nei repertori.

Inc., dopo la *basmala*: هذه صور المستحاضة وهي سبعة اقسام

² (ff. 12 v-16 r) *Kaṣf al-hamm 'an qā'ida mudd 'aḡwa wa-dirham*.

Autore: Muḥammad b. Aḥmad (b.) 'Abdalbāri' a l - A h d a l (v. n. ⁴).

Trattatello di metrologia, non citato nei repertori.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله دافع الهم وكاشف الغم ومفيد النعم وخالق القلم
ومرشد الامم... وبعد فانه لا يزال يشكل على الطلاب قاعدة مد عجوة ودرهم وسألني
بعض من يعز علي مخالفته ان احزرها

Senza data. Copista: Aḥmad b. Muḥammad (b.) Sawād.

F. 16 v contiene alcuni versi, anonimi, e la 'aqīda dell'imām (Muḥammad b. Idrīs) a ṣ - S ā f i ' i (m. 204/820).

³ (ff. 17-123) *Iršād al-ḡawī fī (var. ilā) masālik al-Hāwī*.

Autore: (Šarafaddīn (Sirāḡaddīn)) Abū 'd-Dabīḥ Ismā'il b. Abī Bakr a l - M u q r i ' (m. 837/1433: Br. G II 190-191, S II 254-255).

Estratto e commento di *al-Hāwī 's-ṣaḡīr fī 'l-fatāwī*, compendio di diritto sciafita di Naḡmaddīn 'Abdalḡaffār b. 'Abdalkarīm a l - Q a z w i n i (m. 665/1266). Per una descrizione sommaria del contenuto, cf. Berl. 4513.

Br. G I 394, S I 679; da aggiungere Leid. Or. 5673 (framm.) (Voorhoeve 111); Dam. Zāh. 2265 1339 6012; Bagdad Awqāf 1142, Cairo ³ I 36; Maṣūra 214 (RIMA IV 284).

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي لا تحصى مواهبه ولا تنتفد عجائبه... وبعد
فهذا مختصر حوى المذهب نطقاً وضمناً... اختصرت فيه الحاوي الذي فتح في الاختصار
باباً مغلقاً

Term.: ادعى كل ابلا ا ووقف الولا وهي بولد قن لا في نقل ملك والله الموفق للصواب

Dat. dū 'l-ḥiḡḡa 1314 (1897). Senza nome di copista; apparentemente, di mani diverse.

Qāsim b. Muḥammad alle tribù di Yām e di Naḡrān. In quest'ultima sono menzionati i seguenti libri dei Bāṭīniti: *k. al-Balāḡ al-akbar*, *k. ar-Riḍā'*, *k. al-Ġāmī'*, *k. al-Muḡtada' wa'l-muntahā*, *k. al-'Ilm al-maknūn wa's-sirr al-maḥzūn*, *k. Da'ā'im al-islām*, *k. al-Maḥṣūl*, *k. Ta'wīl aš-šarī'a*. Per una più vasta conoscenza dei Bāṭīniti, l'A. rinvia a *Qawā'id 'aqā'id Āl Muḥammad* di (Muḥammad b. al-Ḥasan) a d-D a y l a m ī (m. 711/1311: Br. S II 241; Kaḥḥāla IX 190); che ha confutato la loro dottrina in una sezione dell'opera dal titolo *Bayān madḥab al-Bāṭīniyya wa-buṭlānihi* (Per i Bāṭīniti del Yemen, cf. E Griffini, *Die jüngste ambrosianische Sammlung*, in *ZDMG* LXIX (1915), pp. 80-88).

Inc., dopo la *basmala*: اللهم لك الحمد والثناء واليك المشتكى وبك المستعان...
 اما بعد فكتابنا هذا الى من بلغه من المسلمين عموما وخصوصا

Term.: ذلك جزاءهم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزء

Dat. ḡumādā II 1287 (?) (1870). Copista: Ḥusayn b. Muḥammad (b. Muḥsin b.) Šamsaddīn.

⁴ (ff. 27 v-36 r) Responso di Aḥmad b. Muḥammad al-K i b s ī (cf. al-Wāsi'ī, *Ta'riḥ* 99, 102, 108) al quesito se i Bāṭīniti debbano essere considerati miscredenti e se si possa procedere contro di loro con una guerra di sterminio, senza risparmiare i vecchi, le donne e i bambini.

⁵ (ff. 37-44) Replica, di A. ignoto, allo scritto precedente.

⁶ (ff. 45-47 r) *ar-Rātīb al-'aẓīm wa'l-wird al-karīm*. Si tratta di preghiere, composte da 'Abdalwāsi' b. Yaḥyā al-Wāsi'ī (Sec. XIII-XIV/XIX-XX: Br. S II 821). Devono essere di mano del figlio dell'A., Aḥmad b. 'Abdalwāsi': sono scritte, infatti, con lo stesso inchiostro stilografico e con lo stesso carattere della nota al f. 1 r.

⁷ (ff. 49 v-70) Opera senza titolo, il cui A. (vissuto nel sec. XIII/XIX; cf. f. 55 v, terzultima riga) dice nell'introduzione di avere letto varie *rasā'il* trattanti la questione se i miscredenti possano essere sterminati senza discriminazione, e di avervi trovato errori. Su tale questione egli ritorna nella *ḥātima*, dopo avere parlato (*al-baḥṭ al-awwal*) dei Bāṭīniti e della loro posizione fra le sette dell'islām e dopo avere esaminato (*al-baḥṭ at-tāni*) le condizioni che autorizzano il *takfīr* e la posizione dei Makārīma (cf. Griffini, *art. cit.*) rispetto ai Bāṭīniti. A questo proposito, ricorda le sue conoscenze dirette dei Makārīma e dei loro capi: Ismā'il b. Muḥammad al-Mukarramī, con il quale fece il pellegrinaggio nel 1243/1828, suo fratello Ḥasan b. Muḥammad al-Mukarramī e il *dā'i* Ḥasan b. Ismā'il Šibām (al-Mukarramī) (m. 1289/1872: *Ziriklī* II 198). Il contenuto è così diviso: (f. 50 r) *muqaddima* "lam annahu mā zāla 'l-iḥtilāf bayna ahl al-ḥiṭān wa'l-'ulūm; quindi 3 *baḥṭ*: (f. 51 v) *al-umma al-mu-*

ḥammadiyya qad tafarraḡat 'alā madāhib šattā; (f. 54 v) *aṣl al-kufr huwa 't-takdīb al-'amd li-šay' min kutub Allāh, li't-takfīr bi't-tāwīl li'l-'ulamā fihim arba'a aḡwāl, at-takfīr wa't-tafsiḡ... yaḡīb 'alā kull mukallaḡ al-aḡd fihimā bi'l-yaḡīn wa-lā yaḡūz li-aḡad at-taḡlīd fihimā*; (f. 64 r) *ḥādā 'llādī dahabnā ilayhi min 'adam takfīr aḡad min ahl al-qibla huwa qawl aḡtar al-firaḡ*; (f. 66 r) *ḥātima* "lam anna 'l-muwālāh wa'l-mu'ādāh wāḡibatān iḡmā"^{an}.

Inc., dopo la *basmala*: لك الحمد يا منور بصائر النظار بلوامع انوار هدايتك الجالية
 ظلم اوهام الافكار... اما بعد فانها طلعت علينا بدور رسائل اخجلت الشمس
 وتمشت في مہارق الطروس تمشي العروس

Term.: والمقصود هو النصح لله ورسوله وللمؤمنين فينبغي اطراح الغصيبة ودفع كل
 حية وفي ما ذكرناه كفاية للمنصف ولا يكفي التطويل للمتعسف وهذا خاصة ما اردنا
 والله تعالى بمنه وفضله قصدنا فان جاء موافقا للصواب فذاك من ذلك المتفضل كان والا
 فمن سوء العرفان

Dat. ša'bān 1288 (1871). Copista: Ḥasan b. Aḥmad b. 'Abdallāh 'Ākiš.

⁸ (ff. 72-79) *Risāla min ḡihat al-Makārīma*, anonima, il cui destinatario è il qādī 'Abdallāh b. Aḥmad العنثري (v. n. ²⁵ f. 127). L'A. dice di essere stato pregato dallo *šayḥ* Ṭālī' b. Sālim معب di spiegare la dottrina della setta dei Makārīma, alla quale egli appartiene. La sua esposizione, in forma asistemica, costituisce appunto il contenuto della *Risāla* che, attraverso citazioni coraniche e *ḥadīṭ*, vuole dimostrare l'ortodossia dei Makārīma, respingendone l'identificazione con i Bāṭīniti. Come si deduce dal f. 72 r, quinta riga dal basso, l'A. deve essere vissuto al tempo dell'imām al-M u ' a y y a d b i - ' 1 1 ā h (al-'Abbās b. 'Abdarrahmān) (m. 1298/1880: al-Wāsi'ī, *Ta'riḥ* 76; *Ziriklī* IV 34-35).

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي حده ذخرا واجب وشكرا حق لازب...
 وبعد فسلام الله الاسنى وتحياته المباركة الحسنى تخص الجناب... القاضي... عبد الله
 العنثري

Term. con 20 versi di una *urḡūza*, anonima, il cui 1° verso è:

يرموننا بالكفر والالحاد والزيف من مناهج الرشاد

Senza data. Senza nome di copista.

⁹ (ff. 80-81) *Risāla wā'iza zāḡira li-mā huwa wāḡi' fī ḥādā 'z-zamān sana* 1283 (1866-67), di Qāsim b. Aḥmad b. Zayd b. Amīr al-mu'minīn al-Muṭaḥḥar, *šāḥib* di Ḥūṭ. L'A. predica la guerra santa contro una fazione di Bāṭīniti che hanno causato disordini a Šan'ā', al tempo di al-M u t a w a k k i l Muḥsin b. Aḥmad aš-Šahārī (v. n.²). La *Risāla* termina con una *qa-ṣida* in lode dei Banū Hamdān di 17 versi *basīṭ lā*, di al-M a n ṣ ū r al-Qāsim b. Muḥammad (v. nn. 304 328° 335^{10 15}) (inc.:

يا عالما بحديث الاولين ألا بالله اخبر عن همدان من تسألا

¹⁰ (ff. 82-83 r) *Risāla* parenetica, indirizzata ai musulmani, dell'imām a l-M a n ṣ ū r Muḥammad b. 'Abdallāh al-Wazīr (eletto nel 1270-1853; cf. al-Wāsi'i, *Ta'rīḥ*, p. 87 e seguenti; v. n. ¹³).

¹¹ (ff. 83 v-86 r) Esposizione di un caso giudiziario, provocato dalle accuse di due uomini dell'Āl Muṣaḥḥam, Ṣafiyyaddīn Aḥmad b. 'Alī e Muḥammad b. Ṣalāḥ, contro Ṣārimaddīn Ibrāhīm b. Muḥammad al-Hā'imī (?). L'A. è il qāḍī che ha giudicato la controversia. Alla fine, dopo aver detto di avere chiesto ed ottenuto il parere favorevole di a l-M a n ṣ ū r Muḥammad b. 'Abdallāh (al-Wazīr) e di a l-M u t a w a k k i l Muḥsin b. Aḥmad (aṣ-Ṣahārī) (entrambi imām, a quel tempo), enuncia la sentenza. Dat. dū 'l-qa'da 1282 (1860).

¹² (ff. 86 r-87 v) *Risāla fī damm ahl aṣ-Ṣām wa-tabyīn mā hum 'alayhi*.

L'A. è uno *ṣarīf min al-aṣrāf*, che la scrisse al tempo di a l-H ā d ī (Ṣarafaddīn Muḥammad b. Aḥmad) (imām dal 1295/1878 al 1307/1890). In essa è biasimato un certo Muḥsin b. 'Abbās b. Ismā'il, che aveva fatto causa comune con gli abitanti di aṣ-Ṣām (regione o località del distretto di Bayḥān, nella regione di Ṣa'da; cf. *Historia Jemanae sub Hasano Pascha*, ed. A. Rutgers, Lugd. Bat. 1838, p. 218), abbracciandone le credenze antropomorfe e le pratiche di culto non ortodosse.

¹³ (ff. 87 v-89 r) *Risāla fī 'adam muwālāt ahl aṣ-Ṣām*.

Autore: l'imām a l-M a n ṣ ū r Muḥammad b. 'Abdallāh (al-Wazīr) (v. n. ¹⁰), che esorta quelli di aṣ-Ṣām a ribellarsi contro uno di loro che si era proclamato imām, ricordando loro come avessero già ubbidito, per qualche tempo, ad un suo appello dell'anno precedente.

¹⁴ (ff. 89 r-90) *Risāla* parenetica religioso-politica, di Aḥmad b. Muḥammad a l-K i b s ī (v. n. ⁴).

¹⁵ (ff. 94-95 r) (*Huṭba fī 'l-ḡihād*), anonima.

¹⁶ (ff. 96-99 r) *Risāla* (v. n. ²⁰) del qāḍī 'Imādaddīn Yaḥyā b. Ḥasan (b. Mūsā) a l-Q u r a ṣ ī a ṣ-Ṣa'dī. V. n. 318²³.

È una risposta polemica, in prosa rimata, ad una qaṣīda (inc.: قفني قبل التفرق يا امامنا نظارحك التحية والسلاما) di Ibn ar-Rā'ī (?), contenente lodi per a l-M a l i k a l-A f ḍ a l (al-'Abbās b. 'Alī) (regnò negli anni 764-778/1363-1377) e invettive contro l'imām zaidita (al-Mahdī) 'Alī b. Muḥammad (m. 773/1371, secondo Šawkānī I 485 n. 235, o 774/1372, secondo al-Wāsi'i, *Ta'rīḥ*, p. 39; v. n. 352¹). A tale qaṣīda, come si legge al f. 96 r, «avevano già risposto una cinquantina di poeti, tra cui lo stesso al-Quraṣī con una qaṣīda di 80 versi, che è riportata in *al-La'ālī 'l-muḍī'a fī*

alḥbār al-a'imma az-zaydiyya) (Br. G II 712, S I 560 e II 248, 550), di Šams-addīn Aḥmad b. Muḥammad b. Ṣalāḥ a ṣ-Ṣ a r a f ī (v. n. 304). Al f. 96 r si legge, inoltre, la notizia che l'A. scrisse *al-Minhāḡ wa'l-'iqd fī uṣūl ad-dīn*, da identificare con *Minhāḡ at-tahqīq wa-mahāsīn at-talfīq fī uṣūl ad-dīn* (n. 318²), e che di quest'op. l'imām (a l-H ā d ī) 'Izzaddīn b. al-Ḥasan (b. al-Mu'ayyad) (v. n. 341² f. 7 v) scrisse un commento dal titolo, finora non conosciuto, di *al-Mi'rāḡ*, da identificare con *Šarḥ al-Minhāḡ*, citato da Šawkānī I 415 n. 201.

Inc., dopo la *basmala*: هجرة تطرق ارض الجبر والتشبيه منحدره من سماء العدل والتنزيه

Term.: فكسر به جناح الجبر والتشبيه وبحق تزوير اهل التمويه فهو حربي ان يكتب بالذهب لا بمائه

Dat. šawwāl 1293 (1876). Copista: 'Abdahlādī b. 'Alī ad-Dumaynī.

¹⁷ (f. 99 v) *Bānat Su'ād* o *Qaṣīdat al-Burda*, di Ka'b b. Zuhayr.

Br. G I 39, S I 68; da aggiungere Leid. Or. 6333,10 (Voorhoeve 422); Zāh. 5559 4329; Zagazig 287,7 (RIMA III 92); Kazimiyya Ḥusayn 'Alī Maḥfūz 267,4 (RIMA VI 47); Taškent 744-745; Rabat² 874-878; Chester Beatty 3486,6 4117 4204 4825,9 4913,6; Leeds 110, 4-5 258.

Dat. 14 raḡab 1297 (1880). Copista: 'Alī b. 'Abdahlādī b. 'Alī ad-Dumaynī, figlio del copista del n. ¹⁶.

¹⁸ (ff. 100-101) Numerosi brevi responsi giuridici dell'imām a l-H ā d ī li-dīn Allāh (Ṣarafaddīn Muḥammad b. Aḥmad) (v. nn. ¹² ²⁷).

¹⁹ (ff. 103-104 r) Il 1° *faṣl* di *Bayān 'aqīdat ahl as-sunna wa'l-ḡamā'a*, op. diversa da quella, omonima, di Abū Ġa'far Aḥmad b. Muḥammad b. Salama a ḡ-Ṭ a ḡ ā w ī (m. 321/933; Br. G I 174, S I 294, 950).

Inc., dopo la *basmala*: الفصل الاول في تصحيح الاعتقاد وتطبيقه لمذهب اهل السنة والجماعة وجملة ما في هذا الفصل ان الله تعالى واحد لا شبه شيء ليس باسم ولا عرض ولا جوهر ولا مصور

Dat. šafar 1291 (1874). Copista: Ḥusayn b. Muḥammad Šamsaddīn.

²⁰ (ff. 105-107) La stessa *Risāla* del n. ¹⁶.

Dat. 17 šawwāl 1293 (1876). Copista: Ḥusayn b. Muḥammad, il quale informa che la *Risāla*, nel ms. da cui l'ha copiata, era detta parte di uno *Šarḥ ad-Dāmiḡa*, di al-Ḥasan b. Ṣalāḥ ad-Dā'ī (al-Qaraḍī a ṣ-Ṣa'dī) (cf. Ahlw., *Register*, p. 172).

²¹ (f. 108 r) *Risāla* parenetica dell'imām a l-M a h d ī li-dīn Allāh Aḥmad b. Yaḥyā I b n a l-M u r t a ḡ ā b. Rasūlallāh (v. nn. 319² 335²⁷)

341² 349⁶), sull'importanza dei legami di consanguineità, indirizzata verisimilmente (*lā yab'ud an yakūna waġġahahā*) all'imām a l-M a n š ū r 'Alī b. Šalāh b. 'Alī (v. n. 335¹⁷).

Inc., dopo la dossologia: *اما بعد فان لوشيجة الرحم اختصاما لازبا وحقا واجبا*.
(Cor. VIII, 76) *حتمه قول رب السموات والارض وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض*

²² (ff. 110-112) *Faṣl di Durrat al-ġawwāš* (*fī awḥām al-ḥawāšš*) (Br. G I 277-278, S I 488), di Ġamāladdīn Abū Muḥammad al-Qāsim b. 'Alī (b. Muḥammad) a l-H a r ī r ī (v. n. 344¹), corrispondente alle pp. 199, riga 4-208, penultima riga, dell'ediz. di H. Thorbecke, *al-Hariri's Durrat al-ġawwāš*, Leipzig 1871.

²³ (ff. 114-118 r) Responsi giuridici dell'imām a l-M a h d ī Muḥammad b. al-Qāsim (forse Muḥammad b. al-Ḥasan b. al-Qāsim, 16^o imām zaidita, m. 360/971) al qāḍī Ibrāhīm b. 'Abdallāh al-Ġalībī, su un caso complicato di divisione dell'eredità e sui seguenti quesiti: se una donna, rimasta vedova in stato di gravidanza, possa risposare quando cessa tale stato oppure debba compiere il ritiro legale; se una donna, che ha chiesto il ripudio restituendo il dono nuziale, possa ottenere la revoca del ripudio; se le cave di pietra (*ma-ḥāġīr*) siano proprietà comune; se il dono nuziale possa essere dato con ritardo; se non si debba condannare l'uso che il tutore della donna riceva un compenso preliminare dal futuro marito; se sia lecito destinare a fondazione pia un bene la cui proprietà è indivisa; con quale criterio debba essere diviso tra la popolazione di un villaggio il reddito delle terre circostanti, rimesse a coltura dopo un lungo periodo.

²⁴ (f. 118 v) Tavola con indicati, sul lato superiore, i nomi dei mesi arabi e, sul lato destro, gli anni dal 1309/1891 al 1319/1901-1902; nelle caselle interne è indicato il giorno della settimana con cui iniziano i singoli mesi di questi anni e inoltre un numero, probabilmente di valore magico.

²⁵ (ff. 120-128) Miscellanea contenente: (f. 120) una *fā'ida* di 'Abdallāh b. Ḥusayn Dulāma su una questione di diritto successorio (dat. rabī' . . . 1294/1877); (f. 121) responso giuridico di Muḥammad a l-A m ī r (v. nn. 313 b 371) ad un quesito rivoltogli nel šafar 1140 (1727) dal suo *šinw* 'Imādaddīn Yaḥyà b. Muḥammad al-Ḥūṭī, circa l'esercizio del diritto di prelazione viziato dall'astuzia; (f. 122) responso giuridico di Muḥammad b. 'Alī as-Sirāġī a un quesito circa il diritto di derivare l'acqua da un terreno soprastante; (f. 123) *fā'ida saniyya 'an as-sāniyya*, ossia responso di Šihābaddīn Aḥmad b. Muḥammad (I b n Ḥ a ġ a r) a l-H a y t a m ī (v. n. 309) a un quesito sui privilegi di Fāṭima; (f. 124) responso giuridico di 'Abdal'azīz b. Taqīyyaddīn al-Ḥabīṭī (?) aš Šāfi'ī al quesito se sia lecito fare l'elemosina ai discen-

denti del Profeta detraendone 1/25 (dat. šafar 1054/1644; copista, Ḥusayn b. 'Alī b. Muḥammad aš-Šarīf (?) al-Ḥadawī ad-Dā'ī); (f. 124 v) brevissimo *ḥadīṭ* da *al-Ġāmi' aš-šaġīr* (Br. G II 147, S II 184), di aš-Šuyūṭī; (f. 124 v) responso giuridico di Muḥammad b. 'Alī as-Sirāġī a un quesito di Faḥraddīn 'Abdallāh b. Yūsuf b. Abī 'š-Šarīf sull'interpretazione delle parole *naḍartu wahabtu tašaddaqtu*, usate in un atto di donazione; (f. 126) responso giuridico del qāḍī Naġmaddīn Yūsuf b. 'Alī al-Ḥamāṭī su una controversia tra proprietari di terreni più e meno elevati circa l'utilizzazione dell'acqua piovana. Il copista, anonimo, dice di avere copiato da un ms. di Šamsaddīn Aḥmad b. Šāliḥ b. Muḥammad I b n A b ī ' r - R i ġ ā l (m. 1092/1681; Br. G II 406, S II 561); (f. 127) responso giuridico di 'Abdallāh b. Aḥmad العنثري al-Mu'ayyadī (v. n. ⁸) su un caso complesso di divisione dell'eredità (dat. rabī' I 1294/1877; copista, Ḥasan b. Muḥammad Šamsaddīn).

²⁶ (ff. 129-132) *Tašnīf uḍn al-alma'ī naẓm ḥikam al-wašī*.

Qašīda in *lām*, di 101 versi ramal, ognuno dei quali, tranne i primi 5 e gli ultimi 3, commentano un detto di 'Alī. Queste massime sono quindi 93, intercalate ai versi e scritte in rosso.

La prima massima è: *لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا*

Il 1^o verso è: *شئف الأذان بالنبر الاجل وارتشف خير المعاني والثل*

²⁷ (ff. 133-137 r) Responsi giuridici dell'imām a l-H ā d ī i l à ' l - ḥ a q q Šarafaddīn b. Muḥammad (*sic*, per Muḥammad b. Aḥmad; v. nn. ¹² 18) ai quesiti: come si possa conciliare Cor. XXIV, 63 con un detto del Profeta che sembra ammettere una certa libertà nell'eseguire ciò che ci viene ordinato; se la viltà e l'avarizia siano innate e se, pertanto, possano essere vietate; come si spieghino Cor. XVIII, 64; XVII, 38; II, 132; come si debba giudicare un tutore che abbia abusato nell'amministrare i beni del minore; se sia lecito designare eredi i nipoti e gli abiatici, pur essendo vivi i loro rispettivi padri; se chi impedisce l'applicazione del taglione ad un omicida possa essere perseguito dal *walī 'd-dam*; se, venduti gli alberi di un terreno e i loro frutti a due persone distinte, il diritto di prelazione sugli alberi spetti al padrone del terreno o al compratore dei frutti; come possa l'inserviente di una moschea riparare danni causati involontariamente, se non ha mezzi; come si debba interpretare un monito del Profeta contro l'opinione personale (*ẓann*); se sia giusto condannare, come fanno gli Zaiditi, l'uccisione dei credenti sulla cui fede si nutrano sospetti.

²⁸ (f. 138 v) Quadrato con lettere, scritte nel senso delle diagonali, di significato magico, e con due versi, di contenuto erotico, iscritti lungo i lati.

²⁹ (f. 139 r) Responso collettivo degli '*ulamā*' al quesito circa la condanna da infliggere ad un tale che, per rendere nullo il matrimonio della sorellastra

con un cugino, l'ha indotta ad apostatare e a convertirsi alla religione ebraica, appena raggiunta la maggiore età (dat. 1° ġumādā 1296/1879).

30 (f. 140 r) *Qaṣīda kāmil uhū*, di 46 versi (negli altri mss. il numero varia da 34 a 49), sui verbi di terza radicale debole.

Autore: (Ġamāladdīn Abū 'Abdallāh Muḥammad b. 'Abdallāh) Ibn Mālik (m. 672/1274).

Una notizia, premessa ai versi, informa che allo stesso argomento sono dedicati un *bāb* di *Iṣlāḥ al-mantiq* (Br. G I 117, S I 180; cfr. ediz. Cairo 1375/1956, pp. 138-144), di (Abū Yūsuf Ya'qūb b. Ishāq) Ibn as-Sikkīt (m. 243/857), e un *bāb* di *Ādāb* (var. *Adab*) *al-kātib* (Br. G I 122, S I 185; cf. ediz. Leiden 1900, pp. 502-503), di (Abū Muḥammad 'Abdallāh b. Muṣlim) Ibn Qutayba (m. 276/889 o 270/884).

Br. G I 300, S I 526; da aggiungere Teheran *Ḥuqūq* 214 (dove l'*incipit* e l'*explicit* sono diversi).

Primo verso: قل ان تشاء عزوت وعزيت وكنوت اجد كنية وكنيته
Ultimo verso: عيني همت تهمو او تهمي دمعها وحوته الماكول مثل حيتته

31 (f. 144 r) *Ḥuṭba tālīt ġum'a fī ramadān*, anonima. Inc.: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم... اما بعد ايها الناس فقد فاز والله من اعد الزاد للمعاد

32 (f. 143 r) *Ḥuṭba awal ġum'a šahr ramadān*, anonima. Inc.: الحمد لله الذي فاضل بين الشهور والايام بحكمته وقدر ذلك التفاضل على وفق مشيئته... اما بعد ايها الناس فان السعيد كل السعيد من اغتنم هذه الليالي والايام

340 (Rossi 39)

Sec. XII/fine XVII; 0,205 x 0,145; ff. 130 di 30 righe ca.; *nashī* yemenita; alcune note marginali; varie tavole numeriche, alcune delle quali in rosso e in giallo; foglietti volanti dopo i ff. 39, 46, 52, 59, 67, 110 e 124; rileg. orientale in mezza pelle.

1 (ff. 1-8) Miscellanea astronomica, contenente: (f. 1) un calendario solare siriano in tavole con note astronomiche; (f. 7 r) una tavola con i nomi degli angeli preposti agli astri, alle costellazioni ed ai quattro elementi; (f. 7 v) una tavola per la determinazione delle stazioni lunari nei vari mesi; (f. 8 v) una tavola, attribuita a Tolomeo, per determinare la posizione del sole e della luna in rapporto allo zodiaco.

2 (ff. 9-99 v) *k. al-Fawā'id wa's-šalāwāt* (var. *fī 's-šilāt, fī 's-šila*) *wa'l-'awā'id*. V. App. III².

Autore: (Šihābaddīn) Muḥammad (sic, I. Aḥmad) b. Aḥmad b. 'Abdallaṭīf aš-Šarġī az-Zabīdī (m. 893/1488).

Trattato di scienze occulte applicate, diviso in 100 *fawā'id*, di svariatissimo argomento. Tra la *fā'ida* 20 e la 23, lacuna occupata (ff. 26 v-28 r) da un *bāb ma'rifat su'ūd al-burūġ wa-nuḥūsihā*, da figure, versi e ricette di alchimia, di mano diversa; anche il f. 29 v è occupato da ricette di alchimia, di mano diversa, che non sembrano in rapporto con il testo. Precedono (ff. 9 r-10 r) un indice del contenuto e (f. 10 v) un'introduzione.

Br. G II 190, S II 254, 999; Kaḥḥāla I 150; da aggiungere Cairo³ II 198 (dove l'op. è citata come anonima); Yale 1560-1561; Taškent 3917. Sarkīs 1114.

Inc. (f. 10 v), dopo la *basmala*: الحمد لله رب العالمين بجميع بحامده على ما اسبح

من جميل عوائده... اما بعد فقد قال صلعم احب عباد الله اليه وانفعهم لعبادة

واستغفرك من فتنها وشغلها وارزقني السلامة والعافية برحمتك يا ارحم الراحمين

Dat. 8 raġab 1104 (1693). Copista: Šafiyyaddīn Aḥmad b. 'Alī al-Ḥaddādi. Copiato per 'Abdallāh b. 'Umar al-Ḥaddādi (?).

3 (ff. 99 v-105) Trattatello di geomanzia, con i seguenti *bāb*: *tarḥ hurūf al-abġad tis'at^{an} tis'at^{an}, a'dād aškāl ar-raml, taskīn a'dād al-buyūt, b. idā aradta an ta'rifa 'l-hāġa, b. aḥar li'l-marīd, ma'rifa 'l-aškāl as-sa'ida wa'n-naḥisa wa'l-mumtaziġa, b. idā aradta an tašuqqa 'l-ism, b. idā aradta an ta'rifa 'l-ism, nukta idā aradta darb ar-raml, faṣl fī 't-ṭawāli', f. fī 'd-damīr, f. fī 'stihrāġ al-ḥabāyā, f. wa-'lam anna hurūf ت ت ت kull ḥarf minhā yasīr, f. fī 'alāmāt al-mufradāt.*

4 (ff. 106-110) Trattatello di magia (inc.: الحمد لله كما هو اهله... اما بعد فان ايسر المعارف تؤخذ من ثلاثة من النجوم الغلجية والاعداد) *الجملية والخطوط الهندية*)

con i seguenti *bāb*: *fī ma'rifat al-a'dād al-ġumliyya, b. idā aradta ma'rifa wuġūh al-kawākib, b. mā-taḍa' al-mar'a, b. aḥar idā aradta an ta'lam ar-raġul wa'l-mar'a, b. fī ḥisāb az-zawġayn, b. wa-in sa'alta 'an as-sana wa'z-zar', ... wa 'an ad-dawla wa's-sultān, ḥisāb al-ayyām, ḥisāb al-muġālabā, al-kawākib al-'alawiyya, b. mā yadull 'alā 'l-amlāk, an-naẓar fī 's-suqūṭ an-nāriyya, an-naẓar fī 'l-ḥuṣūn, an-naẓar fī 'r-rūḥ wa'l-ḥayāt, ḥātima fihā šarḥ iḥrāġ aḍ-ḍamīr.*

5 (ff. 111-122 r ?) *k. Inārat al-'ilm*, con i seguenti *bāb*: *al-awṭād al-arba'a, ma'rifat at-ṭāli', b. idā aradta an ta'rif ism wāfid, fī 'l-wilāya, fī qismat al-hurūf 'alā 'l-aškāl al-maḍkūra, fī amr aḍ-ḍamīr wa-'stihrāġihi, fī ma'nā 'l-walad, fī šifat al-marīd, fī šifat al-aškāl an-nāṭiqa wa's-sāmita, fī šifat ar-raġul, fī šifat al-aškāl, b. šifat al-wān al-aškāl, b. qismat al-kawākib as-sab'a 'alā sitta 'ašr šakl, con tavole ai ff. 116 v-117, al-kalām 'alā 'alāmāt*

al-mufradāt, tartīb as-suwar, ma'rifat al-aškāl as-sa'ida wa'n-naḥīsa, ma'rifat al-buyūt as-sa'ida wa'n-naḥīsa.

⁶ (ff. 122 v-129 r) *Nubḍa min 'ilm al-falak*, con i seguenti *bāb: fī 't-tarbī'*, *b. idā aradta 'l-fa'l bi-hādīhi 'l-wafq, ma'rifat at-tālib wa'l-maṭlūb, ma'rifat al-'amal bi'l-hurūf, šifat al-mawḡūd wa'l-ma'dūm, b. al-mawḡūd wa'l-ma'dūm* con tavole, *b. mā yadull 'alayhi hādīhi 'l-aškāl min marātib al-bilād*; versi di 'Abdarrahīm (b. 'Alī al-Bura'ī) al-Ḥāḡirī (m. 803/1400-1401: Šawkānī, *Mulḥaq* 120 n. 113) sulle costellazioni in rapporto alle quattro stagioni; *b. at-tarbī' idā aradta an ta'rif as-sāriq, fī 'l-alwān al-ḡamā'a, b. "lam anna arba'a min al-aškāl lā tuḥṭi", fī 'alāmāt banī Ādam, ma'rifat an-nuḡūm*, e vari altri piccoli *bāb*.

341 (Rossi 40)

Sec. XI/XVII; o, 118 × o, 139; ff. 154 di 14 righe ca.; *naṣḥī* con rubriche in rosso; numerose note marginali e interlineari; ff. 5, 6 r; 145 v-149 inquadri; ff. 17, 18 di formato, carta e mano diversa; f. 1 v vac.; fra f. 51 e f. 52, foglietto volante con un *ḥadīṭ*; rileg. orientale in pelle, con risvolto.

¹ (ff. 2-7) Miscellanea contenente: (f. 2 r) giaculatorie; (f. 2 v) ricette di magia curativa; (f. 4 r) preghiere apotropaiche; (f. 4 v) giaculatorie e note di vario genere; (f. 5) versi parentetici, anonimi, ed altri di *madīḥ*, di al-Aḥnaf b. Qays (Ziriklī I 262); (f. 6 r) *qašida ṭawīl iyā*, di 21 versi, dell'imām Aḥmad b. Yaḥyā (Ibn al-Murtada), e versi anonimi; (f. 6 v) versi di 'Isā b. Luṭfallāh (Ibn Rasūlāllāh) (m. 1048/1638: Br. G II 402, S II 550) ed altri, anonimi, tra cui alcuni in lode di 'Alī; (f. 7 r) *qašida basīṭ adi*, di 19 versi, di Šamsaddīn Muḥammad b. al-Muntašir al-Ḥadawī al-Ānisī (?); (f. 7 v) versi dell'imām (al-Ḥādī ilā 'l-ḥaq) 'Izzaddīn b. al-Ḥasan (m. 900/1494: Br. G II 188, S II 248) in lode dell'op. seguente e, alcuni, *fī ḥaṣṣ muḥbītāt al-īhrām*.

² (ff. 8-130) *al-Azhār fī fiqh al-a'imma al-aḥḥār*.

Autore: l'imām al-Mahdī li-dīn Allāh Aḥmad b. Yaḥyā (Ibn al-Murtada). V. nn. 319¹ 335¹⁷ 339²¹ 341^{1 5} 349⁶.

Trattato di diritto zaidita, per il cui contenuto cf. Berl. 4919.

Br. G II 187, S II 244; da aggiungere Ambr. 27 248 I 253; Leid. Or. 6370 6368 6640 (framm.) (Voorhoeve 33); Chester Beatty 3100, i 3; Wien Gl. 66-67.

Inc., dopo la *basmala*: مقدمة لا يسع المقلد جهلها فصل التقويد في المسائل الفرعية العملية القطعية والظنية

Term.: فيكون كفرا او فسقا بحسب الحال ويخالفه ويناصره
Dat. ultima decade 1056 (1646). Copista: Aḥmad b. 'Alī b. Luṭfallāh az-Zaydī al-Kibsi.

³ (ff. 131-132 r) (*Waṣiyya*.)

Autore: l'imām al-Ḥādī ilā 'l-ḥaq Yaḥyā (b. al-Ḥusayn b. al-Qāsim b. Ibrāhīm al-Ḥasanī) (m. 298/910: Kaḥḥāla XIII 191).

Qašida ṭawīl ilī, contenente esortazioni rivolte ai figli. È completa, di 60 versi (in Berl. 3974, solo 54).

Br. G I 186, S I 316.

Inc.: بني اصبروا للدهر عند الزلازلى ولا تجزعوا عند الخطوب النوازلى
Term.: وصلي الهبي كل يوم وليلة على اجزل المختار محض الاصال

Data probabile 1056-1057/1646-1647. La presente copia è pertanto più antica delle altre due conosciute: Berl. 3974, dat. 1090 ca./1680, e BMS 1236 IV, dat. 1064/1654.

⁴ (ff. 132-145) *Miftāḥ al-Fā'id fī 'ilm al-farā'id*.

Autore: Ḍiyā'addīn al-Faḍl b. Abī 's-Sa'd al-'Uṣayfirī. V. n. 305^{2 7}.

Compendio di un trattato di diritto successorio zaidita dello stesso A., *al-Fā'id fī 'ilm al-farā'id*. È completo, diviso in 20 *bāb*. Per il contenuto, cf. Berl. 4735.

Br. G I 404, S I 702; da aggiungere Leid. Or. 6364. 1 (Voorhoeve 209).

Inc., dopo la *basmala*: باب اسباب الميراث اسباب الميراث ثلاثة نسب ونكاح وولاء
Term.: صح للمنت التي عتق نصفها ربع المال وللتتي عتق ثلثها ثلثه اثمان المال
ولبنت الابن ثلاثة اثمان المال تم

Dat. rabī' II 1056 (1646). Copista: Šamsaddīn Aḥmad b. 'Alī b. Muḥammad al-Yamānī.

⁵ (ff. 146-149) *Ḥayāt al-qulūb fī iḥyā'* (var. *ma'rifat*) *'ibādāt* (nel testo *اعادة*) *'allām al-ḡuyūb*.

Autore: l'imām al-Mahdī li-dīn Allāh Aḥmad b. Yaḥyā (Ibn al-Murtada) (v. nn. 319¹ 335¹⁷ 339²¹ 341^{1 2} 349⁶).

Trattatello per esortare alla preghiera, diviso in 3 *faṣl* (cf. Berl. 3522).

Br. G II 187, S II 246 (dove BMS 1220 II è da correggere in 1220 IX, e BMS 1221 II in 1240 II; inoltre è da aggiungere BMS 1229 IV).

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله نستعينه ونستهديه ونسأله العصمة عن مع صيه
... (sic, l. معاصيه) اما بعد فاننا نظرننا في امرين عظيمين

Term.: ليكون في ذلك تطهيرة من الذنوب ومصدق لقوله صلعم ان الصلاة كالنهر الجاري
على باب احدكم كل يوم وليلة

342 (Rossi 41)

Sec. XI/XVII; 0,210 × 0,151; ff. 150 di 15-19 righe; *nashī* di varie mani, con rubriche in rosso; ff. 129-139 inquadri in rosso; ff. 25 r, 44 v, 45 r, 47 v, 140 r, 144 v, 150 v vac.; due fogli preliminari con note senza rapporto con il testo; tarlati i ff. 1-4; rileg. orientale in pelle, con impressioni a freddo.

¹ (ff. 1-24) Raccolta, senza titolo, di 20 quesiti giuridici dell'imām Aḥmad b. al-Manṣūr bi'llāh Muḥammad b. al-Hādī ilā 'l-ḥaqq (?), con responsi di un ignoto *faqīh*. I quesiti sono così formulati: (f. 2 r) *hal al-muḡabbira kuffār*; (f. 3 v) *mā waḡh al-ḥukm bi-kufr ahl Tihāma*; (f. 4 v) *mā yakūn ḥukm man istawāla 'alayhi 's-sultān min bilād az-Zaydiyya*; (f. 4 v) *idā qulnā innahā dār ḥarb a-yakfur man qāma fihā ḡayr ma'dūr min al-ḥiḡra*; (f. 7 r) *idā kāna fī ḥādīhi 'd-dār qaḡm fī man'a tumakkinuhum al-īmīnā' . . . tumma atā'ū . . . hal yakfurūn*; (f. 8 r) *mā yakūn ḥukm man ḥadīma 's-sultān*; (f. 9 r) *inna ḥādā 'z-zaydī 'llādī ḥadīma 's-sultān kāfir fa-hal yakūn miṭl kufr as-sultān aw aḥaff aw aḡlaḡ*; (f. 9 v) *mā hiya 'l-muwālāh allātī yakfur bihā 'l-muwālī*; (f. 10 v) *idā kānat bilād az-Zaydiyya qad šarat dār ḥarb . . . fa-hal yakūn amwālūhum wa-anfusūhum mubāḥa*; (f. 11 v) *mā tušarrifuhu ahl ḥādīhi 'd-dār min al-a'-šār . . . hal huwa zakāh*; (f. 12 v) *aš-šigār al-mawlūdūn wa'd-dār islāmiyya mā ḥukmūhum*; (f. 13 v) *mā yakūn ḥukm ankiḥa ḥādīhi 'd-dār*; (f. 15 v) *mā yakūn ḥukm al-arādī 'l-mawqūfa fī ḥādīhi 'd-dār*; (f. 16 r) *mā ḥukm man huwa fī 'd-dār min al-mu'minīn idā qāla anā ma'dūr fī tark al-ḥiḡra*; (f. 16 v) *fī 'd-da'āwā 'llātī taḡrī baynahum fī 'l-ḥuṣūmāt . . . hal yaḡīb samā'uhā*; (f. 18 r) *mā waḡh qaḡl man qāla inna ḥurūḡ šahr fī 's-sana 'an dār al-ḥarb yuṣqit al-ḥiḡra*; (f. 18 v) *hal yaḡūz li'l-muhāḡir an yuhāḡira bi-nafsihi dūn ahlihi*; (f. 19 r) *hal li'r-raḡul min ahl al-ḥarb wilāya 'alā inkāḥ ibnatihī wa-uhṭihī*; (f. 20 r) *mā ḥukm ḡabā'ih ḥādīhi 'd-dār hal yaḡūz akluhā*; (f. 22 r) *hal mas'ala 'd-dabā'ih . . . mim mā yaḡūz at-taqlīd fihā*.

Inc., dopo la *basmala*: الله اجد بالحمد الخالص على الاستمرار والدوام واشكره على تسكين الميادين من الاعداء . . . اما بعد فوردت اليينا مسائل السيد الامام . . . اجد بن المنصور بالله محمد بن الهادي الى الحق

Term.: كان الجهاد غير مندوب فضلا عن الالتزام والوجوب وانا لله وانا اليه راجعون

Senza data. Senza nome di copista.

² (ff. 25 v-36) Estratto dello *Šarḥ Nahḡ al-balāḡa*, di 'Abdalḥamīd Ibn Abī 'I-Hādīd (v. n. 3357), corrispondente alle pp. 747-763 della ediz. Beirut, 1963-1965, v. V.

Inc., dopo la *basmala*: قال العلامة النحوي عبد الحميد بن ابي الحديد . . . في شرحه على نهج البلاغة وقد ساق كلاما في ذكر المغيرة بن شعبة

Dat. 21 raḡab 1071 (1661). Senza nome di copista. Copiato per Ḡamāladdīn 'Alī b. Ṣalāḥ الضلعى (Wüst., *Jemen*, p. 72, cita un qāḏī 'Alī b. Ṣalāḥ aš-Ṣalā'ī, che potrebbe essere la stessa persona)

³ (ff. 37-44 r) *Qaṣīda kāmil di*, di 98 versi, di contenuto apologetico-religioso, di Muḥammad b. Ibrāhīm Ibn al-Wazīr (v. n. 327¹), e *qaṣīda kāmil di*, di 103 versi, in risposta alla precedente, di al-Hādī (Muḥammad) b. Ibrāhīm b. 'Alī b. al-Murtaḏā Ibn al-Wazīr (v. nn. 317¹ f. 7 r 335²), fratello del poeta precedente.

1° verso della prima *qaṣīda*:

ضلت عوالمه تزوح وتعندي وتعيد تعنيف المحب وتبتدي

1° verso della seconda *qaṣīda*: عجلت عوالمه ولم تتأيد وجنت عليه جناية المتعمد

Segue (f. 44 r) una notizia sulla morte dei due autori; poi, tre versi di al-Mazzāḥ (v. nn. 317¹ f. 7 r 328¹ *passim*) su al-Hādī Muḥammad b. Ibrāhīm.

Senza data. Copista: Aḥmad b. 'Alī al-Ḥaddād, che dice di avere trascritto da un ms. di Aḥmad b. Sa'daddīn al-Miswari.

⁴ (ff. 45 v-47) Risponso giuridico dell'imām al-Mutawakkil 'alā 'llāh Šarafaddīn Yaḥyā b. Šamsaddīn (Aḥmad) (v. n. 314⁴), che spiega perché il Profeta una volta indugiò nel fare la preghiera per un morto.

Senza data. Copista: al-Hasan b. Ḥusayn الملائى مسى.

⁵ (ff. 48-83) *Ta'rīḥ ar-Rāzī* (altro titolo: *Ta'rīḥ Ṣan'a'*).

Autore: Abū 'l-'Abbās Aḥmad b. 'Abdallāh b. Muḥammad ar-Rāzī aš-Ṣan'ānī (m. dopo il 460/1068; cf. Ḥ.Ḥ. II 159; Kaḥḥāla I 294).

Storia di Ṣan'a', per il cui contenuto cf. BMS 583.

Br. G I 333, S I 570; da aggiungere Yale 1311.

Inc., dopo la dossologia: قال وهب بن منبه كان بين آدم ونوح عشرة ابا وما العمارة والخراب الا كفسطاط في الصحرى وما الخلق في قدرة الله عز وجل الا كخردلة في ايدهم احدكم

Dat. 10 dū 'l-ḥiḡḡa 1070 (1660). Senza nome di copista.

⁶ (ff. 84-139) *k. al-Muntaḥab min Ra's māl an-nadīm fī 't-ta'rīḥ al-'aḡība* (sic) *wa'n-nukat al-ḡarība*.

Estratto anonimo, di un *Ra's māl an-nadīm*, attribuito ad Abū 'Abdallāh (sic per Abū Ḡa'far) Muḥammad b. Ḥabīb al-Baḡdādī (m. 245/860; Br. G I 106, S I 165-166; Kaḥḥāla IX 174). Un'op. di tale nome non è citata

nei cataloghi e non si trova nell'elenco di quelle che il *Fihrist* (I 106) attribuisce a Muḥammad b. Ḥabīb; almeno la sua paternità è molto dubbia. D'altra parte, il contenuto di questo *muntahab* non può essere tutto riferito a Muḥammad b. Ḥabīb, per ragioni cronologiche. Si deve trattare, probabilmente di un centone di materiali diversi, parte dei quali derivata forse da qualche opera di Muḥammad b. Ḥabīb (cf. il *k. al-Muḥabbar*, descritto in BMS 508). Il contenuto del presente estratto risulta dalle rubriche seguenti: (f. 84 v) *mimman harrama 'l-ḥamr fī 'l-ḡāhiliyya*; (f. 85 v) *kuhhān al-'Arab al-ma-ṣāhūr*; (f. 91 v) *Aḡwā' al-Yaman*; (f. 91 v) notizie e curiosità diverse; (f. 93 v) *al-awā'il*, diviso in moltissimi paragrafi; (f. 106 v) *dīkr Makka*; (f. 108 r) storia dei califfi fino ad al-Muqtafī (m. 555/1160); (f. 133 v) *a'immat aš-šī'a itnā 'ašara*; (f. 136 v) *a'immat as-sab'iyya* e storia dei Fātimidi fino ad al-Musta'li (m. 495/1101). Da f. 137 v, ultima riga, a f. 139 v riporta la fine del *Ra's māl an-nadīm*, il cui A. spiega il fine didattico della sua op.

Inc., dopo la dossologia: ... أما بعد فهذا منتخب من كتاب رأس مال النديم.

ومو كتاب يجتوي على شيء من التواريخ ونسب النبي صلعم وأولاده وأصحابه

Term.: فإذا كان التاجر كَيْسًا حازمًا وفي مضاربه ومصارفته عالما تربيح تجارته وتزكو بضاعته فحرسه الله وحرس النعمة عنده... انه واسع الفضل والكرم وواهب الجود والنعم

Dat. 23 dū 'l-ḥiḡḡa 1069 (1659). Senza nome di copista.

⁷ (ff. 140 v-144 r) *Qaṣīda* (var. *Kitāb*) fī 'l-maqṣūr wa'l-mamdūd.

Autore: Abū Bakr Muḥammad (b. al-Ḥasan) Ibn Durayd (m. 321/934).

Componimento in versi sulle coppie di vocaboli omografi, che differiscono soltanto nella terza radicale, essendo questa un'*alif maqṣūra* o un'*alif mamdūda*. La *qaṣīda* ha 53 versi (negli altri mss. il numero oscilla da 50 a 57), senza la divisione in 7 *bāb* che si trova in altre copie (soltanto uno, *bāb mā yuksar awwaluhu fa-yuqṣar*, è indicato al f. 142 v). Ogni verso è seguito da un commento, anonimo, diverso sia da quello di Muḥammad b. Aḥmad b. Hišām al-Laḥmī (m. 557/1162), riportato da Wien 146, sia da quello di Leid. 615, attribuito all'A. stesso. Non è stato possibile fare il confronto con un terzo commento, conosciuto, quello di Muḥammad b. al-Qāsim al-Anbārī (m. 327/939), contenuto in Cairo² II 42. Per l'identificazione, poi, non serve nemmeno l'unica citazione, che ricorra nel commento (f. 144 r), di Abū Ḡa'far (ar-Ru'āsī) (vissuto alla fine del sec. I eg.) e di (Yaḥyā b. Ziyād) al-Farrā' (m. 207/822).

Br. G I 112, S I 173, dove però, inspiegabilmente, l'op. è chiamata *al-Maqṣūra al-kubrā*, che è invece un secondo titolo di *al-Maqṣūra*, dello stesso A. (cf. la descrizione di Berl. 7559); da aggiungere Bagdad Awqāf 3497,3 (dove la *qaṣīda* è data come anonima); Chester Beatty 3486,23; Rabat² 1733.

Inc., dopo la *basmala*:

Term.:

Il commento in.:

Term.:

Senza data. Senza nome di copista.

La sezione *fī ma'rifat an-nāsiḡ wa'l-mānsūḡ* di 'Ayn al-ma'ānī fī tafsīr as-sab' al-matānī (var. *fī tafsīr al-Qur'ān* nel titolo del ms., scritta da altra mano), di Abū 'l-Faḡl Muḥammad b. Abī Yazīd Ṭayfūr a s-S a ḡ ā w a n d ī (m. 560/1165; Br. G I 408, S I 724).

343 (Rossi 42)

Dat. 23 dū l'ḥiḡḡa 1056 (1647); 0,230 × 0,145; ff. 71 di 17-18 righe ca.; *nashī* con rubriche in rosso, verde e giallo, e rozzi diagrammi in rosso; rare note marginali; ff. 1, 2, 71 v inquadri; mancante il foglio con il frontespizio e l'inizio; corrosi i margini dei fogli; rileg. orientale in pelle, molto deteriorata e mancante del piatto inferiore.

(*al-Muḡnī fī 'l-bayṭara*).

Autore: (al-Malik al-Ašraf 'Umar b. Yūsuf b. 'Alī b. Rasūl al-Ḡassānī), il terzo sovrano yemenita della dinastia rasulide (m. 696/1297). V. n. 324.

Trattato di veterinaria, diviso in 90 *bāb*. Contiene: (ff. 1-2) un indice del contenuto (mancano le indicazioni relative ai primi 12 *bāb*; inoltre, a causa dell'omissione del 16° e, verisimilmente, di uno dei primi 12, contenuti nel foglio mancante, la nunerazione dell'indice anticipa di due unità rispetto a quella del testo e giunge a 88, anziché a 90); (ff. 3-55 r) *k. dīkr al-ḡayl, bāb 1-76*; (ff. 55 r-71 r) *k. dīkr al-biḡāl wa'l-ḡamīr wa'l-ibil wa'l-baqar wa'l-ḡanam, bāb 77-90*.

Br. S I 901; da aggiungere BM 1366; Cairo³ III 82. Di tutti (Berl. 6195 e Ambr. 118 dat. 1100, Ambr. 157 III dat. 1089, Vat. V. 980 dat. 1061, BM 1366 dat. 1240, Cairo³ III 82 dat. 1371) il presente ms. è il più antico.

Inc. (f. 3 v): الباب الاول في ذكر ألوان الخيل وصفاتها وأجناسها وأحدا بعد واحد أما ألوان فثمانية

Term.: ان يقلع البرام حيث كان عن ثالث ورابع وينشف ذلك الموضع بعينه (9) من اثر البرام لا يزداد عليه كما قطع اولاً هكذا ويفعل حتى يستكمل اربعون يوماً فانها تبرأ ان شاء الله والله اعلم

Senza nome di copista. Copiato per Faḡraddīn 'Abdallāh b. al-Manṣūr bi-'Ilāh al-Qāsim b. Muḥammad b. 'Alī.

344 (Rossi 43)

Sec. XII-XIII/XVIII-XIX; 0,220 x 0,155; ff. 135 di 18-30 righe ca.; *nashī* di varie mani; rubriche in rosso; numerosissime note marginali nei ff. 65-111; ff. 1-13 e 51 v-62 inquadriati; ff. 24, 63 r, 64 v, 135, 134 v vac.; rileg. orientale in cartone e tela con ornamenti in pelle e risvolto, molto deteriorata.

¹ (ff. 1-13 r) *Mulḥat al-i'rāb wa-nuṣḥat al-ādāb*.

Autore: Abū Muḥammad al-Qāsim b. 'Alī b. Muḥammad b. 'Uṣmān al-Ḥarīrī (m. 516/1122).

Poemetto didattico grammaticale, diviso in numerosi *bāb*, per il cui elenco cf. Berl. 6509, 3.

Br. G I 277, S I 488; da aggiungere Cairo³ III 105; Nasrallah I p. 152, II p. 90; Chester Beatty 3362,1 3696,6 5311; Mansūra 20 (RIMA IV 274); Yale 55; Rabat³ 1711; Wien Gl. 206. Sarkīs 750.

Inc., dopo la *basmala*: *اقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول الشديد الحول*

Term.: *وآله اهل التقى والرشد ما لاح برق في الظلام الاسود*

Senza data, ma probabilmente del sec. XIII/XIX. Senza nome di copista.

² (ff. 13 v-17 r) *at-Tuḥfa al-Wardīyya*.

Autore: (Zaynaddīn Abū Ḥafṣ) 'Umar (b. Muẓaffar b. 'Umar) Ibn al-Wardī (m. 749/1349). V. n. 352⁸.

Poemetto didattico grammaticale, che qui conta 150 versi *rağaz*.

Br. G II 140, S II 175; Sarkīs 284.

Inc., dopo la *basmala*: *قال الفقير عمر ابن الوردي لله شكري ابدا وحدي*
وبعد فلجاهل بال نحو احتقر اذ كل عام فاليه يفتقر

Term.: *حامدا لله مصليا على محمد والآل والصحب ولا*

La data e il copista sono quelli del n. 3.

³ (ff. 17 v-23 r) *(Buğyat (Ḡunyat) al-bāḥit 'an ḡumal al-mawārīt (fī 'ilm al-mawārīt wa'l-farā'id))* (altro titolo *al-Urğūza ar-Raḥbiyya*).

Autore: (Muwaffiqaddīn Abū 'Abdallāh Muḥammad b. 'Alī b. Muḥammad ar-Raḥbī Ibn al-Mutaqqina) (m. 579/1183 o 577/1181, secondo Kaḥḥāla XI 47).

Componimento poetico sul diritto successorio secondo la scuola sciafita. Consta di 177 versi *rağaz*, divisi in 23 *bāb*; prima degli ultimi 10 versi è inserita una doppia *Tatimma* di Abū Maḥrama al-Ḥaḍramī, commentatore della *Urğūza*. Per il contenuto di quest'ultima, cf. Berl. 4691.

Br. G I 391, S I 675-676; da aggiungere Garr. 2060,5 2061; Soc. As. 64,2; Nasrallah I p. 163; Rabat² 1464; Mansura mağmū'a 2,1 e 7,1 (RIMA IV 290 292); Mossul Sa'id ad-Diveğī 201,3 (RIMA IX 225) e 220,7 (RIMA IX 229); Chester Beatty 3854,10. Sarkīs 298.

Inc., dopo la *basmala*: *اول ما نستفتح الخلال بحمد ذكر ربنا تعالى*

Term.: *ونسأل الله لنا الاعانة فيما تواحيننا من الابانة*
وحسبنا الله ونعم الكافي ذو العز والقدرة والالطاف

Dat. 25 *rağab* 1251 (1835). Copista: Muḥsin b. 'Alī b. Mūsā b. Sa'id aš-Šamīrī (Šumayrī?).

F. 23 v contiene i versi 1-13 di *Ḡawḥar* (sic, l. *Ḡawāhir*) *ad-dahā'ir fī 's-ṣağā'ir wa'l-kabā'ir* (var. *fī 'l-kabā'ir wa's-ṣağā'ir*), poemetto parenetico di (Badraddīn) Abū 'l-Barakāt (Muḥammad b.) Radīyyaddīn Muḥammad (a l-Ḡazzī) (m. 949/1542: Br. G II 354, S II 481).

⁴ (ff. 25-51) *I'rāb al-Āğurrūmiyya*.

Autore: (Zaynaddīn Ḥalīd b. 'Abdallāh b. Abī Bakr) al-Azharī (m. 905/1499: Br. G II 27, S II 22-23). V. n. 6.

Commento alla parte relativa alle flessioni della grammatica *al-Muqaddima al-Āğurrūmiyya*, di Abū 'Abdallāh Muḥammad b. Muḥammad b. Dāwūd aš-Šanhāğī Ibn Āğurrūm (v. n. 310⁶).

Br. S II 333; citato un solo altro ms., Esc.² 120,3 (dat. 1004/1595); da aggiungere Cairo³ I 59.

Inc., dopo la *basmala*: *الحمد لله على ما اعطى وانعم واشكره على ما فهم وعلم... وبعد فيقول العبد الفقير الى مولا الغني... عامله الله بلطفه الحفي واجراه على عوائد برة الحفي بسم جار ويجرور متعلق بمحذوف واجب الحذف اتفاقا*

Term.: *وخاتم معطوف أيضا على ثوب وفضة مضاف اليه خاتم وبلخاتم يحتم الكتاب*

Dat. 29 *dū 'l-qa'da* 1144 (1732). Copista: Šarafaddīn al-Ḥusayn b. Zayd b. Aḥmad al-Habal (?).

⁵ (ff. 52-62) *ad-Durra al-bahiyya nazm al-Muqaddima al-Āğurrūmiyya*.

Autore: (Šihābaddīn (Šarafaddīn)) Yaḥyā (b. Abī 'l-Ḥayr (al-Ḥasan)) al-Amrīṭī (a l-Imrīṭī) (vissuto intorno al 989/1581, secondo Br. S II 441-442; m. 890/1485, secondo Kaḥḥāla XIII 234).

Commento in versi rağaz (253, nel presente ms.) di *al-Muğaddima al-Āğurrūmiyya* (v. n. 4).

Br. G II 238, S II 335; da aggiungere Cairo³ I 309; Kazimiyya Ḥusayn 'Alī Maḥfūz 45,3 (RIMA VI 21); Hels. 286. Sarkīs 1385.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي قد وفقا للعلم خير خلقه وللتقى

وبعد فاعلم انه لما اقتصر جل الوري على الكلام المختصر

Term.: حمد وصحبه والآل اهل التقى والعلم والكمال

Senza data. Senza nome di copista.

Ff. 63 v-64 r contengono un frammento di un'opera grammaticale non identificata, il quale tratta della *basmala*.

⁶ (ff. 65 v-88) (*Šarḥ al-Āğurrūmiyya*).

Autore: (Zaynaddin Ḥalid b. 'Abdallāh b. Abī Bakr) al-Azharī. V. n. 4.

Commento, a differenza del n. 4, all'intera grammatica di Ibn Āğurrūm.

Br. G II 27 e 238, S II 333; da aggiungere Sbath F. 261 (737-738); Tanta 151 252,1 (RIMA III 253 262); Manšura 73 88 (RIMA IV 275 276); Leid. Or. 5685.2 5687.1 5692.2 6987.5 6990.1 7034.8 7057 b. 3 8485.3 (Voorhoeve 236-237); Yale 20-26; Cambridge 2 nd Suppl. 222; Rabat² 1673-1674; Leeds 110,1 Bagdad Awqāf 2455-2458; Cairo³ II 4-5; Nasrallah II p. 88; probabilmente anche Wien Gl. 212 (tit. *Dihna* [sic] *dawī 'l-qulūb al-fahmiyya fī šarḥ al-Āğurrūmiyya*). Sarkīs 812.

Inc., dopo la *basmala*: (sic) الحمد لله رافع مقام المنتصبين لنفع العميد الخافضين جناحهم للمستفيد... وبعد فصدا شرح لطيف لالفاظ الآجرومية في اصول العربية ينتفع به المبتدئ

Term.: واما تابع المحفوظ فقد تقدم في المرفوعات فليراجع جميع ذلك قال المؤلف وهذا آخر ما اوردا ذكره على هذه المقدمة

N. B. - La data di composizione dell'op., indicata nell'*explicit*, 1^o rağab 807, è evidentemente errata e deve essere corretta in 1^o rağab 887 (1482) (cf. Berl. 6674).

Senza data. Copista: Ḥusayn b. Aḥmad al-Falqī, il quale avverte in una nota di aver copiato per Muḥsin b. 'Alī (b. Mūsā b. Sa'īd) aš-Šamīrī, possessore (cf. f. 1 r) e in parte copista della presente raccolta (nn. 241³ 8). Dunque anche questo ms. è del sec. XIII/XIX.

⁷ (ff. 88 v-90 v) *Fā'ida* sull'*i'rāb*, seguita da altre quattro brevissime note pure grammaticali, di Muḥammad b. Muḥammad Ġalāladdīn al-Abšī (al-Ibšī), non identificabile.

⁸ (ff. 90 v-116 r) *Faṭḥ al-bāb min al-karīm al-waḥḥāb li-man arāda 'd-duḥūl fī 'ilm al-i'rāb*.

Autore: 'Abdalḥāliq b. 'Alī al-murjajī (sec. XII-inizio sec. XIII/XVIII).

Commento alla grammatica di Ibn Āğurrūm (v. n. 310⁶).

Br. S II 334 n. 37 cita un 'Abdalḥāliq b. 'Alī al-Marğāğī come A. di un commento a tale opera, contenuto in Ambr. A 64 I ff. 1-18 (RSO III 577, dove però la *nisba* è al-murjajī), senonché il titolo (lacunoso) dell'op. contenuta in questo ms. è diverso, come è diverso l'*incipit*, e diversa, cioè minore, sembra anche la sua estensione. Quanto all'A., Šawkānī, *Mulḥaq* 114-115 n. 199, dà la biografia di un 'Abdalḥāliq b. az-Zayn al-murjajī, il cui nome è simile, ma non identico, e che morì nel 1152/1739-1740, in data anteriore alla composizione della presente op.; analoga difficoltà presenta la biografia di 'Abdalḥāliq b. 'Alī al-murjajī, in Kaḥḥāla V 110, il quale morì nel 1181/1767. Rimane perciò dubbia l'identificazione sia dell'op. sia dell'A.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي جعل النحو مفتاح العلوم وسلبا الى معرفة المنطوق والمفهوم... اما بعد فيقول... عبد الخالق بن علي المرجاجي... هذا شرح لطيف على مقدمة النحو لابن آجروم

Term.: وباب من ساج وخاتم من حديد وتابع المحفوظ لم يذكره لانه تقدم في المرفوعات فلا حاجة الى اعادة

N. B. - La data di composizione dell'op., indicata nell'*explicit*, 10 (?) ġumādā' 1-ūlā 1290, è evidentemente errata e deve essere corretta in 1190/1776 o in 1209/1794.

Dat. 3 dū '1-ḥiğga 1250 (1835). Copista: Muḥsin b. 'Alī b. Mūsā (b. Sa'īd) aš-Šamīrī.

Ff. 116 v-117 contengono diagrammi e alcuni versi.

⁹ (ff. 118-134) k. *Īnās al-aḥillā bi-ğam' aḥkām kallā*.

Autore: Muḥammad b. 'Abdallāh b. Muḥammad al-murjajī al-Ḥanafī.

Trattatello sugli usi dell'avverbio negativo *kallā* nel Corano. L'op. non è citata dai repertori e nemmeno l'A. è identificabile (è certo diverso dall'A. dell'op. precedente, malgrado la *nisba* identica).

Inc., dopo la *basmala*: حمدا لمن اعلى مقام من ارتدع عن منهياته وانرجيز واغلى حظ من قام بطاعته وامر بها واقتمروا... اما بعد فقد اشار الى من وجبت على مطاوعته وحرمت لدي مخالفته ان اجع احكام كلا ومنفرقاتها من التنزيل الشريف

Term.: الهم اختم اعمار اعمالنا بالباقيات الصالحات انك انت الوهاب الكريم

Senza data. Copista: Aḥmad b. Muḥammad b. Šawād.

345 (Rossi 44)

Sec. XI/XVII e sec. XIII/XIX (n. 5); 0,212 × 0,144 (ff. 1-93), 0,219 × 0,154 (ff. 94-156), 0,166 × 0,105 (ff. 157-164); ff. 164; *nashī* con rubriche e diagrammi in rosso; alcune note marginali; rileg. orientale in tela con rinforzi in pelle.

¹ (ff. 1-34 v) Trattatello di astronomia e (f. 13 v) di cronologia, acefalo, senza titolo e nome dell'A. Contiene: (f. 1 r) *faṣl fī dīkr al-manāzil as-sa'ida*; (f. 2 r) *faṣl bāb fī ma'rifat al-qamar fī 'l-burūḡ*; (f. 2 v) *faṣl idā aradta an ta'rifa 's-šams fī ayy burḡ*; (f. 3 r) *wa kaḡālika . . . 'l-qamar . . .*; (f. 3 v) *bāb dahl fī 's-samā' as-sābi'a*; (f. 4 v) *faṣl fī ma'rifat al-matā'in* (correzione del testo che ha *المتامم*, mentre al f. 22 v si legge *متانهم* in coppia con *مزارهم*; intendo *al-matā'in* = terreni duri, cf. Dozy, *Supplément*, s. v. *مَنْن*); (f. 5 r) *faṣl wa-yanbaḡī an ta'lama anna afdal az-zubūl . . . zibl al-ḡamām*; (f. 6 v) *manzūma ṭawīl mi*, anonima, *fī 'l-maḡāri'i wa-ma'rifatihī (sic) fī 't-tahā'im wa'l-ḡibāl*; (f. 8 r) *urḡūza fī ṣifat al-manāzil*; (f. 10 r) versi anonimi ed altri di as-Sirāḡ (Sirāḡaddīn) (Abū Bakr b. 'Alī b. Mūsā) al-Hāmilī (m. 769/1367: Br. G II 185, S II 240; v. n. 337¹); (f. 10 v) *faṣl fī ma'rifat as-sā'āt*; (f. 11 r) 15 versi della *qaṣīda fī 'l-manāzil*, di (Abū 'Alī al-Ḥasan b. al-Ḥusayn al-Baḡdādī) al-Hāšimī (contenuta in Berl. 5745 e in Esc. 2 976², e citata da H. H. IV 9504 con il tit. di *Qaṣīda fī 'l-hay'a*; sull'identità del suo A., cf. Suter, *Die Mathematiker usw.* p. 95 e nota a); (f. 12 v) *faṣl qaḡ ḡakama ahl 'ilm al-falak wa't-ṭabā'i' bi-hāḡa 'l-ḡisāb*; (f. 13 r) *lawḡ al-ḡayāt e lawḡ al-mamāt*; (f. 13 v) *yatlūhu fī 'ilm al-azmān: faṣl wa-'lam anna 's-sana al-'arabiyya . . .*; (f. 14 r) *faṣl wa-amma 's-sana aš-šamsiyya; faṣl aš-šuhūr ar-rūmiyya*, con versi di (Abū 'l-'Abbās) Aḡmad b. Mūsā (Ibn) 'Uḡayl (m. 690/1291: Br. G I 260, S I 461) e di as-Sirāḡ al-Hāmilī, altri anonimi; (f. 16 r) *faṣl fī ma'rifat al-burūḡ wa-ḡiya 'tnā 'aṣar burḡ*; (f. 17 r) *faṣl fī ma'rifat al-manāzil wa-'adadihā*; (f. 17 v) *faṣl fī ma'rifat ṣifat al-manāzil*; (f. 22 r) *faṣl fa-idā aradta ma'rifa qismat aš-šuhūr 'alā 'l-fuṣūl*; (f. 22 v) *faṣl wa-ahl al-Yaman yaḡsimūn ayyam al-faṣl . . .; faṣl wa-ra'aytu fī ba'd at-tā'ālīq anna 'l-bāḡin 'iddatuhu arba'a 'aṣara yawm^{an}*; (f. 23 v) *faṣl fī qismat al-manāzil 'alā 'l-burūḡ*; (f. 24 r) *faṣl i'lam anna fuṣūl as-sana arba'a*, con versi di al-Hāmilī; (f. 25 v) *faṣl fī ma'rifat as-sā'āt*, con gli stessi versi della *qaṣīda* di al-Hāšimī riportati al f. 11 r; (f. 27 v) *faṣl wa-ammā 'l-qamar fa-'lam annahu yaḡull fī kull manzila*; (f. 28 r) *faṣl idā aradta an ta'rifa māwḡī' al-qamar fī ayy burḡ*; (f. 29 r) *faṣl fī ma'rifat az-zawāl*; (f. 30 v) *abyāt fī ma'rifat az-zawāl*, di al-Hāmilī; (f. 32 r) *faṣl wa-kull manzila ṭāli'a bi'l-faḡr*; (f. 34 r) *qaṣīda ṭawīl 'u, fī ṭāli' al-faḡr*, di al-Hāmilī.

² (ff. 34 v-51) Miscellanea di magia, astrologia, astronomia, cronologia, contenente: (f. 34 v) *bāb maḡ waḡa'a fī kurbā, . . . wa-man kāna fī 't-ṭariq fa-ḡāfa min al-ḡitā, . . . wa-mim-mā yanfa' li-ḡabs al-maṭar*; (f. 35 v) *bāb li-man arāda an yaḡtuba aw yaḡluba wilāya min as-sultān; . . . wa-ḡāḡiḡi li-rukūb al-baḡr*; (f. 36 r) *bāb fī 'l-'arūs*; (f. 37 r) *bāb ḡawāṣṣ al-manāzil wa-mā yuṣliḡ fihā*; estratto (*nubḡa*) sulle combinazioni delle lettere alfabetiche con le stazioni lunari, rappresentate in due tavole con la didascalia *al-manāzil aš-šā-miyya e al-manāzil al-yamāniyya*; (f. 38 v) *Muḡtaṣar fī 'r-raml*, di Muḡammad b. 'Alī az-Zanātī (cf. Esc. 2 924¹), il quale comprende: (bāb fī) *'s-ṣuwar as-sitt 'aṣra, bāb ma'rifat al-buyūt as-sa'ida minhā wa'n-naḡisa, bāb ṣifat taskīn as-suknā*, con una tavola: (f. 42 r) *bāb idā li-ḡāḡa turīduḡā; bāb idā aradta an ta'rifa 'l-ḡālib min al-maḡlūb*; (f. 43 r) *bāb i'lam anna 's-sawād li-zuḡal; bāb tawīd ṣakl ar-raml*; (f. 43 v) *bāb 'azīmat idā aradta an tuḡbiraka 'l-mar'a bi-sirriḡā*, con tavole; (f. 45 v) *bāb 'aqḡ al-lisān; bāb 'an Dāniyāl . . . yaḡūl idā aradta an ta'rifa 'l-ḡāḡa taḡtaḡī am iā*; (f. 46 v) *bāb i'lam anna 'n-nās qaḡ wali'ū bi-ḡāḡiḡi 'l-a'māl*; (f. 47 v) *bāb ṭard al-arwāḡ al-mu'diyya*; (f. 48 r) *faṣl fī dīkr al-buḡūrāt*; (f. 49 v) *bāb ḡisāb manāzil ar-ra'd*; (f. 50 v) *bāb kusūf al-qamar*; (f. 51 r) *awfāq al-amlāk*.

³ (ff. 52-54) (al-Quṭrubīyya) (inesatto il titolo *al-Muṭallaṭa* dato dal ms.). Autore: (Sadīdaddīn (Waḡīhaddīn, Šihābaddīn) 'Abdalwaḡḡāb b. al-Ḥasan (al-Ḥusayn) b. Barakāt al-Muḡallabī al-Baḡnasī) (m. 685/1286: Kaḡḡāla VI 221).

Versificazione del *Muṭallaṭ* di (Abū 'Alī Muḡammad b. (Aḡmad) al-Mustanīr) Quṭrub (m. 206/821), sulle forme *fa'l, fu'l, fi'l* della stessa radice, con glosse interlineari. Per la descrizione dell'op., cf. Berl. 7074. Nella presente redazione i versi della *urḡūza* sono 30 + 2, anziché 30 + 9; segue, al f. 54 r un'appendice del *faḡīḡ* 'Abdarraḡmān b. 'Umar al-Ḥubayšī (m. 780/1378: Kaḡḡāla V 162).

Br. G I 103, S I 161 e S II 916; da aggiungere Yale 152. Sarkīs 1517.

Inc., dopo la *basmala*:
يا مولعا بالغضبي والهجر والتجنبي
في جده والعلبي حبك قد يرح بي

Dat. 11 rabī' I 1091 (1680). Senza nome di copista.

⁴ (ff. 54 v-93) Miscellanea di astrologia e astronomia, contenente: (f. 54 v) *ma'rifat qirān zuḡal wa-mā yaḡrī fihī min al-umūr*; (f. 57 r) *bāb ḡisāb ar-rawāḡif*; (f. 57 v) *bāb ma'rifat an-nuḡūm*, diviso in due parti, per gli uomini (*tahliyat ar-riḡāl*) e per le donne (*tahliyat an-nisā'*); (f. 87 r) *bāb fuṣūl as-sana al-arba'a*.

Dat. šawwāl 1091 (1680). Copista: Aḡmad b. Sa'id b. Naḡar al-Masārī al-Muṣaffarī.

F. 93 v contiene indicazioni sul significato delle lettere viste in sogno.

⁵ (ff. 94-139) *(ar-Risāla as-šihābiyya fī 's-šinā'a at-ṭibbiyya)*.

Autore: Ḡamāladdīn Muḥammad b. Ibrāhīm al-Māridīnī (Sec. X/XVI o XI/XVII).

Trattato di terapia, diviso in 80 *bāb*. Per il contenuto, cf. Berl. 6333. L'A., il cui nome si legge al f. 139 v, non è noto che per un commento a *ar-Risāla al-Faṭḥiyya fī 'l-a'māl al-ḡaybiyya*, di Muḥammad b. Muḥammad Sibṭ al-Māridīnī (m. 912/1506: Br. G II 167, S II 215). Egli deve quindi essere vissuto al tempo di questo autore o poco dopo, comunque non oltre il 1076/1665, data di Berl. 6333, che è il ms. più antico della presente op.

Br. S II 216: da aggiungere Cairo Timuriyya ṭibb 347; Tunisi Aḥmadiyya 5434, I (RIMA V 328); Teheran Univ. 2836, 13.

Inc. *ex abrupto* con le ultime righe del 2° *bāb*: بزیت فی کور فخر فان لم یکف ذلك

Term.: ثم بعد ذلك على دهن الشمع مع النيل نافع جدا فاعرف ذلك والله اعلم واحكم ثم

Dat. 14 šawwāl 1267 (1851). Copista: Muḥammad b. 'Abdallāh b. 'Alī b. Muḥammad b. Aḥmad as-Sabbāk. Copiato per al-Ḥasan b. 'Abdallāh b. Yaḥyā b. Muḥammad b. Ḥusayn. Finito di collazionare il 1° muḥarram 1268 (1851).

⁶ (ff. 140-147) Miscellanea contenente: (f. 140) uno scritto anonimo e senza titolo, intessuto di invocazioni pie e di citazioni coraniche; (f. 142 r) un rozzo prospetto dei giorni infausti dei vari mesi; (f. 142 v) un trattatello sulla comparazione fra il calendario solare e quello lunare, il cui A. dice di aver voluto continuare il *Ḡadwal fī madāḥil as-šuhūr ar-rūmiyya wa-sinīhā fī 'l-ašhur al-'arabiyya wa-sinīhā*, di al-Ḥusayn b. Zayd (b. 'Alī) Ḡaḥḥāf (m. 1127/1715: Br. S II 567, da integrare con le notizie date a proposito di Vat. V. 962^r), compilando un *Ḡadwal* dal 1201 al 1300 eg. (in realtà la tabella al f. 144 va dal 1277 al 1300). L'op. non è identificabile con *al-Ḡadwal al-mufīd an-nāhiḡ*, di al-Ḥasan b. Muḥammad al-Akwa', che copre il periodo 1201-1300 eg. (cf. Vat. V. 964^r), ed anche l'A. rimane non identificato.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر آيتين من آيات ملكه وقد سبها بحكمته... وبعد فان الجدول الذي وضعه... حسين ابن زيد جفاف رحة; (f. 146) *manzūma fī ṭūlu'* (sic per *ṭulu'*) *al-faḡr*, di Aḥmad b. Muḥammad al-mušarriḡ, di 17 versi ṭawīl 'u. Inc.: مطالع فجر في; (f. 146 v) formule di scongiuro; *ḡadwal ma'rifat duḡūl al-fuṣūl al-arba'a wa-ṭāli' al-faḡr min al-manāzil*.

⁷ (ff. 148-155) Frammento di un'op. non identificata sul Profeta. Contiene: (f. 148 r) *faṣl ḥatt an-nabī... 'alā 'l-iḡtimā' 'alā qirā'at al-Qur'ān*, (f. 149 v)

faṣl fī adkār wa-da'awāt kāna yaqūlūhā; (f. 150 r) *faṣl fī dīkr mawālīhi*; (f. 151 r) *faṣl fī dīkr ḥadamīhi*; (f. 151 v) *faṣl fī-man kāna yahrusuhu... fī ḡaza-wātihi*; (f. 152 r) *faṣl fī rusulīhi... ilā 'l-mulūk*; (f. 153 r) *faṣl fī kuttābihi*; (f. 153 v) *faṣl fī rufaḡā'īhi*; *faṣl fī anšārihi 'l-iṭnā 'ašara 'n-nuḡabā'*; (f. 154 r) *faṣl fī dīkr dawābbīhi*; (f. 154 v) *faṣl fī dīkr ni'amīhi*; (f. 155 r) *faṣl fī silāhihi*; (f. 155 v) *faṣl kāna lahu... yawm māta tis'a abyāt*.

F. 156 contiene due cerchi magici con lettere (*zayraḡa*), e una ricetta per curare le emorroidi.

⁸ (ff. 157-164) Raccolta di formule magiche.

346 (Rossi 45)

Dat. 19 raḡab 1028 (1619); 0,244 × 0,174; ff. 120, di 27-30 righe ca.; *nashī* con rubriche in nero, rosso, azzurro pallido, viola, verde, e con titoli calligrafici; note marginali specialmente ai ff. 3-8, 23-26, 57-71; ff. 1, 2, 3 r, 120 v vac.; rileg. orientale in cartone con rinforzo di pelle, con risvolto.

(al-Idāh 'alā 'l-Miṣbāh).

Autore: Ḥamsaddīn Aḥmad b. Yaḥyā b. Aḥmad b. Muḥammad Ibn Ḥābis ad-Dawwārī. V. nn. 313 a 335¹⁶.

Commento al trattato di teologia zaidita *Miṣbāh al-'ulūm fī ma'rifat al-ḥayy al-qayyūm* (altro titolo *at-Ṭalātūn al-mas'ala al-wāḡiba fī uṣūl ad-dīn*), di Ḥamsaddīn Abū 'l-Ḥasan Aḥmad b. Muḥammad ar-Raṣṣāṣ (m. 656/1258: Br. G I 403, S I 700-701).

Contiene: (f. 4 r) *muḡaddima* sul *kalām*; (f. 6 r) dopo una seconda *basmala*, un commento alla *basmala*, l'analisi dei concetti di *'aql*, *taklīf*, *nazar*, la trattazione del *wuḡūb an-nazar*, la spiegazione del piano dell'op. e delle 8 applicazioni del *kalām* al ragionamento teologico; (f. 12 v) *bāb at-tawḥīd*, diviso in 10 *masā'il*: (f. 12 v) *fī iṭbāt as-šāni'*, (f. 19 v) *fī 's-ṣifāt*, (f. 21 v) *inna 'llāh 'ālim*, (f. 25 v) *inna 'llāh ḥayy*, (f. 26 r) *inna 'llāh samī' baṣīr*, (f. 28 v) *inna 'llāh qadīm*, (f. 34 v) *inna 'llāh lā yuṣbih ṣay'an*, (f. 38 v) *inna 'llāh ḡaniyy*, (f. 40 r) *inna 'llāh lā yarā bi'l-absār*, (f. 44 v) *inna 'llāh wāḥid al-wuḡūd*; (f. 48 r) *bāb al-'adl*, diviso in 10 *masā'il*: (f. 48 r) *inna 'llāh 'ādil ḥakīm*, (f. 49 v) *fī af'āl al-'ibād*, (f. 52 v) *lā yaḡūz iṭlāq al-qawl fa-inna 'l-ma'āṣi min qaḏā' Allāh wa-quḏratīhi*, (f. 56 v) *Allāh lā yukallif 'ibādahu mā lā yuṭī'ūn*, (f. 58 r) *Allāh... lā yuṭīb aḥad'an illā bi-a'mālihi wa-lā yu'āqibuhu illā bi-dānbihi*, (f. 60 r) *fī 'l-irāda*, (f. 62 v) *fī 'l-ālām*, (f. 66 v) *fī 'l-kalīm wa-ḥadd mā tanaḏamm min ḥarfayn*, (f. 68 v) *inna ḥādā 'l-Qur'ān... kalām Allāh*, (f. 71 v) *fī n-nubuwwa*; (f. 77 v) *bāb al-wa'd wa'l-wa'id*, diviso in 10 *masā'il*: (f. 80 v) *man wa'adahu*

'*llāh bi'l-ġanna ... fa-innahu sā'ir ilà 'l-ġanna, ... man tawā'adahū 'llāh min al-kuffār ... bi'n-nār ... fa-innahu sā'ir ilà 'n-nār*, (f. 81 v) *man tawā'adahū 'llāh min al-fussāq ... bi'n-nār ... fa-innahu sā'ir ilà 'n-nār*, (f. 84 r) *fī 'l-manzila bayna 'l-manzilatayn*, (f. 87 v) *fī šafā'at an-nabī*, (f. 90 r) *fī 'l-amr bi'l-ma'rūf wa'n-nahy 'an al-munkar*, (f. 93 r) *fī imāmat 'Alī*, (f. 106 v) *fī imāmat al-Hasan b. 'Alī*, (f. 107 r) *inna 'l-imām ba'd al-Hasan aḥūhu 'l-Husayn*, (f. 108) *fī bayān mā yastahiqquhu 'l-imāma*; (f. 113 r) *ḥātima ... bi-bayān al-firqa an-nāġiya*.

Br. S I 701: citato un solo altro ms., Ambr. 467 II, da correggere in Ambr. 468 I e II (dat. 1307/1890, quindi molto posteriore): l'errore è dovuto, in parte, alla descrizione di E. Griffini che, in base ai titoli, ha fedelmente descritto 468 I come *k. al-Idāh 'alā 'l-Miṣbāh* e 468 II come *at-Talātūn al-mas'ala* (= *al-Miṣbāh*). Ciò fa sembrare che il commento sia limitato a 468 I e che 468 II contenga soltanto l'op. commentata, tanto più che, a proposito di 468 II non è dichiarata la presenza di un commento. La verifica del ms. 468 II ha chiarito che si tratta sempre di *al-Idāh*: 468 I giunge fino al principio della settima *mas'ala* del *bāb at-tawhīd* (f. 36 v, nona riga dal basso, del presente ms.), e di qui riprende 468 II, fino alla fine. Da aggiungere Leid. Or. 6363 (Voorhoeve 360) (dat. 1292/1875); Wien Gl. 142 (tit. *Šarḥ at-talātūn* [sic] *al-mas'ala*; dat. 1264/1848).

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي انشأ العالم من العدم واختره اختراعاً واوجده بعد العدم... وبعد فلما كان علم الكلام اشرف العلوم اذ هو لمعرفة الحي القيوم وقد روينا عن النبي صلعم انه قال العلم الذي لا يعمل به كالكفر الذي لا ينطق منه اتعب صاحبه نفسه في بجهه ثم لم يصل الى نفعه وهذا حين فرغنا من نسخ هذا الكتاب وتاليفه وذلك في يوم الثلاثاء لتسعة عشر... من شهر رجب الاحب سنة ١٠٢٨.

Senza nome di copista, ma dal colofone sembra di dover dedurre che è autografo, se il 19 raġab 1028 (1619) fu finito di copiare e di comporre. F. 120 r contiene pochi versi dell'imām al-Mahdī, non meglio precisato.

347 (Rossi 46)

Sec. XIII/XIX; 0,240 × 0,169; ff. 117 di 17-20 righe ca.; *nashī* con rubriche in rosso e verde; ff. 25-55 in carta bianca, gli altri in carta giallastra; ff. 2-24 e 56-95 inquadriati; f. 1 vac.; rileg. orientale, molto tarlata, in cartone con rinforzi di pelle e risvolto.

al-Fawā'id al-muḥtaṣara fī mas'el min aš-šarī'a al-muḥaḥhara (min *madhab a'immat al-'itra al-barara*).

Autore: Ḥamīd b. Muḥammad b. 'Abdarraḥmān al-Ḥudūrī (Sec. XIII/XIX).

Compendio di diritto zaidita ad uso dei principianti. È diviso in 71 *bāb*, l'ultimo dei quali, (f. 113 r) *fī sirat al-a'imma*, è piuttosto un'appendice all'op. L'A., che dichiara di non essere un vero giurista, non è citato nei repertori. Deve essere stato contemporaneo dell'imām al-M a n ṣ ū r b i-' l l ā h Muḥammad b. 'Abdallāh al-Wazīr (regnò per breve tempo attorno al 1270/1853-1854; v. n. 339^o), del quale il frontespizio riporta il testo dell'*iġāza* dichiarante l'ortodossia zaidita dell'op. (dat. dū 'l-ḥiġga 1035/1888).

Noto un solo altro ms. Leid. Or. 6356 (Voorhoeve 81).

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي هداانا الى صراطه القويم ودلنا الى مسلك دين الاسلام وطرق العلم والتعلم... وبعد فانه يقول... حميد بن محمد بن عبد الرحمن المدوري... لما سألتني بعض الاخوان وفقه الله الى رضا واصلح شأنه وهداه ان اضع مختصراً مفيداً قريب الانتوال للمسترشدين في مسائل من الشريعة المحمدية

Term., dopo una preghiera a Ḥusayn: ففي هذا الدعاء ما يكسب العبرات من الآفاق ويهون اعظم المشاق وفيه فضل (sic) عظيم وسر جسيم للدخول على الملوك ولحفظ النفس والمال ولو لم يكن الا تبركاً بقائله عم وبهنا يجتم هذا المجموع

348 (Rossi 47)

Dat. (f. 122 v) 25 dū 'l-qa'da 1185 (1772); 0,223 × 0,157; ff. 123 di 15-20 righe ca., molto deteriorati dai tarli, specialmente gli ultimi; *nashī* con rubriche e abbreviazioni in rosso; numerose note marginali e interlineari; due foglietti volanti, tra f. 48 e f. 49 e tra f. 70 e f. 71; rozza rileg. orientale in cartone e tela.

Buġyat al-qārī' al-muġīd min tullāb al-Qur'ān al-maġīd.

Autore: 'Afīfaddīn 'Abdalbāqī b. 'Abdallāh al-'Adanī az-Zabīdī (Sec. x-xi/xvi-xvii).

Compendio di scienze coraniche, finito di comporre (cf. f. 121 v) il 7 dū 'l-qa'da 1005 (1597).

Né l'A. né l'op. sono citati nei repertori. L'A. dice (f. 1 v) di essersi basato, per quanto riguarda il numero dei versetti, su *al-Madanī 'l-aḥīr*, cioè Abū Mūsā 'Īsā b. Mīnā Q ā l ū n (v. n. 336^r), e di avere riassunto *al-Ġāmi' al-mufīd li-tālīb al-Qur'ān*, di Abū Muḥammad 'Abdallāh b. 'Umar b. al-Ward al-Hilālī a l-M a ḍ ḥ i ġ ī a š-Šāfi'ī al-Muqaddasī (?).

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين... وبعد فهذه نبذة في عدد آي القرآن وكله وحروفه ومعرفة وقوفه وخوسه وعشوره... وبيان ما اختلف فيه ائمة الحجاز والعراق والشام من العدد وبيان ما اتفقوا (sic) عليه منه

Term. (f. 119 v): *وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا كما يدل بكلماته وهو السميع العليم*.
 Seguono: (f. 119 v) una *hātima mā dakartuhu min fawāṣil al-āy*, in cui l'A. cita *as-Suwar* (probabilmente *Iqd ad-durar fī 'add as-suwar*), di (Burhān-addīn Abū 'I-'Abbās Ibrāhīm b. 'Umar) al-Ġa'barī (m. 732/1332: Br. G II 164, S II 134), *al-Madbūt* (fī bayān al-qirā'āt as-sab'), di 'Uṭmān (b. Muḥammad b. Muḥammad al-Ġa'z n a w ī) (Sec. VIII/XIV: Br. G II 201) e *al-Waqf* (var. *Īdāh fī 'l-waqf*) (wa'l-ibtidā'), di (Muḥammad b. Ṭayfūr) a s-S a ġ ā w a n d ī (v. n. 342⁸); (f. 120 r) un *tanbīh* dedicato al numero delle lettere, delle parole, dei versetti e delle sūre, in cui l'A. cita Abū 'Amr ('Uṭmān b. Sa'id) a d-D ā n ī (m. 444/1053: Br. G I 407, S I 719).

F. 122 contiene, della stessa mano, la risposta a una richiesta di spiegazione dei termini tecnici e dei simboli usati nell'op. precedente, di 'Alī b. Muḥammad a d-D a y b a ' a z-Zabīdī aš-Šaybānī (m. 1072/1661-1662: Šawkānī, *Mulḥaq* 179 n. 333).

349 (Rossi 48)

Sec. XI/XVII; 0,214 × 0,155 (i ff. 1-2, 43-92), 0,205 × 0,155 (i ff. 3-42); f. 92 di 20-26 righe ca.; *nashī* con rubriche in rosso, particolarmente chiaro e regolare nei ff. 61-92; varie note marginali, specialmente nei ff. 1-2, 49-60; la numerazione è errata, per cui il codice deve essere ricostituito così: 1, 49-60, 2-48, 61-92; rileg. orientale in pelle (ma sembra piuttosto trattarsi di una cartella per contenere i fascicoli).

¹ (ff. 1, 49-57 v) Estratto (parziale) di uno *Šarḥ al-Maqāmāt*, commento di A. non indicato alle *Maqāmāt* di Abū Muḥammad al-Qāsim b. 'Alī b. Muḥammad al-Ḥarīrī (v. n. 344¹).

Inc., dopo la *basmala*: *هذه نسخة جعلت فيها بعض من شرح المقامات الجريدي (sic) البيان باللسان والتبيين بالجنان اللهم علم ضروري*

Termina *ex abrupto* con il *tafsīr* dei versi della 27^a *maqāma*, *al-badawiyya* (ed. S. De Sacy, Paris 1853, pp. 324).

² (ff. 57 v-60, 2-3) Miscellanea contenente: (ff. 57 v-58 r) ricette; (f. 58 r) *fā'ida fī taqīr al-ḥikma*, riportata da un *Imlā'*, di 'Alī al-Maġribī (= 'Alī b. aš-Šayḥ al-Fāḍil al-Madanī al-Maġribī? Quest'ultimo si occupò di scienze occulte, cf. Br. S II 1039); (ff. 58 v-59 r) *fā'ida* sul significato occulto delle lettere, con annessa tavola per predizioni; (ff. 59 v-60 r) *fā'ida fī 'ilm az-zāy-raġa*; (ff. 60 v-2 r) ricette di alchimia e di terapia; (f. 2 v) quadrati magici, frammenti diversi; (f. 3) quattro questioni giuridiche (su casi di compravendita, se una schiava possa fare la nutrice, su un caso di procedura penale) con risposta dell'imām al-M u t a w a k k ī l I smā'il b. al-Qāsim (v. nn. 307³ 334²).

F. 4 r contiene una nota, dat. šawwāl 1084 (1674), che sembra indicare che l'op. seguente appartenne ad 'Alī b. Aḥmad a s-S a m ā w ī (v. n. 334⁵).

³ (ff. 4 v-42) Centone di medicina e scienze naturali, anonimo e mutilo.

Inc., dopo la *basmala*: *الحمد لله الذي اصهر الحكم واسبغ النعم واخترع الموجودات من العدم... وبعد فهذا كتاب فيه حكمة الطب وخواص الحيوان والمعادن والنباتات مستخرج من خواص كتب الحكماء المستحسنات قال الحكيم ما انزل من داء الا وانزل معه دواء*

⁴ (ff. 43-48) Frammento di un trattato zaidita di etica, non identificato, che contiene gli ultimi *faṣl* dell'op., dai titoli seguenti: (f. 43 v) *hubb ad-dunyā ra's kull ḥaṭī'a*; (f. 44 v) *al-ḡubn huwa 'l-buḥl bi'n-nafs*; (f. 46 r) *al-faraḥ huwa 's-surūr al-lāḍī yašdur 'anhu af'al tarab*; (f. 46 v) ... *wa'l-ḡada' huwa 'l-ḡamm... wa-qad warada 'n-nahy 'an al-ḡada'*; *an-nās kulluhum halaka illā... 'l-muḥliṣūn*; (f. 47 v) *al-wara' aṣl ad-dīn*.

Term.: *ثم قال مولانا عم ولذختم كتابنا هذا بهذه الآية الكريمة نفاؤلا لعل الله بكرمه يجعل خاتمة اعمالنا التقوى وبجانبه الاهواء وعاقبة اعمالنا سكون جنة المأوى بلطفه وكرمه هو اكرم مسؤول وألطف مأمول واقول وانا العبد الحقير السائل من الله... ان يدخلني... وأخر دعوانا ان الحمد لله تم*

Segue una preghiera del possessore e copista: Muḥammad b. al-Ḥasan b. Muḥammad al-Aḥfaš.

⁵ (ff. 61-62 r) Massime morali di Šihābaddīn (Abū Ḥaṣṣ) 'Umar (b. Muḥammad b. 'Abdallāh) a s-S u h r a w a r d ī (m. 632/1243: Br. G I 440-441, S I 788-790).

Inc.: *من مفادات قطب العارفين... عمر السهروردي رحمة طفت بعض الدنيا وجربت الامور وركبت العظام*

F. 62 v contiene una *šahāda* ed altre scritte.

⁶ (ff. 63-92) *Tazyīn al-maḡālis bi-dīkr at-tuḥaf an-nafā'is* (wa-maknūn ḥisān al-'arā'is).

Autore: l'imām al-M a h d ī l i-d ī n A l l ā h A ḥ m a d b. Yaḥyā I b n a l-M u r t a ḍ ā (v. nn. 319¹ 335¹⁷ 339²¹ 341^{1 2 5}).

Raccolta di 60 biografie di santi. L'op. è un estratto di *Tuḥfat al-wu'āz*, scritto non conservato (cf. Br. S I 920) di Ġamāladdīn Abū 'I-Faraġ 'Abdarrahmān b. 'Alī b. Muḥammad I b n a l-Ġ a w z ī (m. 597/1200: Br. G I 499-506, S I 914-920), e costituisce la *hātima* di *Yawāqūt as-siyar fī šarḥ k. al-Ġawāhir wa'd-durar ilḥ.* (v. n. 319¹) dello stesso Ibn al-Murtaḍā. L'A. informa (f. 92 r) che finì di compilare l'op., dopo una settimana di lavoro, il 23 ḍū 'l-ḥiġġa 803 (1401).

Br. S II 246: citato un solo altro ms., Leid.² 898 (dat. 1054/1643-1644); da aggiungere BMS 421 ff. 32 a-54 b (dat. 1025/1616); per un altro ms. a Taškent, cf. V. J. Belaev, *Arabskie rukopisi iz Jemena v sobranijah Taškenta*, in *Sovetskoe Vostokovedenie* IV, 1947, p. 42-44.

Inc., dopo la *basmala*: هذه تكملة مباركة لاحقة بكتاب يواقيت السير اوردها...
عقيب سيرة الخلفاء الاموية والعباسية وذلك بايراد تحف اوردها الشيخ... عبد الرحمان...
الموزي

Term., يا من عظم ذنبه البكاء البكاء يا من سلب قلبه جعلنا الله ممن استمع فوعى
ورحم نفسه فوعى وراقب ذنبه فمجر ذنبه حتى لقي الله وهو عنه راض

Senza data. Senza nome di copista.

350 (Rossi 49)

Sec. XIII/XIX; 0,222 × 0,164; ff. 87 (in realtà 88, contando anche un foglio non numerato, per errore, tra f. 1 e f. 2); di 7 righe i ff. 1 v-3, di 16 righe i ff. 12 v-76 r, di 25 righe ca. i ff. 76 v-84; *nashī* con rubriche in rosso e verde; note marginali specialmente nei ff. 1 v-4; ff. 11 v, 86 r vac.; rileg. orientale in cartone con rinforzi in pelle, con risvolto.

F. 1 r contiene un *hadīṭ* su Abū Ṭalḥa Zayd b. Sahl e suo figlio 'Abdallāh, con versi.

¹ (ff. 1 v-3 v) *al-Urgūza al-Yāsaminīyya*.

Autore: (Abū Muḥammad 'Abdallāh b. Muḥammad b. al-Ḥaḡḡāḡ al-Adriṇī Ibn al-Yāsaminī (Yāsamin, Yāsīmīn)) (m. 600/1203-1204 o 601/1204-1205).

Poesia su questioni d'algebra, che nella presente redazione conta 43 versi (anziché 57), incominciando dal v. 11, come molte altre copie.

Br. G I 471, S I 858; da aggiungere Vat. V. 1724²³, con rimandi; Rabat² 2424; Bagdad Awqāf 3402,8; Chester Beatty 3234,3 3486,22 4509,7.

Inc., dopo la *basmala*: على ثلاثة يدور الجبر المال والاعداء ثم الجندر
Term.: وضربه في ضده نقصان فافهم هداك الملك الدين
ثم صلوة الله والسلام على النبي ما انجلي الظلام

² (ff. 3 v-12 r) Miscellanea contenente: (f. 3 v) versi sul *radd* (operazione matematica necessaria nei casi di indivisibilità esatta della frazione ereditaria), poi una *mas'ala* aritmetica; (f. 4 r) versi riguardanti calcoli per la divisione dell'eredità; (f. 4 v) *fatwā* del muftī Sulaymān (li. 'Umar) b. Yahyā b.

'Umar al Maqbūl al-Aḥdāl (al-Ḥikamī) (m. 1197/1783; Šawkānī I 267-268 n. 187; Kaḥḥāla IV 272; cf. anche Br. S II 235-236) su una questione di diritto successorio; (f. 6 r) esemplificazione di casi in rapporto alla divisione dell'eredità; (f. 10 v) *Wurayqa fī dīkr man fī 's-Šahīḡayn huwa wa-abūhu šahābiyyān ilh.*, di Ḡamāladdīn (Abū 'Abdallāh) Muḥammad b. Abī Bakr al-Ašḥarī (al-Ašḥar) (v. n. 333^{5 a}); (f. 12 r) genealogie: di Šafiyyaddīn Aḥmad (b. 'Aṭṭāf) Ibn 'Alawān (m. 665/1266; Br. G I 449, S I 806; Kaḥḥāla I 314), riportata da uno scritto di Badraddīn Muḥammad b. 'Anqā' al-Yamanī (Abū Ḥazrā' Muḥammad b. 'Anqā' al-Ḥusaynī, citato in Br. S II 19 ?), e di Muḥammad b. Aḥmad Šar'ān az-Zabīdī, riportata da uno scritto di 'Abdalbāqī b. 'Abdarrahmān b. Sulaymān al-Aḥdāl. Copista delle genealogie: Muḥammad b. 'Abdarrahmān (b. Ibrāhīm) Šar'ān, figlio del copista dell'op. seguente e padre dell'A. di 350^a a.

3 (ff. 12 v-84) *Iršād al-anām ilā šarḡ Fayḍ al-malik al-'allām*.

Autore: (Yūsuf b. Muḥammad al-Baṭṭāḡ) (m. 1246/1830; Kaḥḥāla XII 333).

Commento a *Fayḍ al-malik al-'allām li-mā 'štamala 'alayhi 'n-nusk min al-aḥkām*, sui riti del pellegrinaggio secondo il diritto sciafiita, di Ḡamāladdīn Abū 'Abdallāh Muḥammad b. Šāliḡ b. Ibrāhīm az-Zubayrī (m. 1240/1824; Br. S II 809; Kaḥḥāla X 80; sua biografia nel presente ms., ff. 26 r-31 r).

Contiene: (f. 12 v) *muqaddima fī faḍā'il an-nusk wa-ādāb safar qāsid an-nusk*; (f. 26 r) *tarḡama mu'allif al-matn*, di Muḥammad b. Ḥaḍīr al-Bašrī, discepolo di az-Zubayrī, del quale clenca le opere seguenti (ff. 28 v-29 r): *Faḥ al-muḡīb bi-balad al-ḡabīb*, *Faḥ dī 'l-'izza wa'l-karam li-ūlī 'l-himam*, *Faḥ ar-raḡmān yaḡtafir li'l-muwāfiq min al-arkān*, *al-Qawl al-kāff fī masā'il al-istiḡlāf*, *Ḡuz' ḡaḡīm fī karāmāt al-awliyā'*, *Šarḡ Hizb an-Nawawī* (Br. G I 397, S I 685), *Risāla fī 's-samā' wa-rad' ahl az-zayḡ wa'l-mayl ilā 'l-muḡarramāt wa'l-ibtidā'*, *Fayḍ al-malik al-'allām ilh.*, *Ḥāšiyā 'alā Minhāḡ (at-tālibīn)* (Br. G I 393, S I 680) e una raccolta di responsi giuridici; (f. 31 v) dopo una seconda *basmala*, il commento al *Fayḍ*, il cui testo è incluso, scritto in rosso o in verde; (f. 76 r) 9 versi kāmīl *ā'iḡī* in lode del *Fayḍ* e del suo A., di un altro discepolo, Ḥusayn b. 'Abdarrahmān al-Ḡafrī; (f. 76 v) *ḡātima fī dīkr al-mawāḍi' al-mubāraka*.

Br. G II 499, S II 809; Sarkīs 568.

Il *Fayḍ* inc. (f. 31 v), dopo la *basmala*: اعلم وفقني الله واياك لما يجبه ويرضاه ان
النسك يشتمل على شروط واركان وواجبات وكيفيات ومحرمات ودماء
او التصديق بثلاثة اصع على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع او
صام ثلاثة ايام والله اعلم بالصواب

Il commento inc., dopo la *basmala*: الحمد لله وكفاء والصلوة والسلام على سيدنا محمد المصطفى... وبعد فهذا تعليق لطيف على مختصر شيخنا العلامة محمد بن صالح الرئيس المنيف... وسميت هذا التعليق بارشاد الانام وزدت عليه مقدمة وخاتمة فمن نكت فانما ينكت على نفسه... فان النكسة اشد من المرض وهذا آخر Term.: ما علقته من الشرح... وقد اودعت في شرحي المسمى بتوضيح المسالك فواتد حسنة متعلقة بالمناسك... فمن اراد الاطلاع على ذلك فليرجعه والله ولي التوفيق

Dat. 12 ġumādā I 1286 (1869). Copista: 'Abdarrahmān b. Ibrāhīm Š a r ' ā n.

⁴ (ff. 85-86) a) *Muwaššaha* di 28 versi, contenente invocazioni devote.

Autore: Ibrāhīm b. Muḥammad b. 'Abdarrahmān b. Ibrāhīm b. 'Uṭmān Š a r ' ā n, figlio del copista di cui al f. 12 r e nipote del copista del n. ³.

Primo verso: فأرج الهموم فرج همومي يا كريم يا رب

Ultimo verso: صحبه النجوم من فضلهم كالشمس ليس تحجب

b) *Qaṣīda basīṭ ru*, di 21 versi, sulla tomba del Profeta.

Autore: Muḥammad a l - B a k r ī aṣ-Šiddīqī (probabilmente Šamsaddīn Abū 'l-Makārim, var. Abū 'l-Ḥasan, Muḥammad b. 'Abdarrahmān a l - B a k r ī aṣ-Šiddīqī, m. 952/1545: Br. G II 334, S II 461-462 = 538 § 12 n. 1 a).

Primo verso: يا عين هذا السيد الاكبر وهذه الروضة والمخير

Ultimo verso: ذخيرتي حبك يا سيدي فانه افضل ما يذخر

351 (Rossi 50)

Sec. XII/XVIII ?; 0,211 × 0,155; ff. 147 piuttosto deteriorati, di 15-20 righe; *nashī*, apparentemente di mani diverse, con rubriche in rosso; ff. 15-113 (tranne ff. 94 e 103) in carta giallastra; ff. 15-102 (tranne ff. 94 e 103) inquadri; f. 2 vac.; rileg. orientale in cartone e pelle, con risvolto, piuttosto deteriorata.

F. 1 contiene una *muwaššaha* di 33 versi, dal ritornello *lā ilāha illā 'llāh*.

Primo verso: حسبنا الله لا اله سواه حسبنا لا اله الا الله

Ultimo verso: وأقل عثرتي تجاههم بجلال لا اله الا الله

Bulūġ al-marām min adillat al-aḥkām min aḥādīṭ sayyid al-anām (v. n. 371).

Autore: (Abū 'l-Faḍl) Aḥmad (b. 'Alī b. Muḥammad) I b n Ḥ a ġ a r a l - ' A s q a l ā n ī (m. 852/1449).

Raccolta di tradizioni in relazione con i precetti religiosi islamici, in 18 *kitāb*, dal *k. aṭ-ṭahāra al k. al-ġāmi'*. Ambr. A 26 (RSO II 20) contiene 14

kitāb, ma il primo e l'ultimo sono gli stessi della presente copia; perciò, o la divisione del contenuto è diversa o quel ms. presenta una lacuna.

Br. G II 69, S II 73; da aggiungere Garr. 2034,7., Wien Gl. 148. Sarkīs 78; Munaggid 28.1.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة... اما بعد فهذا مختصر يشتمل على اصول الادلة الحديثية للاحكام الشرعية

Term.: واخرج الشيخان (عن) ابي هريرة رضى الله عنهما كلمتان خبيثتان الى الرجان خفيفتان على الانسان ثقيلتان في الميزان

Senza data. Senza nome di copista.

352 (Rossi 51)

Sec. XII-XIII/XVIII-XIX; 0,217 × 0,160 ca.; ff. 151 di numero svariato di righe; *nashī* di mani diverse, con rubriche in rosso; ff. 55-108 r inquadri; ff. 1 r, 8 r, 17 v, 18, 19 r, 111 v, 150, 151 vac.; f. 141 con il margine laterale tagliato; rileg. orientale moderna, in tela e pelle, con risvolto.

¹ (ff. 1 v-5) Miscellanea contenente: (f. 1 v) *fā'ida* sul valore e l'efficacia della lettura di certi brani coranici, dell'imām a l - M a h d ī l i - d ī n A l l ā h 'Alī b. Muḥammad (v. n. 339¹⁶), copiata da un ms. autografo; (f. 2) versi sui mesi del calendario solare, da *Šubāt* a *Aylūl*: 6 ṭawil *ari* per *Šubāt*, 7 ṭawil *lā* per *Adār*, 7 ṭawil *d'ati* per *Nisān*, 5 ṭawil *aru* per *Ayyār*, 5 ṭawil *du* per *Ḥazīrān*, 8 ṭawil *bu* per *Tammūz*, 5 ṭawil *mu* per *Āb*, 5 ṭawil *bu* per *Aylūl*; (f. 3 r) *faṣl fī ma'rifat ṭulū' al-manāzil*; (f. 3 v) *Urġūza fī 'š-šuhūr ar-rūmiyya* (Br. S I 528), di N'a š w ā n b. Sa'id a l - Ḥ i m y a r ī (v. nn. 334⁹ 363³), accompagnata da un commento anonimo, prima intercalato ai versi, poi in margine; (f. 4 v) *abyāt fī 't-ṭālī' min an-nuġūm wa'l-ġārib wa'l-mutawassi' wa'l-mutawattid wa-tusammā 'l-awtād al-arba'a* (7 versi sarī' *ā'ihū*), 3 versi mnemonici per ricordare i mesi del calendario solare, 5 versi *fī 't-ṭālī' wa'l-ġārib*; (f. 5 r) ricette mediche; (f. 5 v) poesia raġaz *ami*, di 20 versi, sui momenti propizi per accostarsi alle donne: primo verso يا طالب العلم الاجل الاقدمي (f. 5 v) elogio, in prosa rimata, rivolto da 'Abdal-lāh b. Aḥmad aš-Šahārī a Aḥmad b. Muḥammad al-Maḥṭūrī.

² (ff. 6-17 r) *Šarḥ Kāfiya dī 'l-lubb fī uṣūl 'ilm aṭ-ṭibb* (var. *'ilm uṣūl aṭ-ṭibb*). Mutilo.

Autore: (Ġamāladdīn Abū 'Alī Muḥammad b. 'Umar) Baḥra q a l - Y a m a n ī (aš-Šihri) a l - Ḥ a ḍ r a m ī (m. 930/1524).

Commento alla *urğūza* di argomento medico dello stesso A. È diviso in: (f. 7r) *bāb fī tadbīr aṣ-ṣiḥḥa*, (f. 10r) *bāb fī ḥawāṣṣ al-ağdiyya wa'l-adwiya*, (f. 13v) *bāb fī 'l-'ilal al-ḥādīṭa bi-ziyāda 't-ṭabā'i' al-arba'*, che s'interrompe poco dopo l'inizio del *faṣl fī 'l-'ilal al-balğamiyya*.

Br. S II 555 e 1031 n. 40 (l'A. registrato in questo luogo dal Br. è lo stesso di quello di cui dà notizia in S II 554-555).

Inc., dopo la dossologia: اما بعد فهذا تعليق لطيف على نبذتي المنظومة في اصول الطب وهي تبصرة للمبتدئ وذكره للمنتصهي

La *Kāfiya* inc.: الحمد لله الحكيم القادر النافع الضار العزيز القاهر

Ultimo verso commentato: فما لضر من سواه كشف وانما على الطبيب الوصف
F. 19r contiene indicazioni astrologiche.

³ (ff. 20-22v) *Manzūmat al-asmā' al-ḥusnā*, di 94 versi ṭawīl *āhu*.

È stata identificata con quella contenuta in Ambr. 84 IV ff. 63b-65 (= Cat. 64, *RSO* III 74), che incomincia con il 3° verso della presente copia e conta solo 73 versi; è inoltre identica a Rabat² 1310, dove l'A. è detto Muḥammad b. Abī Sa'id (?). Non identificato l'A.; poesie omonime, ma diverse, composero al-Muqri' (Br. S II 255), al-Aḥḍarī (Br. G II 356), 'Abdalğani an-Nābulusī (Br. G II 345, S N II 476), al-Bakrī aṣ-Ṣiddīqī (Br. G II 350), ad-Dimyāṭī (Br. S II 361 n.). Resta la possibilità della identificazione con 'Abdalqādir al-Ġilī (m. 561/1167; Br. S I 779), la cui composizione omonima è citata con il solo titolo in *Izvestija Ross. Akad. Nauk* VI, 1917, p. 922; sempre che non si tratti di un altro A. ancora. Comunque, la datazione di Ambr. 84 IV (ca. 880/1475) ammette l'identificazione supposta.

Inc.: ايا طيب الاسماء يا من هو الله ومن لا يسمى ذلك الاسم الا هو

ايا حسن الاوصاف يا حسن الثنا ويا بحسنا عم الانام بحسناه

Term.: وما ناطق قد قمال طالب فضلها وكررها ايضا مع حسبي الله

⁴ (ff. 22v-26) *Hirz al-aqsām*.

Autore: A b ū M a d y a n Šu'ayb Abū (sic) 'l-Ḥusayn al-Fāqī (al-Fāsī?) al-Anṣārī.

Poesia apotropaica, che utilizza l'efficacia dei nomi divini. Nella presente redazione conta 128 versi, ṭawīl *ri*, ma negli altri mss. (da aggiungere Garr. 2035, 5; Rabat² 1198) tale numero varia di molto (Berl. 3895 ne ha 220). I mss. sono discordi anche per quanto riguarda l'A., alcuni attribuendo l'op. a Muḥriz b. Ḥalaf b. Ṭābit, non meglio identificato. La doppia attribuzione, oltre a un errore di lettura, ha fuorviato il Br., che in S II 1009 ha registrato un *Hirz al-aqsām*, con autore Muḥriz b. Ḥalaf, mentre in S I 785

ha elencato un *Ḥizb al-aqsām* tra le opere di al-Ġawṭ A b ū M a d y a n Šu'ayb b. al-Ḥasan al-Anṣārī at-Tilimsānī (m. 594/1198, secondo Ziriklī III 244, o 589/1193, secondo Kahhāla IV 302). Il presente ms. segue questa seconda attribuzione, con qualche variante nel nome dell'A.

Primo verso: بدأت باسم الله في اول السطر فاسماؤه حصن منيع من الضر

Ultimo verso: وصلي على جوع النبيين كلهم صلوة وتسليما تدوم مع الدهر

Senza data. Copista: Muḥammad b. Aḥmad b. Hāšim b. Ibrāhīm aš-Šahārī.

⁵ (ff. 26v-29) Raccolta di preghiere usate dal Profeta e da 'Alī (l'ultima e la più lunga è *ad-du'ā'*, 'alā 'bnihī al-Ḥasan b. 'Alī), estratta da *Mahāsīn al-azhār*, da identificare probabilmente con *Mahāsīn al-azhār fī 'faḍl manāqib al-'itra al-athār* (Br. S I 560 e S N I 560, che cita un solo ms., BMS 537, dat. 761/1360; da aggiungere Vat. V. 1111⁴, che ne contiene un frammento), di Ḥusāmaddīn Abū 'Abdallāh Ḥumayd b. Aḥmad al-Maḥallī (v. n. 314¹).

⁶ (ff. 30-38r) *Dikr ḥadīṭ al-mi'rāğ 'an an-nabī*.

Autore: Abū 'l-Ḥasan al-Bakrī, indubbiamente Abū 'l-Ḥasan Aḥmad b. 'Abdallāh al-Bakrī, vissuto nel sec. III/IX: Br. S I 616; inoltre cf. Borg. ar. 126 (G. Levi Della Vida, *Elenco*, p. 258) e G. Levi Della Vida, *Manoscritti arabi di origine spagnola nella Biblioteca Vaticana*, p. 23, in *Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda*, II 153 (Studi e Testi 220); Paris 1931⁶ contiene un suo *k. al-Mi'rāğ*, di ampiezza doppia rispetto al presente scritto.

Inc.: قال ابو الحسن البكري... قال حدثنا احمد بن فهدى بن سليمان المقرئ قال اتانا الشيخ ابو القاسم بن هبة الله بن رفعة الله... قال ابو الحسن والفت ذلك من الناظم با حسن وقرب وتركت ما عجز وغرب قالوا جيعا ان رسول الله صلعم قال قال فلما اتت القافلة حدثوهم بذلك وقالوا صدق رسول الله صلعم ثم حديث المعراج الذي انتهى اليينا

Dat. 6 ša'bān 1199 (1785). Copista: al-Hādī b. Sa'id b. 'Alī b. Ġābir as-Su-kayn at-Tihāmī.

⁷ (ff. 38r-39) Tre qaṣīde, attribuite da una nota al f. 38r al « sultano ottomano » (forse Aḥmad III, che regnò dal 1703 al 1730, e compose poesie; cf. E. J. W. Gibb, *History of ottoman poetry*, IV p. 111),

La prima, di 38 versi basīṭ *āru*.

Inc.: ما بال عينك منها الدمع مدرار كأنها فيضها في الخد انهار

Term.: فما لمفخرنا حد يصير له وكل شيء له حد ومقدار

La seconda, di 29 versi ramal *am* (scritti, parte sul f. 38v e parte sul f. 39v).

Inc.: إذا من راية في وجد وهم وغرام وسقام والم
 Term.: عن معالينا و عن احسابنا ووفانا (lac.) والهمم

La terza, di 29 versi ramal *aq.*

Inc.: ارتق العين خيال قد طرق عجز الليل وعرنين...
 Term.: ولقد كبسُم عن ذي الشُر مشرق مثل الجمان المتسَّق

F. 40 contiene versi e frasi di omaggio rivolte all'imām al-Manṣūr li-dīn Allāh, non meglio specificato.

⁸ (ff. 41-48) *Lāmiyya* (altri titoli: *Waṣiyya*, *Naṣiḥat al-iḥwān wa-muršidat al-ḥullān*).

Autore: Z a y n a d d ī n (Abū Ḥaṣṣ) 'Umar b. al-Muẓaffar b. 'Umar b. Muḥammad b. Abī 'l-Fawāris Ibn al-Wardī. V. n. 344².

Poemetto parenetico, indirizzato al figlio. Nella presente redazione conta 63 versi (anziché 77) ed è accompagnato da un commento che è diverso da quelli citati dal Br., per quanto si son potuti controllare e che sembra, a quanto si legge nel colofone, parte di un commento più diffuso. Precede una breve *muqaddima*, contenente un elenco delle opere dell'A. fra le quali *al-Muqaddima fī 'n-naḥw*, compendio in versi commentato di *Muḥat al-i'rāb* (n. 344²), di Abū Muḥammad al-Qāsim b. 'Alī al-Ḥarīrī; tale op. è citata in Berl. 6513 n. 12, ma non dal Br.

Br. G II 140, S II 174; da aggiungere Garr. 2003,23; Šibīn al-Kōm 85,2 (RIMA 274); Rabat² 1831; Bagdad Awqāf 3323,5; Cairo³ III 164; Leeds 241,3; Sarkīs 285.

Primo verso: اعترل ذكر الاغاني والغزل وقل الفضل وجانب من هزل

Ultimo verso: كل اهل العصر عمر وانا منهم فانترك تفاصيل الجمل

Il commento inc.: اعترل فعل امر فاعله ضمير المخاطب وذكر بالكسرة الحفظ للشيء كالذكر

Term.: وقد تفنن الشيخ ربه في هذه القصيدة وأبدى فيها من الحكم والوصايا ما سمعت وما رأيت وقد جعلت من لفظ شرحها هذه الطائفة من الكلام وهي مفيدة... وتركت الشرح بجيعه لقصر الهمم ونسأل الله أن يوفقنا

Dat. 13 šafar 1267 (1850). Copista: Muḥammad b. Aḥmad b. Hāšim b. Ibrāhīm aš-Šahārī.

⁹ (ff. 49-54) Miscellanea contenente: (f. 49) formule di dossologia; (f. 50 r) *fā'ida* sulle quattro stagioni; (f. 50 v-51 r) *fā'ida* contenente l'elenco delle 30 questioni (*at-talātūn al-mas'ala*) della teologia zaidita, con osservazioni sulle

differenze tra la teologia mu'tazilita e quella aš'arita (copista: Muḥammad b. Yaḥyā b. Ibrāhīm aš-Šahārī, che avverte di avere copiato da uno scritto del nonno Ibrāhīm b. Muḥammad b. Ibrāhīm aš-Šahārī); (f. 51 v) *ḥadīṭ* su al-Muẓaffar al-Marwazī il predicatore (*al-wā'iṣ*), con alcuni suoi versi, riportato da *Ma'āhid at-tanṣiṣ* (*fī šarḥ Šawāhid at-Talḥiṣ*), di 'Abdarraḥīm b. 'Abdarraḥmān al-Qāhirī 'l-'A b b ā s ī (m. 963/1556: Br. S II 394; Kaḥḥāla V 205); (f. 52 r) *fā'ida fī 'ilm wa-tālibihī*, riportata da uno scritto di Ba d ī ' a z z a m ā n (Aḥmad b. al-Ḥusayn b. Yaḥyā) al-H a m a d ā n ī (m. 398/1007: Br. G I 93-95, S I 150-152), *fā'ida fī 'l-'ilm*, da un k. *al-Farā'id* non identificabile, *bāb fī ma'rifat al-falak ad-dawwār*; (f. 52 v-54) breve scritto grammaticale, presentato come *tartīb 'aḡīb fihī amwā' al-marfū'āt wa'l-marṣūbat wa'l-maḡrūrāt wa't-tawābi' al-ḥamsa wa'l-ḡumliyya al-ismiyya wa'l-fi'liyya wa-ḡayrihimā wa'l-qawā'id an-naḥwiyya*; è nominato subito dopo, come se fosse in rapporto con lo scritto, Šarafaddīn al-Ḥuwārizmī, ma non si tratta di Abū 'Abdallāh Muḥammad b. Aḥmad b. Yūsuf al-Ḥ u w ā r i z m ī (sec. IV/X: Br. G I 244, S I 434), poiché il *bāb fī 'n-naḥw* della sua enciclopedia *Miftāḥ al-'ulūm*, ed. G. van Vloten, Lugd. Bat. 1895, pp. 41-53, è diverso; (f. 54 v) versi, di cui due su 'Abdallāh b. 'Abbās.

¹⁰ (ff. 55-108) *at-Tuhfa al-ḡāmi'a li-mufradāt at-tibb an-nāfi'a*.

Autore: 'Imādaddīn (Abū Zakariyyā) Yaḥyā b. Abī Bakr b. Muḥammad al-'Ā m i r ī (m. 893/1488; Kaḥḥāla XIII 187).

Trattato di terapia generale. Per il contenuto, cf. Berl. 6325. È diviso in: (f. 55 v) *muqaddima*, in 8 *faṣl*; (f. 65 v) *al-qism al-awwal fī amrād ar-ra's*; (f. 89 v) *al-qism at-tānī fī awḡā' al-'amma*.

Br. S II 226; da aggiungere Berl. 6325.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله خالق الاجسام وما يعرض من الآلام... وبعد فان علم الطب ضروري يشهد بصحته العقل والنقل

Term.: وقال صلعم من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة تم

Dat. ḡumādā I 1285 (1868). Copista: Ḥasan b. Hāšim aš-Šahārī.

¹¹ (ff. 108 v-111 r) Miscellanea contenente: (f. 108 v) talismano contro il malocchio, che sarebbe stato insegnato a Maometto dall'angelo Gabriele; (f. 109 r) i versi appartenenti ad *al-Maqāma al-baṣriyya*, di Abū Muḥammad al-Qāsim b. 'Alī al-Ḥarīrī (v. n. 344²) (*Les Séances de Ḥarīrī*, ed. S. de Sacy, Paris 1822, pp. 681-685); (f. 109 v) 12 versi *kāmil lā*, di Muḥaddabaddīn (Abū 'l-Ḥusayn Aḥmad) Ibn Munīr (aṭ-Ṭarābulusī ar-Raffā) (m. 548/1135: Br. G I 256, S I 455), non appartenenti però ad *al-Qaṣida at-tatarīyya*, la più nota delle sue poesie; altri versi, di anonimo; (f. 110 r) *faṣl aš-šitā'*, *faṣl ar-rabī'*; (f. 110 v) *Šarḥ iḥtilāḡ al-a'dā' al-kulliyya min ḡasad*

al-insān, ta'rif Malik ar-Rūm: sono due tavole per trarre presagi dalle palpitazioni nervose dei vari membri del corpo, la prima riguardante il lato destro, la seconda il sinistro, simili, se non identiche, a quelle di Berl. 4261; quanto al *Malik ar-Rūm*, si tratta certamente di al-Iskandar (Alessandro Magno).

¹² (ff. 112-122) Estratto da un *k. at-Taḍkira* o, più precisamente, da un *k. ad-Daḡā'iq fī ṭalab aṣ-ṣan'a*, forse una parte del *k. at-Taḍkira*, che è detto di ignoto A. ed è attribuito agli « antichi sapienti ». Tratta di alchimia e, in minor misura, di botanica.

Inc., dopo la *basmala*: قال في الكتاب المنقول من بعد ان سماه كتاب التذكرة ولم يذكر مؤلفه قال وهي من تأليف الحكماء الاولين وهي في المعدنية والنبات

Term.: والمشهور انه اذا ما ملئ به شيء وادخل في النار لم يترق انتهى من ما لا يسع كذا ذكر في الام

¹³ (ff. 123-149) Centone di rimedi magici contro varie malattie, acefalo e mutilo. Dal f. 132 v tratta dell'efficacia magica delle sūre del Corano, interrompendosi alla sūra 105.

353 (Rossi 52)

Sec. XIII/XIX; 0,220 × 0,160; ff. 267 di 21 righe ca.; *nashī* con alcune rubriche in rosso; ff. 1 v, 2, 3, 4, 264, 267 vac.; rileg. orientale.

Daf' at-malām 'an qāri' Qaṭr Ibn Hiṣām.

Autore: (Walīallāh) Muḥammad b. 'Uṭmān (b. Muhammad) al-Mīr ḡānī (m. 1268/1851: Br. G II 489, S II 809-810).

Commento a *Qaṭr an-nadā wa-ball aṣ-ṣadā*, (Br. G II 23, S II 16), di Ġamāl-addīn Abū Muḥammad 'Abdallāh b. Yūsuf Ibn Hiṣām (m. 761/1360), che completa il commento alla medesima op. di Muḥammad b. 'Abdarrahmān b. Sulaymān Maqbūl al-Ahdal (m. 1258/1842 o 1260/1844: Zabāra II 283 n. 458), il quale era arrivato fino al *bāb al-mandūb*. L'op. non è citata nei repertori.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي رفع وخفض ونصب الادلة على وحدانيته... وبعد فيقول الفقير الى مولاه الغني محمد بن عثمان الميرغاني الحسيني الحسيني عامله الله بلطفه السنوي هذه حواشي على شرح القطر لمصنفه جعلتها في الاصل تكميما لحاشية شيخ الاسلام العلامة السيد محمد بن السيد عبد الرحمان بن سليمان مقبول الاهل

Term.: حتى قيل من لم ينظر في القطر فلا حظ له في العريية ولا قدر انتهى لجموني وليكن هذا آخر الغرض المقصود من تكملة هذه الحاشية جعله الله خالصا لوجهه الكريم وسببا للغوز برضوانه العميم في الدنيا ودار النعيم

Senza data. Senza nome di copista.

354 (Rossi 53)

Dat. rabī' I 1149 (1736) (data d'inizio della copiatura); 0,225 × 0,162, tranne gli ultimi due fogli, di misura inferiore; ff. 379 di 27-30 righe ca.; *nashī* molto fitto, con rubriche in rosso; molte note marginali; f. 250 non appartiene al codice, ma è stato intercalato e contiene note; tra f. 264 e f. 265 foglietto volante; rileg. orientale con impressioni a freddo e risvolto.

(*Raf' al-ḥafā 'an dāt aṣ-Ṣifā*).

Autore: 'Alī b. Sulṭān Muḥammad al-Qāri' (al-Harawī) (m. 1014/1605).

Commento ad *aṣ-Ṣifā fī ta'rif huḡūq al-Muṣṭafā* (Br. G I 369, S I 631; Sarkīs 1397), sui doveri dei Musulmani verso il Profeta, di Abū 'I-Faḍl 'Iyāḍ b. Mūsā b. 'Iyāḍ al-Yaḥṣubī (m. 544/1149). Si tratta, in realtà, soltanto della parte (mutila) corrispondente al 1° *qism*, diviso in 4 *bāb*, di *aṣ-Ṣifā* (per il contenuto dell'op., cf. Berl. 2559); l'ultima sezione è (f. 379 v) *faṣl fī ḡumla min awṣāfihi*.

Br. G I 369, S I 631; Sarkīs 1792.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي انزل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورجة للمؤمنين... اما بعد فيقول افقر العباد الى كرم ربه البارئ عبي بن سلطان محمد القارئ لما رأيت كتاب الشفاء في شمائل اصحاب الاصطفاء... قصدت ان اخدمه بشرح بعض ما يتعلق به من تحقيق الاعراب والبناء قال الفقيه القاضي الامام الحافظ ابو الفضل عياض رحمة الحمد لله المنفرد باسمه الاسمي المختص بالملك الاجى... اما بعد اشرك الله قلبي وقلبك بانوار اليقين

355 (Rossi 54)

Busta, legata in una custodia di cartone, contenente, oltre ad una ventina di fogli sciolti, 50 fogli di formato 0,195 × 0,145, scritti in *nashī* antico, non numerati e in pessimo stato di conservazione.

Appartengono a un trattatello, non identificabile e anonimo, sull'efficacia magica dei nomi divini, di certe lettere che si trovano nel Corano ecc. Vi si possono individuare i seguenti *faṣl*, la cui reale successione potrebbe però

essere diversa dall'ordine in cui sono elencati e che corrisponde all'ordine in cui si trovano i fogli: *faṣl wa-hādā 'd-du'ā' bawwaba 'alayhi Muḥammad b. Idrīs ar-Rāzī* (m. 277/890: *Kaḥḥāla IX 35*) *fī kitābihi 'l-kaṭīr al-asmā'*; *f. wa-min du'ā' ba'd al-awliyā'*; *f. adkur fihi ba'd asrār ḥawāṣṣ al-ḥurūf al-mu'ğama 'llātī fī awā'il as-suwar*; *f. al-ḥurūf 'alā 'l-qismayn manqūṭ it-nayn wa-manqūṭ ṭalāṭa*; *f. i'lam anna 'l-awliyā' takallamū fī 'ilm al-ḥurūf wa'l-asmā'*; *f. wa-li-kull ḥarf min hādā (sic) 'l-ḥurūf al-arba'a 'ašara 'llātī fī awā'il as-suwar ma'nā wa-sirr*; *f. wa'l-ilm bi-smi 'llāh al-a'ğam min ašraf al-'ulūm wa'l-ism al-a'ğam lu'lu' maknūn*; *f. minhu aḥar wa-huwa 'l-ism allādī kāna 'Isā yuḥyī bihi 'l-mawtā*; *f. fī dīkr an-niṣf at-tānī min al-'amal wa-huwa 'llādī yusammūnahu 't-tarkīb*; *f. wa-'lam anna umm al-Qur'ān hiya 's-šāfiya*; *f. awwal yawm ḥalağahu 'llāh yawm al-aḥad*; seguono altri 6 *faṣl* simili, uno per ciascun giorno della settimana; *f. wa-hādīhi ṣifat al-'amal bi-mā tağaddama min dīkr umm al-Qur'ān wa'l-asmā' al-kirām*; *f. fī bayān al-aškāl as-sab'a 'llātī ruwiya fihā annahā 'smu 'llāh al-a'ğam*; *f. fī umm al-Qur'ān (lac.) itnā 'ašara rasm^{an}*; *f. wa-qāla ba'd al-awliyā' man arāda an yazḥur lahu 'l-ağā'ib . . .*; *f. wa-mā ḥarrağahu 'l-imām Abū 'Abdallāh Muḥammad b. Idrīs ar-Rāzī mim mā 'staḥsanahu min ḥizānat Hārūn ar-Rašīd*; *f. i'lam anna 'd-du'ā' miṣṭāḥ al-ḥāğā*; *f. adkur fihi 't-tarīq al-ḥālī wa-huwa tuğarrīd an-naṣf wa-tu'alliğuhā*; *f. atakallam fihi min ayn tarğūḥ kalima lā ilāh illā 'llāh sā'ir al-kalimāt*; *f. i'lam anna ḥağiqat aš-šahāda bi't-tawḥīd mā šahida 'l-Ḥağq bi-naṣsihi li-naṣsihi*; *f. wa-'lam anna 'l-āyāt allātī hiya āy al-Qur'ān tatağamman sitt ṣifāt*; *f. 'alāma man 'arafa 'llāh ḥağq ma'rifa*; *f. idā aradta an yazḥur laka lawā'ih ma'ālimika*; *f. qā'idat at-taḥqīq laysa illā sāğat at-tawfiğ*; *f. uḥluğ bi-naṣsika kaṭīr^{an} wa-'hla' badanaka ḥāliyy^{an}*; *f. ruwiya 'an Sulaymān annahu qāla man dahhamahu amr fa-l-yusbiğ al-wuḍū'*; *f. wa-man aḥammahu amr . . . an yatataḥḥar 'ind al-mağrib min laylat al-ğum'a*; *f. wa-aḥrağā 'l-imām Abū 'Isā 't-Tirmidī* (m. 279/892: *Br. 161, S I 267*) . . .; *f. du'ā' aḥar li-qaḍā' al-ḥāğā*; *f. su'ila 'Alī bi-baṭn (?) bāb Madīna*; *f. wa-dukira anna ḥādīhi 'l-asmā' kānat fī ṭawq hullat Sulaymān*; *f. ruwiya annahā ḥādīhi wa-hiya min an-nūr al-muḍī'*; *f. wa-qāla innā ḥatīm Sulaymān*.

356 (Ansaldi 1)*

Sec. XIV/XX; 0,235 × 0,173; ff. 160 di 16 righe ca.; *naṣḥ* chiaro e regolare; scarse note marginali (perlopiù annotazioni di date); *f. i v* vac.; nel frontespizio, il titolo con la trascrizione

* I mss. Ansaldi: I-3, 5-8 (356-358, 360¹-363³ del presente catalogo) servirono al loro antico possessore come fonte dell'op. *Il Yemen ecc.* (cf. p. V, n. 1), dove sono elencati alle pp. 259-260 nell'ordine seguente: I = 3 (358), II = 7 (362), III = 8 (363³), IV =

zione e la traduzione italiana; numerazione araba delle pagine; rileg. orientale in pelle, con impressioni a freddo e risvolto.

Gāmi' al-mutūn fī aḥbār al-Yaman al-maymūn.

Autore: (Faḥraddīn) 'Abdallāh b. 'Alī (b. Aḥmad) b. Muḥammad b. 'Abdallāh ('Abdallāh, 'Abdal'āl) b. Aḥmad b. 'Abdallāh b. Aḥmad b. Ibrāhīm I b n a l - W a z ī r (E. Griffini, a proposito di Ambr. 365, riporta una genealogia apparentemente diversa, accolta in *Br. S II 544*: 'Abdallāh b. 'Alī b. Yaḥyā b. al-Qāsim b. Yūsuf b. Yaḥyā; in realtà, si tratta soltanto di una serie più remota di antenati, scelti perché più illustri; cf. *Šawkānī I 388 n. 173*. Da ricordare, inoltre, che *Br. G II 281.57 = G II 399.8*). V. n. 325.

Succinta biografia del Profeta e storia, perlopiù annalistica, del Yemen da Maometto alla morte dell'imām al-Manšūr al-Qāsim b. Muḥammad (1029/1620). L'op. è citata soltanto da *Šawkānī I 390 nota 1*, che la dice rielaborazione di *Anbā' (abnā') az-zaman fī aḥbār* (var. *ta'rīḥ*) *al-Yaman* (conservata, oltre che in *Berl. 9745* è in *Cairo² V 39*, anche in *Cairo³ I 79*), della quale però è A., non Yaḥyā b. al-Ḥusayn b. al-Mu'ayyad bi-'llāh Muḥammad b. al-Qāsim (m. 1090/1679), come indica *Br. G II 403, S II 551-552*, seguendo l'attribuzione evidentemente inesatta di *Berl. 9745*, ma Yaḥyā b. al-Ḥusayn b. al-Qāsim b. Muḥammad (v. n. 327²; cf. *Šawkānī II 329 nota 1 e I 390 nota 1*; *Kaḥḥāla XIII 192*). Come sembra di intendere dal colofone, l'op. è divisa in due *ğuz*, ma questa divisione non appare nel testo, che presenta solamente la suddivisione in 13 *bāb*, l'ultimo dei quali è indicato nell'indice della materia che precede il testo, ma non si ritrova a suo luogo. I *bāb* hanno i seguenti titoli: (f. 2 r) *fī fātīḥa 'l-kitāb wa-dībāğā 'l-ḥitāb*; (f. 9 v) *fī 'd-dawla an-nabawiyya*; (f. 11 v) *fī 'd-dawla al-umawiyya*; (f. 13 v) *fī 'd-dawla al-'ab-bāsiyya*; (f. 18 v) *fī 'd-dawla al-ya'furiyya*; (f. 19 v) *fī 'd-dawla al-qarmatiyya*; (f. 23 r) *fī 'd-dawla aš-šulayḥiyya*; (f. 27 v) *fī 'd-dawla al-ḥamdāniyya*; (f. 31 v) *fī 'd-dawla al-ayyūbiyya*; (f. 39 r) *fī 'd-dawla al-ğassāniyya ar-rasūliyya*; (f. 55 v) *fī 'd-dawla at-tāhiriyya*; (f. 67 v) *fī 'd-dawla al-yaḥyawiyya*; (f. 107 r) (*fī-mā waqā'a ba'd al-imām Šarafaddīn min al-iḥtilāf bayna awlādīhi wa-'stilā' al-Atrāk*).

Inc., dopo la dossologia: *وليلوح روائح هذا الكتاب وانواره وبدرة بتواريخ اليمن*
وسميتة . . . الباب الاول الذي هو فاتحة الكتاب وديباجة الخطاب وبعيا هذه الابواب
في نبذة يسيرة من سيرة سلطان الانبياء وامام الاولياء
وفي رمضان وصلت تشريفات لمولانا الوزير من الحضرة وسيف عظيم يقطع به

5 (360¹), V = 1 (356), VI = 6 (361), VII = 2 (357). Manca il ms. 4 (359), che per contenuto è molto vicino a 2 (357).

اعناق الفجيرة حفظه الله المرسل والمرسل اليه بحق الكرام البررة وفي اواخر العشرين ذي القعدة شرعت الاسعار ترخص نسأل الله تعالى ان يرحم العباد ويوسع الخير ويدفع الضرر والى هنا انتهى الجزء الثاني من كتاب تاريخ اليمن الميمون

Senza data. Senza nome di copista.

357 (Ansaldi 2)

Sec. XIV/XX; 0,230 × 0,170; ff. 6, non numerati, di 21 righe; *nashī* con rubriche in rosso; nel frontespizio, il titolo con la trascrizione e la traduzione italiana, oltre a due versi in lode dell'op.; 5 fogli bianchi precedono il testo e altri 7 lo seguono; rileg. orientale in pelle, con impressioni a freddo e risolto.

Rawḍat al-maḡālīs fī qīṣaṣ al-mulūk an-nafā'is.

Autore: 'Alī b. 'Alī as-Sawādī (m. 1316/1898; Ziriklī V 130; Kaḥḥāla VII 153).

Contiene la leggenda di Salomone e della regina dei Saba' (*Cor.* XXVII, 20-44), seguita dal racconto del modo con cui Bilqīs divenne regina e Salomone successe a Davide. Il titolo è probabilmente quello di un'op. più vasta, di cui questo è soltanto un estratto.

Inc., dopo la *basmala*: قصة النبي سليمان بن داود عم مع بلقيس والهدهد وسبب تملكها اليمن ومساائل علامة خلافته

Term.: قالوا ما الشيء الذي اذا صلح صلح من الانسان كل شيء واذا فسد فسد كل شيء قال هو القلب قالوا صدقت الت الخليفة من بعد

Senza data. Senza nome di copista.

358 (Ansaldi 3)

Dat. 19 raḡab 1350 (1931); 0,236 × 0,175; ff. 72 di 17-19 righe, inquadri a matita; *nashī* chiaro e regolare, con rubriche in rosso, verde e azzurro; pochissime note marginali, scritte anche in rosso e verde; f. 72 v vac.; trascrizione e traduzione italiana del frontespizio nel foglio preliminare; rileg. orientale in pelle, con impressioni a freddo e risolto.

Ta'rīḥ az-zamān wa-sabab tafarruq an-nās fī 'l-buldān min ladun Nūḥ... ba'd at-tufān ilā sīrat sayyid walad 'Adnān.

Autore: (Badraddīn) Muḥammad b. Ismā'il b. Muḥammad b. Yaḥyā b. Aḥmad al-Kibsi. V. nn. 339² 362 364.

Epitome di storia universale, con particolare riguardo al Yemen preislamico, e biografia di Maometto, con particolare riguardo ai *maḡāzī*. Nell'intro-

duzione, l'A. dice di averla scritta per desiderio di Muḥammad 'Izzet (governatore ottomano del Yemen dal 1299/1882 al 1302/1885; cf. al-Wāsi'i, *Ta'rīḥ*, p. 120), raccogliendo quanto ricordava, ed insiste sul suo carattere compendioso, per avere attinto il materiale ad opere storiche diverse. Contiene: (f. 2 r) *ḍikr tafarruq an-nās fī 'l-buldān*; (f. 3 v) *mulūk Ḥimyar*; (f. 20 v) *al-mulūk as-sābiqīn fī 'l-a'sur al-ūlā: al-Furs*, (f. 22 r) *al-Iskandar*, (f. 22 v) *mulūk Banī Sāsān*, (f. 29 r) *mulūk al-Yūnān*; (f. 30 v) *nubḍa min al-mulūk al-awā'il... Nu'mān b. Ḥām... Nimrūd b. Kan'an... Nimrūd al-ašḡar... mulūk al-Qayāsira... al-Farā'ina... mulūk al-Amāliqa... mulūk Kinda... mulūk al-Ḥadra*; (f. 41 v) *sīrat sayyid al-bašar*: (f. 42 v) *al-ḥiḡra aš-šūḡrā*, (f. 45 v) *al-ḥiḡra al-kubrā* (f. 49 r), *ḡazwat Bādr... ḡ. Kudr... ḡ. Uḥud... ḡ. al-ḥandaq... ḡ. Banī Qurayza... ḡ. Ḥaybar... 'umrat al-qaḍā'... ḡ. Mu'ta... ḡ. al-faḥ... ḡ. Ḥunayn... ḡ. at-Tā'if... ḡ. Tabūk*, (f. 70 r) *ḥaḡḡat al-waddā'*.

Br. S II 818: citata soltanto la presente copia; da aggiungere Cairo³ I 119 (dat. 1364/1944).

Inc., dopo la dossologia: اما بعد فانا لما وصلني كتاب كريم ومهرق مقابل بالاجلال والتعظيم من تلقاء صاحب السعادة... والي ولاية الديار اليمنية... اخدينا محمد عزة... طالبا مني تعريفه بشيء من رسم التواريخ القديمة... فما وسعني الا مقابلة امره بالامثال (بالامثال 1. sic.)

Term. con i versi: لا يحسن التأريخ فيمن نقل الا اذا جاء بما لم يقبل اما الذي قد قيل من قبله فانما ينسخ ما قد حصل

Copista: Yaḥyā b. 'Alī b. Ḥumayd (?) al-Ānisī.

359 (Ansaldi 4)

Dat. 11 dū 'l-qa'da 1349 (1931); 0,233 × 0,170; ff. 39 di 18 righe; *nashī* chiaro e regolare; alcune rubriche in rosso, specialmente nei primi e negli ultimi fogli; trascrizione e traduzione italiana del frontespizio nel foglio preliminare; rileg. orientale in pelle, con impressioni a freddo e risolto.

Qīṣṣat nabī 'Ulāh Sulaymān b. Dāwūd... wa-Bilqīs malika Saba'.

Autore: Abū Ishāq Aḥmad b. Muḥammad b. Ibrāhīm al-Tā'ibī (m. 427/1035; Br. G I 350-351, S I 592).

Si tratta di una sezione di *Nafā'is al-'arā'is wa-yawāqīt at-tiḡān fī (taf-sīr) qīṣaṣ al-Qur'ān (bi's-šarḥ wa'l-bayān)* (altro tit. '*Arā'is al-maḡālīs fī qīṣaṣ al-anbiyā'*). Il ms. contiene, però, più di quanto indica il titolo, che è la leggenda di Salomone e della regina dei Saba' (ff. 18 r-30 v), e cioè: (ff.

1 v-18 r) la storia di Salomone, altra sezione della stessa op. (cf. la descrizione delle *Nafā'is* in Bodl. II 44), e (ff. 30 v-39 v) una serie di *ḥadīṭ* riportati, come si legge nel colofone, da *k. Bad'* (*Ḥalq ad-dunyā wa-qīṣaṣ al-anbiyā'*, di Abū Bakr Muḥammad b. 'Abdallāh al-Kisā'ī (sec. IV-V/X-XI: Br. G I 350, S. I 591-592). Tale appendice esisteva già nel ms. delle *Nafā'is*, da cui deriva questa copia parziale e che, come informa sempre il colofone, era datato 1 ṣafar 1051 (1641) ed era stato copiato per Muḥammad b. Aḥmad al-Ġalāl.

Il ms. è così diviso: (f. 1 v) *bāb fī qīṣaṣ ḥurūġ ibn Dāwūd 'alā abīhi*; (f. 2 r) *b. fī qīṣaṣ aṣḥāb as-sabt*; (f. 3 r) *b. fī qīṣaṣ Dāwūd wa-Sulaymān lammā ḥakamā fī 'l-ḥarī*; (f. 3 v) *b. fī qīṣaṣ istiḥlāf Dāwūd ibnahu Sulaymān*; (f. 5 r) *b. fī ḍikr wafāt Dāwūd*, *b. fī qīṣaṣ ḥilāfat Sulaymān*; (f. 5 v) *b. fī ṣifatihi*, *b. fī-mā ḥaṣṣa 'llāh nabīyyahu Sulaymān ḥīna mallakahu*; (f. 7 v) *qīṣaṣ wādī 'n-naml*; (f. 9 r) *qīṣaṣ al-'anqā' fī 'l-qaḍā' wa'l-qadar*; (f. 14 r) *qīṣaṣ madīna Sulaymān allātī kānat yusāfir bihā fī 'l-ḥawā'*; (f. 18 r) *b. fī qīṣaṣ Bilqīs malika Saba' wa'l-ḥudhud*; (f. 20 r) *b. ṣifat al-qaṣr allādī banathu Bilqīs*; (f. 26 r) *b. fī ġazwat Sulaymān li-abī Ġarada zarwġatihi*; (f. 29 r) *b. fī ḍikr wafāt Sulaymān* (f. 30 v) *ḥadīṭ rafīq Dāwūd*; (f. 32 v) *ḥ. ḥaṣr al-bu'ūd 'inda Sulaymān*; (f. 34 r) *ḥ. Mir'id az-zāhid*; (f. 34 v) *ḥ. an-nasr*; (f. 36 r) *ḥ. wādī 'l-qirada*; (f. 37 r) *ḥ. al-ġurāb ma'a Sulaymān*; (f. 37 v) *ḥ. wafāt Bilqīs*, *ḥ. al-maqbūd bi'l-Hind wa-ḥuwa bi's-Sām*; (f. 38 r) *ḥ. al-madīna al-'aẓīma*; (f. 38 v) *ḥ. al-madīna 'llātī fī 'l-maṣriq*; (f. 39 r) *ḥ. al-lu'lu' īn*, *ḥ. at-tinnīn al-muḥdiq bi'l-'ālam*.

Inc., dopo la *basmala*: باب في قصة خروج بن داوود على ابيه وما كان من امرهما قال وهب وغيره من اهل الكتب ان داوود لم يزل قائما بالملك بعد طالوت

Term.: ثم امر الربيع ان تحط بساطه على الارض المقدسة وكان مدة غيبتهم في ذلك مائة وثلاثون يوما

Copista: Ismā'il b. Aḥmad b. Ḥasan aṣ-Ṣiddīq.

360 (Ansaldi 5)

Sec. XIV/XX; 0,277 × 0,202; ff. 167 (apparentemente 166, perché dopo il f. 1 esiste un f. 1 bis), di 20-24 righe; *nashī* chiaro e regolare; in rosso il titolo al f. 1 e i titoli parziali; alcune note in calce, con richiamo dal testo, nei primi fogli; f. 1 v inquadrate; numerazione araba delle pagine fino a p. 248 (f. 123); trascrizione e traduzione italiana del titolo, nel foglio preliminare; rileg. orientale in pelle, con impressioni a freddo e risolto.

¹ (ff. 1-123) *Qurrat al-'uyūn bi-ta'rīḥ* (var. *bi-aḥbār*, *fī aḥbār*) *al-Yaman al-maymūn*. V. n. 372.

Autore: Waġihaddīn (Abū 'Abdallāh) 'Abdarrahmān b. 'Alī b. Muḥammad b. 'Umar aṣ-Ṣaybānī (a d - D a y b a ') (m. 944/1537: Kaḥḥāla V 159).

Il frontespizio aggiunge al nome dell'A. *mu'allif at-Taysīr fī 'ulūm al-ḥadīṭ*; cioè *Taysīr al-wuṣūl ilā Ḡāmi' al-uṣūl min ḥadīṭ* (var. *li-aḥādīṭ*) *ar-rasūl* (Br. G I 357 e II 401, S I 608).

Storia del Yemen da Maometto fino alla fine della dinastia dei Ṭāhiridi (923/1517). L'A. informa (f. 4 v) di avere seguito il *k. al-'Asġad*, di (Šams-addīn) Abū 'l-Ḥasan 'Alī b. al-Ḥasan (Ibn Wahhās) al-Ḥaẓraġī (m. 812/1409: Br. G II 184, S II 238), aggiungendovi il resto della storia della dinastia dei Rasūlidi, a partire da al-Malik an-Nāṣir Aḥmad b. Ismā'il (regnò dall'803/1400 all'827/1424), e la storia della dinastia dei Ṭāhiridi, che rivendica il merito di avere trattata per primo. Quanto al *k. al-'Asġad*, ne è stata proposta, forse a torto, l'identificazione (cf. BM 1474 e BMS 587) con *al-Kifāya wa'l-'lām fī-man waliya 'l-Yaman wa-sakanahā fī 'l-islām*, data l'analogia del contenuto; diversamente Br. S II 238, che cita un *k. al-'Asġad al-masbūk fī-man waliya 'l-Yaman min al-mulūk*, opera il cui titolo è dato per intero da Kaḥḥāla VII 62 come *k. al-'Asġad al-masbūk wa'z-zabarġad al-maḥkūk ilḥ*.

L'op., dopo l'introduzione e l'indice (f. 4 v) con riferimento alla numerazione araba delle pagine, è divisa in 3 *bāb*: (f. 6 v) *fī ḍikr al-Yaman wa-man malaka Ṣan'a' wa-'Adan*, in 10 *faṣl*; (f. 32 r) *fī ḍikr madīnat Zabīd wa-umarā'ihā wa-mulūkihā wa-wuzarā'ihā*, in 18 *faṣl*; (f. 92 r) *fī ḍikr al-ḥulafā' Banī Ṭāhir wa'l-maġd wa'l-mafāḥir*, in 3 *faṣl*. Per una descrizione più ampia del contenuto, cf. BM 1474 e BMS 587.

Br. G II 401, S II 549. Da aggiungere Yale 1303; Chester Beatty 3221, 4035, 1; Wien Gl. 170.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي خص قطر اليمن الميمون بالاسمان من سائر الاقطار... اما بعد فان علم التواريخ علم عظيم المقدر رفيع المنار

Term.: واظن ذلك هو سبب زوال دولته وما في يده ومدة خلافة آل طاهر جميعهم خمس وستون سنة

Dat. 27 ġumādā II 1325 (1907). Senza nome di copista.

² (ff. 124-166) *al-Iḥsān fī duḥūl mamlaka 'l-Yaman taḥta ḡill 'adāla Āl 'Ut-mān* (var. *ḡill ad-dawla al-'uṭmāniyya*; è curioso, però, che Br. dia il titolo con questa variante, mentre l'unico ms. che cita ha in realtà il titolo della presente copia).

Autore: (Šamsaddīn) 'Abdaṣṣamad b. Ismā'il b. 'Abdaṣṣamad al-Mawza'ī (in Br. al-Manzilī) (sec. X-XI/XVI-XVII).

Storia compendiosa, in senso filoottomano, del Yemen durante la dominazione ottomana (922-1045/1516-1626).

L'A. informa di avere continuato un'op. appena incominciata dal padre, poi morto, e di avere fornito notizie, in particolare, dei governatori di Ta'izz,

sua patria e sua giurisdizione come qāḍī. Precede (ff. 125 v-127 v) una breve rassegna dei primi sultani ottomani, da 'Uṭmān Gāzī (m. 726/1326) a 'Uṭmān II (m. 1032/1622). La materia è ordinata secondo la successione dei governatori ottomani, da Uways Pascià (952-954/1545-1547) a Qānsūh Pascià (1039-1045/1629-1635).

Br. S II 550: citato un solo altro ms., Paris 5973.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي حبيب الى عباده الايمان وكثرة اليهم الكفر والفسوق والعصيان... اما بعد فان اقليم اليمن المبارك اقليم يمن وامان

Term.: ومن ابتداء شهر ربيع الاول من سنة ١٠٤٥ الى سنة ١٢٦٥ صار ادارة ولاية اليمن من طرف اهله الى ان خرج الوزير توفيق باشا

Senza data, ma certamente contemporaneo dell'op. precedente. Senza nome di copista, ma apparentemente della stessa mano che l'op. precedente.

361 (Ansaldi 6)

Sec. XIV/XX; 0,240 × 0,180; ff. 40 di 18-20 righe ca.; *nashī* chiaro e regolare; rubriche in rosso solo al principio, sempre in rosso le cifre degli anni; nel frontespizio, il titolo con la trascrizione e la traduzione italiana; f. 40 v vac.; rileg. occidentale in mezza pelle, con fregi in oro sul dorso.

Ithāf dawī 'l-ḥīṭan bi-muhtaṣar Anbā' az-zaman. V. n. 365.

Autore: 'Abdalmalik b. Ḥusayn al-Ānisī (sec. XIV/XIX-XX).

Storia compendiosa, in forma annalistica, del Yemen dall'anno 1/622 al 1045/1635. L'A. informa di avere semplicemente riassunto *Anbā' az-zaman min ta'rīḥ* (var. *fī aḥbār*) *al-Yaman*, di Yaḥyà b. al-Ḥusayn b. al-Qāsim (v. n. 356). Il contenuto non presenta divisione alcuna; su di esso cf. C. A. Nallino, *Rend. Lincei*, s. VI, v. IX, pp. 682-684 (= *Scritti editi e inediti*, III 342-344).

Br. S II 552 e 821. Non sono noti altri mss.

Inc., dopo la *basmala*:... الحمد لله المحيط بكل شيء علما المحصي لكل شيء عددا... وبعد فاني رأيت تقاصر همم الاثراب من الطلاب واشتغلوا بالدنيا التي هي كالسراب والقصد بذلك على جهة الاختصار والّا فقد صارت محررة مدونة في مؤلفات العلماء الاخيار والله المسؤول ان يجدد رسوم تلك الموارد بمن اختاره من اهل هذا البيت بدم شعث الاحياء ويحيي مقام الاولى الصابر كالميت

Senza data. Senza nome di copista.

362 (Ansaldi 7)

Dat. ḡumādā I 1353 (1934); 0,250 × 0,178; ff. 149 di 20 righe; *nashī* abbastanza chiaro; sui margini sono riportate le date degli anni; f. 1 r vac.; nel f. 1 v la trascrizione e la traduzione italiana del titolo; rilegatura occidentale in mezza pelle, con fregi in oro sul dorso.

al-Laṭā'if as-saniyya fī aḥbār al-mamālik al-yamaniyya. V. n. 364.

Autore: Badraddīn Muḥammad b. Ismā'il b. Muḥammad b. Yaḥyà b. Aḥmad b. 'Alī b. Muḥammad b. Aḥmad al-Kibsi. V. nn. 339² 358 364.

Storia del Yemen fino alle soglie del 1295/1878, sul contenuto della quale cf. Berl. 9746 e C. A. Nallino, *Rend. Lincei*, s. VI, v. IX, pp. 677-682 (= *Scritti editi e inediti*, III 338-342). Termina al f. 140; segue un'appendice comprendente i fatti dal 1295/1878 alla presa di Ṣan'ā' da parte dell'imām al-Mutawakkil Yaḥyà b. al-Manṣūr Muḥammad, nel ḡū 'l-qa'da 1323 (1906).

Br. G II 502, S II 818; da aggiungere Cairo³ II 278, Yale 1309, Wien Gl. 168 169 (quest'ultimo contenente una seconda parte, sulla storia preislamica).

Inc., dopo la dossologia: فيقول العبد الحقير المستجير من عذاب السعير محمد بن اسماعيل... الكسبي... فهذا كشكول لطيف ومحمول على الارواح خفيف

Term.: فلاذوا الى طلب الامان وانقادوا الى حكم الشرح والايمان وما هو اولى بالصواب ووافق السنة والكتاب والى هنا انتهى

Senza nome di copista.

363 (Ansaldi 8)

Sec. XIV/XX; 0,233 × 0,172; ff. 107 di numero molto variabile di righe (16-22 ca.); *nashī* abbastanza chiaro e regolare; in rosso alcune rubriche nei ff. 7 v-20, 105-107 e i versi commentati; in margine al f. 7 v, due versi scritti in rosso; in margine, richiami al testo, in rosso nei primi fogli; scrittura in inchiostro violetto ai ff. 7 r e 105 r; nel f. 6 v trascrizione e traduzione italiana del frontespizio, più una nota, probabilmente del donatore, circa l'op. seguente e il suo A.; ff. 3-5 vac.; f. 104 v contiene operazioni aritmetiche senza rapporto con il resto; rileg. orientale in pelle, con fregi colorati e risvolto.

¹ (ff. 1-2, più una pagina del foglio preliminare) *Qaṣīda kāmīl āqī*, di 83 versi, acefala e forse mutila, anonima, di argomento religioso sciita, con commemorazione, nella prima parte, delle prove subite dagli Alidi.

Ultimo verso: واعصم من الإبطال آل محمد ومن التماهي فيه والاطباق

* (f. 6r) Qaṣīda parenetica, di 23 versi mutaḡārib *ādi*.

Autore: 'Alī b. Muḡammad (b. Aḡmad b. 'Alī b. 'Isā b. Zayd b. 'Alī b. al-Ḥusayn b. 'Alī b. Abī Ṭālib) 'Alawī al-Baṣra (m. 270/883; *E.I.* I 292 a; *E.I.*² 400 a; per altri suoi versi, cf. Vat. V. 1027^o). Precede i versi

l'informazione seguente: ويروى انه انتقل بسبب هذه القصيدة اهل خمسمائة بحيرة
يظليون الارزاق من الآفاق

Primo verso: رأيت المقام على الاقتصار قنوعا به ذلّة للعباد

F. 7r contiene, sotto il titolo dell'op. seguente, una *fa'ida* sulla durata degli intervalli tra un profeta e il successivo, per un totale di 6027 anni da Adamo all'Egira.

³ (ff. 7-99r) 'Iqd ad-durar as-salwāniyya al-multaḡaḡ min šarḡ an-Našwāniyya.

Estratto anonimo di *Ḥulāṣat as-siyar al-gāmi'a li-ahbār* (var. *li-'aḡā'ib*) *al-mulūk at-Tabābi'a min Ḥimyar* (Br. G I 301, S I 528), commento anonimo (forse di al-Ḥuṣaybarī; cf. Berl. 9738) a *al-Qaṣīda al-ḡimyarīyya* (var. *an-Našwāniyya*), di Našwān b. Sa'īd al-Ḥimyarī (v. nn. 334^o 352^o f. 3v). I versi della *Qaṣīda* inclusi nel commento sono 137 (apparentemente 138, perché il v. 50 è ripetuto, ai ff. 50r e 50v).

Il commento inc.: هوذا النبي صلعم بن عامر بن صالح بن ارفخشذ بن سام بن نوح... واتفق كثير من علماء السير ان اول نبي مرسل بعثه الله بعد نوح بشيرا

Dat. 25 raḡab 1350 (1931). Senza nome di copista.

⁴ (ff. 99v-104r) *Qaṣīda li-As'ad al-Kāmil yaḡkur fihā manāqibahu wa-mafāḡirahu wa-ma'āṡirahu wa-iḡsān Allāh ilayhi*.

Autore: As'ad al-Kāmil (Tubba', at-Tubba'ī).

Poemetto di 80 versi mutaḡārib maḡzū' *ab*, in cui l'A., uno dei più famosi re ḡimyariti, canta le proprie gesta. È accompagnato da un commento anonimo e preceduto dal racconto del sogno che ebbe la madre dell'A., quando era incinta di lui.

Br. S II 900 (dove Asad è da correggere con As'ad): citato un solo altro ms., Berl. 8059. 1, che contiene però soltanto 73 versi.

Primo verso: ارفقت فما ذاك الا الطرب فاني تذكرت ما قد ذهب

Ultimo verso: هو الخلف من بعدي المرتجى لقص الكنوز وجع العصب

⁵ (ff. 105-107r) *Nubḡa yaḡṡiza min sirat nabiyyinā*, anonima. È seguita da alcuni brevi *faṣl*: sulle mogli del Profeta, sui suoi figli, sui figli sopravvissuti alla sua morte, sui suoi dieci compagni.

Dat. 14 muḡarram 1341 (1922). Copista: 'Alī b. Muḡammad..., il quale annota di avere copiato da un ms. dat. ḡumādā I 1193 (1779), il cui copista informava che questa *Nubḡa* faceva parte di uno *Šarḡ Ibn Bahrān*, forse un commento a *al-Mu'tamad min ḡadīṡ sayyidinā 'l-muṡṡafā Muḡammad* (Br. S II 557).

364 *

Dat. 12 ḡumādā I 1350 (1931); 0,235 × 0,172; ff. 120 di 18 righe; *nashī* chiaro e regolare, con rubriche in rosso soltanto nei ff. 1-2; nel testo, le cifre delle date scritte in rosso; nel frontespizio, il titolo con la trascrizione e la traduzione italiana; rileg. orientale in pelle, con impressioni a freddo e risolto.

al-Laṡā'if as-saniyya fi 'l-ahbār al-yamaniyya.

Autore: (Badraddīn) Muḡammad b. Ismā'il (b. Muḡammad) al-Kiṣṡī, V. nn. 339 358 362.

La stessa op. del n. 362, senza l'appendice che ivi si trova. Senza nome di copista.

365 *

Dat. 23 rabī' I 1350 (1931); 0,237 × 0,177; ff. 32 di 28 righe; *nashī* elegante, con rubriche in rosso, verde, azzurro e violetto; in margine, richiami al testo, negli stessi vari colori; una sola nota, al f. 8v; nel frontespizio, il titolo, scritto in violetto, con la trascrizione e la traduzione italiana; numerazione araba delle pagine, in verde fino a p. 24, poi in nero; rileg. orientale in pelle, con impressioni a freddo e risolto.

Iḡāf dawī 'l-fiṡān bi-muḡṡaṡar Anbā' az-zāman.

Autore: 'Abdalmalik b. Ḥusayn (al-Ānisī).

La stessa op. del n. 361. Copista: Aḡmad b. 'Abdallāh aṡ-Ša'dī.

366

Probabilmente sec. XIII/XIX; 0,160 × 0,095; ff. 85 di 15 righe ca.; *nashī* chiaro, con rubriche in rosso; ff. 1r, 85v vac.; rileg. orientale in mezza pelle; i fogli hanno il margine laterale molto deteriorato dall'umidità e corrosivo.

* Cf. p. VII nota 2.

¹ (ff. 1 v-81 r) *Muhtaşar aş-şarī'a*.

Compendio anonimo di diritto, di autore cristiano. È diviso nei seguenti 32 *bāb*, suddivisi in *faşl*, elencati in un indice preliminare: (f. 3 v) *fī 'l-qādi*; (f. 11 r) *fī 's-şuhūd*; (f. 14 r) *fī 'l-igrār*; (f. 16 r) *al-hiba*; (f. 18 v) *al-qird*; (f. 19 v) *ar-rahm*; (f. 21 r) *ḡamān al-māl*; (f. 22 v) *kafālat an-nafs*; (f. 24 r) *al-i'āra*; (f. 25 r) *al-wadī'a*; (f. 26 v) *al-wakāla*; (f. 28 r) *al-mubāya'āt*; (f. 34 r) *al-hawāla*; (f. 34 r) *aş-şarika*; (f. 36 r) *al-muḡāraba*; (f. 37 r) *al-ikrāh*; (f. 39 r) *aş-şuf'a* (f. 39 v) *aş-şulh*; (f. 40 r) *al-iḡārāt*; (f. 44 v) *fī 't-ṭuruḡ wa's-şawāri'* *wa'l-aziqqa wa-taḡḡid al-abniya wa-maḡārī 'l-miyāh wa-anhār aḡ-ḡiyā'*; (f. 48 v) *fī-mā yūḡad min ḡāyi' wa-sā'ib fī 'l-mawāḡi' al-muṣtarika ka'l-bariyya wa't-ṭarīḡ wa's-sūq wa'l-ḡammām wa'l-kanīsa wa'l-funduq*; (f. 51 v) *al-ḡaḡz*; (f. 53 v) *al-ḡurriyya wa'l-'ubūdiyya wa'l-'itq*; (f. 55 r) *al-waḡf*; (f. 57 v); *al-ḡuṭba*; (f. 60 v) *aş-zawāḡ*; (f. 62 r) *fī ḡiḡānat al-yatīm wa-tarbiyatihī*; (f. 63 r) *waşiiyya bi'l-māl*; (f. 68 r) *al-waşiiyy*; (f. 70 r) *al-mawārīt*; (f. 76 v) *ḡināyāt al-bahā'im*; (f. 77 v) *'uḡūbāt al-muta'addīn waşāyā 'llāh wa-şarī'atihī*.

² (ff. 81 v-85 r) *Hādihī 'l-qawānīn al-qarābāt* (sic) *ar-rūḡiyya wa'l-ḡasadiyya 'llatī bihā 'r-ru'asā' 'l-kātūlikiiyyīn* (sic) *yudabbirūn ra'āyāhum bi'z-zīḡāt*.

Breve illustrazione degli impedimenti matrimoniali, dal punto di vista cattolico. È distinta in due parti, che trattano rispettivamente degli impedimenti morali e fisici.

Senza nome di copista. Copiato per il prete, o vescovo, (*qissīs*) Ḡrīḡūriyūs طوايبي.

367

Sec. XI/XVII?; 0,215 × 0,160; ff. 176 di 14 righe ca. nei ff. 1-92, di 15-16 righe nei ff. 93-110, di 6-9 righe nei ff. 112-175; *nashī* grosso nei ff. 1-92, più sottile ed elegante nei ff. 93-175, con rubriche in rosso; traduzione latina interlineare e talvolta marginale, specialmente nei ff. 23-35, 76-91, 95 v-99, 112 v-120, 143-173; traduzione tedesca interlineare specialmente nei ff. 100-109; ff. 94 v, 95 r, 111, 112 r, 176 vac.; f. 176 strappato nella parte inferiore; sulla faccia interna del piatto superiore, una nota autografa di (Fausto) Lasinio (1831-1914), che dichiara il contenuto del ms. e lo dice pregevole; due fogli preliminari con parole e frasi arabe e persiane con la traduzione latina e, per alcune di esse, inglese; f. 1 r contiene, oltre ad operazioni aritmetiche, il titolo latino « *Fundamenta linguae persicae, turcicae, mogolicae, una cum Danisten* (= pers. dāništān = doctrina?) *constat robur* (?) », e una scritta arabo-persiana, apparentemente senza senso; rileg. occidentale, probabilmente tedesca del '600, in pelle, con il dorso a nervature inquadrate da un doppio filetto d'oro, e con un risvolto, ad imitazione della rilegatura orientale, con inquadatura analoga e ricchi fregi in oro.

¹ (ff. 1-110) Grammatica in arabo delle lingue persiana, turca e mongola, senza titolo né nome di A. È divisa in 3 *qism*: (f. 2 v) *fī 'l-luḡa al-fārisiyya*; (f. 38 r) *fī 'l-luḡa at-turkiyya*; (f. 95 v) *fī 'l-luḡa al-muḡūliyya*.

Il 1° *qism*, dopo un'introduzione in 14 *faşl*, si divide in 28 *bāb* (a loro volta suddivisi in *faşl* e *qism*): (f. 8 r) *fī asmā' Allāh*; (f. 8 v) *fī taşrīf al-af'āl*; (f. 21 v) *fī 'l-hurūf wa'l-adawāt*; (f. 22 v) *fī 's-şifāt wa-addādhā*; (f. 24 v) *a'ḡā' al-insān*; (f. 26 r) *fī qarābāt wa'l-ansāb*, *fī azmān wa'l-awḡāt*; (f. 27 r) *fī 'l-falak wa'l-'alawiiyyāt*, *fī fuşūl as-sana*; (f. 27 v) *fī 'l-arḡīn wa'l-bihār*; (f. 28 r) *fī 'n-nawāhī wa'l-abniya wa'l-masākin*; (f. 28 v) *fī ma'ākil wa'l-ma-şārib*; (f. 29 r) *fī 's-şaḡar wa'l-fawākih*; (f. 30 r) *fī 'l-ḡubūb*, *fī 'l-furş wa'l-ātāt*; (f. 31 r) *fī 'l-malābis wa'l-ḡawāhir wa'l-ma'ādin*; (f. 31 v) *fī 'l-alkwān*, *fī 'd-dawābb wa'l-ḡušşār wa'l-wuḡūş*; (f. 32 v) *fī alkwān al-ḡayl wa-şiyātihā*, *fī 's-silāḡ wa'l-ālāt*; (f. 33 r) *fī 'l-amrāḡ wa'l-'uyūb*; (f. 33 v) *fī 'l-ḡawāriḡ wa't-tuyūr*; (f. 34 r) *fī 'ḡtilāf al-aşwāt*, *fī asmā' aş-şunnā'*; (f. 35 v) *fī şawāḡḡ al-alfāz*; (f. 36 r) *fī ta'rīf waḡ' kalāmihim*; (f. 37 r) *fī 'l-amtāl*.

Il 2° *qism*, dopo un'introduzione in 20 *faşl* + 3 *bāb*, si divide in 24 *bāb*; il 3° *qism* si divide in 25 *bāb*. Salvo qualche variante, i *bāb* del 2° e 3° *qism* corrispondono a quelli del 1°.

² (ff. 112 v-175) Vocabolario persiano-turco, parzialmente con traduzione latina.

È diviso in sezioni, prima secondo un criterio grammaticale, poi per materie, così: (f. 112 v) verbi all'infinito; (f. 125) gruppi di forme verbali simili; (f. 143) pronomi personali e suffissi pronominali, nomi con preposizioni; (f. 149) *faşl fī asmā' as-samā' wa'l-arḡ*; (f. 159) *faşl fī a'ḡā' al-anāsī*; (f. 164) *faşl fī ḡiker al-ālāt*; (f. 168 v) *faşl fī ḡiker al-ḡayawānāt*; (f. 174 v) *faşl fī asmā' al-a'dād bi'l-fārisī*.

Senza data. Senza nome di copista.

368*

Dat. 19 ḡū 'l-ḡiḡḡa 1309 (1892); 0,335 × 0,235 (ff. 64 e 65, 0,225 × 0,160); ff. 220 di 10 righe; *nashī* grosso, chiaro e regolare; numerose note marginali, della stessa mano, ma in carattere più piccolo; ff. 64 v, 65 r vac.; rileg. occidentale in pelle rossa, con il nome e le armi gentilizie di Leone Caetani impresse in oro sul piatto inferiore, con fregi in oro e il titolo impresso pure in oro, sul dorso, e con un fregio in oro sull'intero margine interno dei due piatti; sulla faccia interna del piatto superiore l'*ex-libris* di L. Caetani.

Faḡl al-ḡayl.

Autore: Şarafaddīn (Abū Muḡammad) 'Abdalmu'min b. Ḥalaf (b. Abī 'l-Ḥasan) a d - D i m y ā ṭ ī (m. 705/1306: Kaḡḡāla VI 197).

* Questo ms. è già stato descritto da G. Levi Della Vida, *Les « Livres des chevaux » de Hişām Ibn al-Kalbī et Muḡammad Ibn al-A'rābī*, Leyde 1928, p. XLIV n. 2.

Raccolta di *hadīṭ* relativi al cavallo. È divisa nei seguenti 8 *bāb*: (f. 2 v) *fī faḍl al-ḥayl al-muttahada li'l-ḡihād . . . wa-mā ḡā'a fī maṣḥ nawāṣihā wa-barakatihā wa'n-nafaqa 'alayhā wa-ḥidmatihā*; (f. 35 r) *fī 'l-timās naslihā wa-namātihā wa'n-nahy 'an qaṭ'ihā wa-ḥiṣā'ihā wa-ḡazz nawāṣihā wa-aḍnābihā wa-isālatihā wa-ta'dībihā*; (f. 47 r) *fī 'l-amr bi-'rtibātihā wa-mā yustaḥabb min al-wānīhā wa-ṣiyātihā*; (f. 66 r) *fī karāha ṣu'mihā wa-ṣaklihā wa-mā yuḍamm min 'aṣamihā wa-riḡlihā wa-ṣaklihā*; (f. 81 v) *fī sibāqihā wa-mā yuḥall wa-yuharram min asbāqihā*; (f. 99 r) *fī-mā yuqsam li-ṣāhibihā min as-sihām wa-mā warada fī dālīka min as-sunan wa'l-aḥkām*; (f. 116 r) *fī suqūṭ az-zakāh fihā wa-mā warada fī 's-sunna datīl^m 'alā dālīka wa-tanbīhⁿ*; (f. 128 v) *fī-mā waqa'a ilayya min tasmiyat (dawābb) marākib an-nabī . . . wa-tasmiyat dawābb man kāna min aṣḥābihi wa-aḥzābihi*.

Br. G II 74, S II 79; da aggiungere Fez Kattānī 6 (RIMA V 175).

Inc., dopo la *basmala*: الله اهدنا ان هداانا للعلم وحننا بلباس النهى والخليم . . . اما
بعد فقد سئلت عما ورد في الخيل من الخير الجم وما يستحب من الوانها كالشقر والدهم
وقال الاصمعي كان اذا ارسل معه فرس مثله في الجوده جاء سابقه بقدر رمح
آخر الكتاب

Copista: Ġirġī Rizqallāh Balliṭ al-Ḥalabī. Copiato per il Principe Don Leone Caetani.

368 bis

Sec. XIII/XVIII ?; 0,230 × 0,160; ff. 153 di 12-13 righe; *nashī* grosso, regolare, vocalizzato nei ff. 2 v-107, 119 v-143; fregi in rosso nei ff. 69-72 r e in violetto nel f. 83 r, con riferimento al nome «Muḥammad»; ff. 1-3 e 153 restaurati; rileg. occidentale recente in pelle, con dorso a nervature e filetti dorati, e con l'interno dei piatti inquadrato da doppio fregio in oro; sul piatto inferiore, le armi dei Caetani e il nome del possessore impressi in oro; all'interno del piatto superiore, l'*ex-libris* del Principe Leone Caetani.

F. 1 contiene una serie di invocazioni pie. F. 2 contiene la notizia (ripetuta al f. 11 v e al f. 119 r) che il codice fu lasciato da قلنين b. al-Muḥahhar b. Abī Bakr النظيرى come *waqf* a favore dei suoi discendenti; inoltre, il nome dei testimoni del lascito e la data dell'atto: venerdì ramadān 1270 (1854).

¹ (ff. 2 v-104 r) (*al-Qaṣīda al-Witriyya fī madḥ ḥayr al-bariyya*).

Autore: (Maḡdaddīn (Muḥyaddīn) Muḥammad b. Abī Bakr b. Raṣīd al-Witri). V. n. 328^a.

Il poemetto in lode del Profeta, di 610 versi, è accompagnato dal *Tahmīs* di Muḥammad b. 'Abdal'azīz al-Warrāq al-Laḥmī al-Iskandarānī

(m. 757/1356: Kaḥḥāla X 175), ed è seguito senza interruzione (ff. 104 r-105 r) da 7 versi basīṭ *adu*, forse dello stesso autore del *Tahmīs*, contenenti pie invocazioni.

Br. G I 250, S I 444.

Il *Tahmīs* inc.: بدأت بذكر الله مدحا مقديا وأثنى بحمد الله شكرا معظما
واختتم قولي بالصلاة وأتما

Primo verso: أصلي صلاة تملأ الارض والسما على من له اعلى العلا متبوا

Il *Tahmīs* term.: عبيدكم الوراق قد هان صعبه وجائزتي يوم القيامة قربه
معا ان بالاسلام انعم ربه

Ultimo verso: سمينا بربي ان قلبي يحبه وذاك رجائي في الممات وفي المحيا

Seguono: (ff. 105 r e v) 12 versi kāmīl muraffal *am*, i cui primi emistichi terminano per «Muḥammad», in lode del Profeta; (ff. 104 v-106) lodi in prosa rimata della *laylat al-qadr* e del mese di ramadān; (ff. 107-108 r) racconto dei prodigi che avvengono durante la prima notte e le notti successive di ramadān; (ff. 108 r-118) *ḥuṭab fī laylat al-qadr*; (f. 118 r) attestazione di 'Umar b. Sālim Sayalān che il libro fu destinato come *waqf* alla moschea di al-Azhar (fat. 27 rabī' I 1306/1888).

² (ff. 119 v-143) *Qaṣīda* di autore non identificato e di contenuto ascetico-parenetico, di 145 versi wāfir, divisi in 29 gruppi di 5, in ciascuno dei quali i versi terminano con la stessa lettera dell'alfabeto, incominciando da *alif*. È accompagnata da un *Tahmīs*, pure anonimo.

Il *Tahmīs* inc.: حمد الله مولاي ابتدائي وأشكره وأتبعه الثنائي
على نعمة فينا والبلائي

Primo verso: تبارك ذو العلا والكبرياء تفرّد بالجلال وبالبقاء

Il *Tahmīs* term.: تجاوز عن عيون الناس صفحا سواء عنده ذمّا ومدحا
فمال تجارة الدارين رجحا

Ultimo verso: بعيدا عن سبيل الشرّ سمحا نقي الكفّ عن عيب وثاي

Seguono (ff. 143 v-153) altri sermoni sul mese di ramadān, con invocazioni pie.

369

Dat. 1177/1763-64 (a questa data, scritta in parole, segue nel colofone, scritta in cifre, quella del 1283/1866-67, non si capisce con quale relazione); 0,215 × 0,128; ff. 313 di 15 righe; *nashī* elegante, vocalizzato; pagine inquadrate da un doppio filetto, dorato quello interno e in rosso quello esterno; versetti separati da grossi punti in oro; titoli delle sūre, in inchiostro

celeste pallido, inscritti in testate dorate; ff. 1 v-2 r miniati in oro, azzurro, giallo e rosso, con motivi floreali in verde e rosso; ff. 312 v, 313 r miniati in oro e azzurro; dal f. 12 r al f. 302 r, ogni dieci fogli, sul margine un cerchietto rosso con fregio azzurro e, iscritto in rosso su fondo oro, un numero da 1 a 30, indicante l'inizio dei singoli *ḡuz*; sul margine dei ff. 89 r, 126 v, 137 r, 147 v, 155 v, 168 r, 183 v, 190 v, 209 r, 228 r, 291 r, 275 r, 305 v, 309 v, un cerchietto in oro con fregio azzurro e, iscritta in rosso, la parola *سجدة*, a indicare il momento della prosternazione; rare scritte marginali; ff. 1 r, 313 v vac.; fogli di guardia in carta colorata a fregi; sulla faccia interna del piatto superiore è incollato un ritaglio di foglio stampato, con la notizia che il codice, proveniente da Rodi, fu donato (all'Accademia d'Italia, di cui era membro) (quindi tra il 1929 e il 1943) da S. E. il prof. (Roberto) Paribeni; rileg. orientale in pelle, con impressioni a freddo in verde pallido, e risvolto.

Corano.

Copisti: Amīn b. 'Alī e Muḥammad an-Nāmiq, suo maestro.

370

Dat. ramadān . . . ; 0,288 × 0,200; ff. 303 di 15 righe; *nashī* elegante, vocalizzato; pagine inquadrate da un grosso filetto in oro; versetti separati da grossi punti in oro; titoli delle sūre, in inchiostro biancastro, inscritti in testate dorate; ff. 1 v, 2 r riccamente miniati in vari colori, con prevalenza del verde; nel testo, segni in rosso relativi alla recitazione, ed abbreviazioni, pure in rosso, ripetute in margine, in giallo, arancione e marrone, a proposito di varianti; in margine, perlopiù in rosso, le indicazioni relative alla divisione del testo per la recitazione; note marginali e gruppi di versi, in *maḡribī*; f. 1 restaurato; f. 1 r contiene la seguente nota a mano, in inchiostro: «Trovato nel sottosuolo della moschea di Ham-Rush (oasi tripolina) il 10 dicembre 1911. Tripoli, 14-12-'11. Corrado Zoli»; rileg. orientale con impressioni a freddo e risvolto.

Corano.

Copista: Darwīš Muḥammad al-Mawlawī.

371

Dat. 9 šawwāl 1240 (1825); 0,320 × 0,220; ff. 233 di 32-37 righe ca.; *nashī* abbastanza chiaro e regolare, con rubriche in rosso e il testo commentato pure in rosso; alcune note marginali; riportati in margine, inscritti in un fregio rosso, i nomi dei tradizionalisti citati nel testo; titolo iscritto in un fregio rosso; ff. 79 v, 80 r, 233 v vac.; rileg. orientale in pelle, con impressioni a freddo; il codice ha i fascicoli del tutto slegati e vari fogli alquanto deteriorati dall'umidità.

Subul as-salām al-mūšila ilā Bulūḡ al-marām.

Autore: <'Izzaddīn> Muḥammad b. Ismā'il b. Šalāḡ al-Amīr <al-Kaḡlānī>. V. nn. 313 b 339²⁵.

Commento a *Bulūḡ al-marām min adillat al-aḡkam* (n. 351), di Abū 'I-Faḡl Aḡmad b. 'Alī b. Muḥammad Ibn Ḥaḡar al-'Asqalānī. Il ms. contiene soltanto il 2° *ḡuz*, ossia il commento a: (f. 1 v) *k. al-buyū'*; (f. 49 r) *k. an-nikāḡ*; (f. 78 r) *k. aṭ-ṭalāq*; (f. 85 v) *k. ar-raḡ'a*; (f. 111 r) *k. al-ḡināyāt*; (f. 129 r) *k. al-ḡudūd*; (f. 148 v) *k. al-ḡihād*; (f. 164 v) *k. al-aṭ'ima*; (f. 178 v) *k. al-aymān*; (f. 185 r) *k. al-qaḡā'*; (f. 195 r) *k. al-'itq*; (f. 199 v) *k. al-ḡāmi'*.

Br. S II 74, 556 e 562; Sarkīs 1584.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي احلّ لعباده البيع والشراء وحرّم عليهم المكاسب الخبيثة والربا. . . ويعد وقد أعان الله وله الحمد بتمام الجزء الاول من شرح بلوغ المرام وها نحن آخذون في شرح الجزء الثاني

Term.: وان زادت اعمال الخير معه طاح عقاب سائر المعاصي وبقي عقاب الكفر كما جاء في حديث ابي طالب انه في ضحضاح من نثار اللهم ثقّل موازين حسناتنا اذا وزنت وحقّف موازين سيئاتنا اذا في كفة الميزان وضعت

Copista: Ḥusayn b. 'Abdarrabb (?) b. Aḡmad b. 'Alī b. Aḡmad b. Ḥusayn b. Aḡmad b. Muḥammad b. 'Alī b. Muḥammad b. 'Alī b. 'Abdallāh b. Muḥammad b. Yaḡyā b. Ḥamza b. Rasūlallāh.

372

Dat. 9 ḡumādā I 1342 (1923); 0,248 × 0,183; ff. 147 di 22-24 righe ca.; *nashī* abbastanza chiaro, con rubriche in rosso-arancione e in verde; ff. 1-5 r, 143 v-147 vac.; f. 1 r contiene, in trascrizione e in inchiostro nero, il titolo, il nome dell'A. e, in italiano, la notizia che la copia fu eseguita al Cairo nel 1342/1923; manca il frontespizio; rileg. orientale in pelle, con risvolto e ritagli di carta a più colori, incollati per ornamento.

Qurrat al-'uyūn fī aḡbār (var. bi-aḡbār, bi-ta'rīḡ) al-Yaman al-maymūn.

Autore: <Waḡihaddīn Abū 'Abdallāh 'Abdarrahmān b. 'Alī b. Muḥammad a d-D a y b a ' >.

La stessa op. del n. 360², che però nella presente copia, a giudicare dal maggior numero di fogli, sembra in una redazione più diffusa. Per es., mentre l'*incipit* è identico, l'*explicit* è il seguente: وذلك هو السبب لزوال دولته وما في يده وان النصيحة من الدين لكل من يتولى امور المسلمين من الملوك والسلاطين وسائر المتصرفين ان لا يتعرض للوقف واهله ولا يبيع عزه بذلّة فما سمعت باحد تعرض له وللتكلم فيه من الملوك فمن دونهم الا تغيرت احواله وتبدل باله فليحذر الذين يجالغون عن امره ان تصيبه فتنة او يصيبهم عذاب

Copista: Ḥamūd b. 'Abdallāh b. aṣ-Ṣiddīq al-Ahdal. Copiato per Muḥammad b. Dāwūd b. Muḥammad Baṭṭāḥ al-Ahdal. Errata la notizia che l'A. dell'op. (m. 944/1537) abbia scritto di averla finita il 18 raḡab 1189. (1775).

Sec. XII/XVIII? (una nota al f. 1 v dice: « Is codex exaratus videtur saeculo XII. Africanis litteris conscriptus »); 0,168 × 0,121; ff. 86 di un numero di righe variabili da 12 a 20; *magribī* con rubriche e vocalizzazione in rosso; rubriche e fregi in azzurro nei ff. 77-86; testo completamente vocalizzato; ff. 1 r, 11, 54 v, 60, 64 v, 65, 74 v, 75, 76, 86 v vac.; f. 1 v contiene il seguente titolo, in latino: « De genuflexionibus, aliisque ceremoniis adhibendis tempore orationis, eiusque horis ac numero. Deinde multae instructiones morales, et de signis quibusdam particularibus externis, affectus vel passiones internas prodentibus, tam virtutum quam vitiorum. Item institutiones et praecepta Aali, praeter Alcoranica a Persis tenaciter observata. »; al f. 1 r una stampigliatura indica la data di ingresso del codice nella biblioteca dell'allora Accademia d'Italia (8 mag. 1943 A. XXI); in calce al f. 1 v, a firma di Michelangelo Lanci, la nota seguente: « Da questo Manoscritto arabo ho via tolto molte utili varietà per la orientale paleografia. Sotto questo riguardo egli è prezioso. »; al f. 86 v, un timbro con la dicitura « Libreria di L. N. »; rileg. occidentale in pelle, con impressa in oro sul dorso l'indicazione « Ms. Or. 456 ».

¹ (ff. 2-10) Ultima parte di un trattatello anonimo sulla preghiera nei vari mesi dell'anno, costituito da una raccolta di *ḥadīṭ* contenenti precetti a tale riguardo. Il presente frammento incomincia con l'ultima parte della sezione relativa a *ša'bān* e contiene quelle di *ramaḍān*, *ṣawwāl*, *ḍū 'l-qa'da* e *ḍū 'l-ḥiḡga*.

Term.: وزیارة عالم خیر من سبعین سنة حول الكعبة والعلماء هم ورثة الانبياء والحديث في هذا المعنى يطول لا آخر له ولا للعبد حيلة ولا سبيل للتطويل تمت

² (ff. 12-54 r) *k. aḡ-Daruriyya* (sic, l. *Ḍarūriyya*).

Trattatello anonimo, in cui sono raccolti *ḥadīṭ* contenenti precetti sull'abluzione e sulla preghiera, insegnati a Maometto dall'arcangelo Gabriele. Una divisione sommaria è fornita dalle rubriche seguenti: (f. 15 r) *wa-farā'id al-wuḍū' hiya sab'a, ... wa-sunan al-wuḍū' hiya ṭamaniya* (sic); (f. 15 v) *bāb al-ḡusl min al-ḡanaba*; (f. 16 v) *wa-ṣifat al-ḡusl ...*; (f. 23 r) *fa'l-iqāma laḥā wa-li-gamī' aṣ-ṣalāwāt hiya ḥādā*; (f. 24 v) *at-taḥiyyāt hiya ḥādā*; (f. 26 r) *(aṣ-ṣalāwāt al-ḥams)*; (f. 30 r) *(faḍilat (sic) aṣ-ṣalāwāt al-ḥams)*; (f. 34 r) *(mā huwa ṭawāb ḥādīhi 'ṣ-ṣalāwāt)*; (f. 37 v) *(hal fī taḍyī' aṣ-ṣalāwāt ḡā-wāz)*; (f. 45 r) *ṣifat at-tayammum*; (f. 46 r) *bāb fī tarfī' (sic) aṣ-ṣalāwāt*; (f. 50 r) *bāb farā'id aṣ-ṣalāh*; (f. 50 v) *bāb sunan aṣ-ṣalāwāt*.

Inc., dopo la dossologia: وهذا فرائض الوضوء والصلاة وما يجب ان يقال ويعمال فيهما (sic)

Term.: فريضة على كل انسان من ذكر وانثى فنسأل الله العون على اداء فرائضه والعصمة من الوقوع في معصيته بمته وكرمه امين

³ (ff. 55 r-74 r) *Waṣiyya li-mawlānā 'Alī*. Al f. 66 r un secondo titolo, *Waṣiyya rasūl Allāh ... li-'Alī b. Abī Ṭalīb ...*

Raccolta di precetti morali e religiosi, che il Profeta avrebbe legato ad 'Alī quasi fossero la sua eredità spirituale. Ogni precetto è introdotto dalla formula *yā 'Alī*, come nelle numerose altre raccolte omonime, alle quali la presente è simile, anche se non identica. Cf. Berl. 3959, Gotha 93.17 (dove sono citati altri mss.), Vat. V. 261³ (dove sono pure citati altri mss.), Cairo³ III 200.

Inc., dopo la dossologia: قال نساء (?) جاد بن عمر البصري عن الربيع عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضة قال دعني (sic) رسول الله صلعم وقال لي يا علي انت مني بمنزلة هرون من موسى غير انه لا نبيين بعدي وانا اوصيك اليوم بوصية ان انت حفظتها عشت جيذا ومث شهيدا

Term.: يا علي احفظ وصيتي فانك لا تزول بخير ما حفظتها فهذه الوصية التي اوصاني بها جبريل عم تمت

⁴ (ff. 77-86 r) frammento contenente le sūre XXXVI, LVI e LXVII: (f. 77) *sūrat yā-sīn*; (f. 81 v) *sūrat al-wāqī'a*; (f. 84 r) *sūrat al-mulk*.

Dat. 16 ramaḍān 1255 (1839); 0,260 × 0,165; ff. 264 di 18 righe ca.; *nashī* elegante, con rubriche e sopralineature, perlopiù delle citazioni coraniche, in rosso violetto; varie note marginali, perlopiù in *nasta'liq*; sui margini, richiami al testo, con funzione di titoli (alcuni in persiano), in rosso violetto; ff. 1 r, 264 v vac.; i ff. 44 v, 88 v, 115 v, 136 v, 172 v, 205 v, 254 v, 262 v contengono miniature, protette da veline; i ff. 1-6 in carta più grossolana e biancastra; rileg. orientale con impressioni a freddo.

¹ (ff. 1 v-183) *Maḡma' al-maṣā'ib fī nawā'ib* (var., in Br., *nawādir*) *al-aṭāyib*.

Autore: Qurayṣ b. Muḥammad al-Ḥusaynī (a l - Q a z w ī n ī) (sec. XIII/XIX).

Raccolta di tradizioni sulla morte di al-Ḥusayn b. 'Alī. L'A. dice di avere utilizzato varie fonti arabe, delle quali le più frequentemente citate sono: 'Awālim al-'ulūm, di 'Abdallāh b. Nūrallāh al-Baḥrānī (m. 1110/1698: Br. S II 504. Ma Br. S II 827 lo colloca nel sec. XIII/XIX, il che è errato); *al-Ḡawāhir as-saniyya*, di Muḥammad b. al-Ḥasan al-Ḥurr al-'Āmilī (m. 1099/1688: Br. S II 579); *Bihār (al-anwār)*, di Muḥammad Bāqir b. Muḥammad Taqī Akmal al-Maḡlisī (m. 1110/1699: Br.

S II 573); (*Dīkr maqṭal... al-Ḥusayn b. 'Alī*), di Abū Miḥnaf (sec. II/VIII: Br. G I 65, S I 101); *at-Taḏallum*, op. non conosciuta di al-Mufaḏḏal b. 'Umar a l-Ḡ u ' f ī (sec. II/VIII: Br. S I 104).

Il contenuto è diviso in:

a) 5 *muqaddima*: (f. 2r) *fī bad' ḥalqihī wa-kayfiyyat ḥamlīhī wa-tawal-ludihī wa-tasmiyatihī wa-'rtidā'ihī wa-ta'rīhīhī wa-muddat 'umrihī*, in 2 *bāb*; (f. 5v) *fī imāmatihī wa-imāmat abīhī wa-aḥīhī wa-awlādihī 't-tis'a*, in 3 *bāb*; (f. 13r) *fī ba'd faḏā'ilihī wa-faḏā'il aḥīhī wa-ḡaddihī wa-abīhī wa-ummihī wa-awlādihī 't-tis'a*, con una *ḥātima*; (f. 21r) *fī ba'd al-āyāt al-mu'aw-wala bi-ṣahādātihī wa'l-aḥbār al-wārīda 'alā nabīyyina wa-'alā ba'd al-anbiyā' wa-ba'd al-aḥbār al-wārīda 'an an-nabī wa-ba'd al-'imma fī ṣahādātihī*, in 3 *bāb*; (f. 39r) *fī dīkr annahu lā balā' a'ḡam min ibīlā' al-ar-rasūl wa-annahum umirū bi's-sabr wa't-taḥammul wa-dīkr bi-nubḡa min karāmatihim wa-bi-nubḡa min 'adāb mu'āmidihim wa-karāmat šī'atihim wa-zuwwār qu-būrikim*, con una *ḥātima*;

b) 14 *maḡma'*: (f. 53v) *fī sabab muḥāḡaratihī 'an ḥaram ḡaddihī wa-tawaḡḡuhī ilā Makka wa-nuzūl iḡlālahu fihā*; (f. 60v) *fī ḥurūḡ Muslim b. 'Aqīl bi-amrihī min Makka nahwa 'l-Kūfa wa-sawānih sanāḡat lahu ilā anna 'staḡhada*; (f. 74v) *fī tawaḡḡuh imām as-su'adā' wa-quḡwat aḡ-ṣuhadā' wa-ba-ḡiyyat aḡḡāb al-kisā' min Makka wa-mā ḡarā 'alayhī min al-miḡan wa'l-ibīlā' ilā wuṣūlihī bi-arḡ Karbalā'*; (f. 85r) *fī dīkr ba'd al-wāridāt allātī waradat 'alā 'l-imām wa-aḡḡābihī ba'd nuzūlihī bi-arḡ Karbalā'*; (f. 98r) *fī wasf al-ḡitāl*; (f. 111r) *fī ṣahādāt ahl baytīhī*; (f. 116r) *fī ṣahādāt aḡḡāhī imām 'Abbās b. 'Alī*; (f. 121v) *fī muḡārazatīhī bi-naḡsihī 's-ṣarīf ilā muḡāsāt al-ḡuḡūf wa-musāra'atihī bi-ṣaḡsihī 'l-munīf ilā 'ḡimāl as-suyūf*; (f. 128v) *fī 'l-waḡa'āt allātī waḡa'at yu'ūd ad-dāḡiya 'd-dāḡyā' wa'l-muṣība 'l-'uzmā ilā an raḡalū min Karbalā' wa-aḡbalū nahwa 'l-Kūfa*; (f. 134r) *fī dīkr ba'd al-aḡḡāb al-mutaḡarriḡa al-munāsiba li'l-maḡām*; (f. 145v) *fī 'rtiḡāl 'asākīr aḡ-ḡulma bi-man taḡallafa min 'iyāl sayyīd aḡ-ṣuhadā'... min Karbalā' wa-wurūdhim ilā 'l-Kūfa*; (f. 156r) *fī 'l-wāridāt allātī waradat 'alā ahl al-bayt... fī tarīḡ aḡ-Ṣām*; (f. 162r) *fī 'l-aḡḡāb al-wārīda fī wurūd ahl al-bayt Dimāḡq wa-dīkr ba'd mā ḡarā 'alayhīm min Yazīd b. Mu'āwīya*; (f. 172v) *fī dīkr nubḡa min al-mu'ḡizāt wa'l-karāmat wa'r-ru'yā 'l-'aḡībāt (sic) wa'l-umūr al-wāḡi'a 'alā ahl al-bayt*;

c) una *ḥātima* (f. 179r), *fī ruḡū' sabāyā 'l-batūl ilā madīnat ar-rasūl*.

Br. S II 825; citato un solo altro ms., Mešh. IV 92.281, con il quale non si è potuto fare un confronto.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي رفع درجات الشهداء الى اعلى منازل الدرجات واعطاهم بمنزلهم الانفس في سبيله ارفع مراتب السعادات... وبعد فيقول الباكي على رزيته الناموس الالهي... لما رأيت افضل السعادات... المسارعة الى البكاء والتبكي على مصائب من مصيبتة اعظم المصيبات

Term.: وانا رأيت ابي واخسي وشيعته عشر من اهل بيتي مصرعين مقتولين فكيف ينتضي حزني ويقل بكائي

² (ff. 184-263) (*Tatimmat Maḡma' al-maṣā'ib fī nawā'ib al-aḡāyib*).

Autore: lo stesso dell'op. precedente, il quale informa nell'introduzione di avere qui raccolto altre tradizioni, sulla morte del Profeta, di 'Alī, di Fāṭima, di al-Ḥasan b. 'Alī, di Mūsā b. Ḡa'far e di 'Alī b. Mūsā, e sulle loro *faḏā'il*, e di avere concepito questa seconda op. come complemento della precedente.

È divisa in 6 *maḡṣad*: (f. 184v) *fī dīkr wafāt aṣrāf al-anbiyā'*, in 3 *bāb*; (f. 196v) *fī maḡṣad maḡlānā wa-mawlā 'l-ḡāfiḡīn amīr al-mu'minīn*, in 3 *bāb* e una *ḥātima*; (f. 226r) *fī dīkr sayyidatīnā wa-mawlātīnā Fāṭima az-zahrā'*, in 4 *bāb* e una *ḥātima*; (f. 235r) *fī maḡṣad mawliyyina wa-imāminā 's-sayyid al-muntahañ Abī Muḡammad al-Ḥasan*, in 5 *bāb* e una *ḥātima*; (f. 242r) *fī maḡṣad sayyidīnā Mūsā b. Ḡa'far*, in 3 *bāb*; (f. 251v) *fī maḡṣad mawlānā wa-sayyidīnā 'Alī b. Mūsā ar-Riḡā'*, in 5 *bāb*.

Br. non cita l'op., e non è stato possibile verificare se il solo ms., oltre questo, di *Maḡma' al-maṣā'ib* contenga anche la presente *Tatimma*; un ms. di questa è Teheran Univ. 3208.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله الذي رفع درجات الشهداء الى اعلى منازل الدرجات... اما بعد... انا لما فرغت عن تأليف مجمع المصائب... احببت ان اجمع بجملة من الاخبار الواردة في وفاة الخ

Term.: ان موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن الا اعتقه الله من النار وحلته دار القرار

Copista dell'intero codice: Ḥusayn b. 'Abdalmāḡīd b. 'Abdalkarīm Ḥayyāt al-Qazwīnī.

APPENDICE

I)

7

Dat. yawm al-Banāḡiyya 1104 (?)/1595; 0,280 × 0,194; ff. 217 di 21 righe; *nashī* grande, regolare, non vocalizzato; rubriche in rosso, talvolta ripetute sui margini; f. 217v vac.; ff. 1 e 2 staccati, i quinterni slegati, deteriorati dall'umidità specialmente i primi 40 fogli; rileg. orientale in pelle con impressioni a freddo e risolto con inquadature in oro, staccata dal corpo del codice.

(Commento a *al-Mūḡīz (muḡtaṣar al-Qānūn)*) (Br. G I 457, S I 825-826; cf. App. VI) di 'Alā'addīn Abū 'l-Ḥasan 'Alī b. Abī 'l-Ḥazm al-Quraṣī (al-Qarṣī) I b n a n - N a f ī s (m. 687/1288), corrispondente ai *fann* 3^o (di cui

manca l'inizio) e 4° dell'op. commentata. Di quale commento si tratti, non è dato precisare, poiché i repertori permettono soltanto di escluderne l'identificazione con *al-Muğnī* di Sadīdaddīn al-Kāzarūnī (vivo nel 745/1344: *Kaḥḥāla* IV 207), con il commento di Muḥammad Abū 'l-Mubārak (vivo nel 925/1519) e con il *Ḥall al-Mūğiz* di Muḥammad b. Muḥammad al-Aqsarā'ī (m. 771/1370: *Kaḥḥāla* XI 192). Rispetto al *Mūğiz*, le divisioni principali della materia si chiamano *maqāla*, anziché *fann*; inoltre la terza *maqāla* non presenta la sottodivisione in *bāb* (come il commento anonimo, contenuto in parte in Berl. 6280), e la quarta si divide in 5 *bāb*, anziché in 6, mancando il 2° *bāb fī buhrān wa-ayyāmihī wa-tafsīr al-buhrān*. Il contenuto del ms. comprende: parte degli *amrād ar-rī'a wa's-šadr*; (f. 8 v) *amrād al-qalb*; (f. 15 v) *amrād at-tady*; (f. 17 r) *amrād al-marī wa'l-mā'da*; (f. 34 r) *amrād al-kabd*; (f. 46 v) *amrād al-am'ā*; (f. 69 r) *amrād al-maq'ada*; (f. 77 v) *amrād at-tuhāl wa'l-marāra*; (f. 81 v) *amrād al-kulya wa'l-matāna*; (f. 96 r) *amrād a'dā at-tanāsul*; (f. 108 r) *mu'alağat amrād tahtaşş bi'n-nisā': amrād ar-rahim*; (f. 128 v) *amrād al-a'dā at-ṭarafīyya*; (f. 134 v) *al-maqāla ar-rābi'a fī 'l-amrād allātī lā tahtaşş bi-'aḍw dūn 'aḍw wa-asbābihā wa-'alāmātihā wa-mu'alağatihā: al-bāb al-awwal fī 'l-ḥamiyyāt*; (f. 153 r) *al-bāb at-tānī fī 'l-awrām wa'l-butūr wa'l-ğudām*; (f. 174 r) *al-bāb at-tālīt fī 'l-ğirāhāt wa'l-qurūḥ wa's-şuqūq wa's-sahğ wa'l-kasr wa'l-ḥal' wa'l-wağ' wa'l-wahn wa's-sa't' wa's-şadma wa'ḍ-ḍarba wa's-şuğāğ*; (f. 185 r) *al-bāb ar-rābi' fī 'z-zīna*; (f. 200 v) *al-bāb al-ḥāmis fī 's-sumūm wa't-taharruz 'anhā*. Segue (f. 216 v) una *waşīyya: i'lam annahu yağīb 'alā kull mu'aliğ wa-ṭabīb*; con precetti per il medico, che termina: وليكن هذا آخر ما اردنا جعة من الغوائد العجيبة ونظمه من الغوائد الغريبة والشكر لله تعالى على ان وقفنا الامام وحقق لنا الفوز بهذا المرام وايك ان تفتنق بهذا الكتاب عن اهله او تصرفه الى غير يجله فمن منح الجهال علما اضلعه ومن منع المستوجبين فقد ظم والله الهادي للسداد ومنه المبتدأ واليه المعاد الحمد لله على الكمال والتمام والفوز على تحقيق المطالب والمرام

Copista: . . . b. Ilyās خولى Muḥammad Āğā مطرعى , detto *rağul naşrānī*.

II)


II

Rusūm ḡahannam o Ta'ammulāt rūḥīyya fī 'l-'adābāt al-ḡahannamiyya.

L'A. è Yūsuf b. Ġirğis al-Ḥalabī a l-Bānī (m. dopo il 1712). Cf. G. Graf, *Geschichte der christlichen arabischen Literatur* III 383-389; sull'op., *ibid.* 385.

Inc.: الحمد لله الذي خلق الانسان عاقلا . . . وبعد فيقول المعلم العامل والفيلسوف العاقل يوسف الابددياكن الشهير بابن جرجس الحلبي الماروني لما رأيت الرسالة الادبية

الفرافق من مسالكهم فناوش النوم بعضهم بعضا واقتلوا قتلا
شددا وعلت بنو اسد الله لا طاق لهم بالفوم فافترموا واحين
الى جصمهم القلم يخالو في جوف الليل حرقا من ابن سبغدا فله الله
ان ينيهم ورجع حبيب بن عمار الى الحسين فخرت بذلك فقال
لا حول ولا قوة الا بالله فالورجت خيل ابن سبغدا حتى نزلوا على
شاملى الفرات واضر العطش بالحسين واصحابه فاخذ فاسا وجا
الى ورا حمة النساء فخطا في الارض نسم عشرة خلوه في العيلة



نظرون

المشتملة على التأمّلات في العذابات الجهنمية... فنقلتها حينئذ إلى اللغة العربية لتنفع
الجهنمين وتفيد للفثانين

Termina (ff. 49 v-50 v) con una *ṣalāh ilā 'l-qiddīsa Maryam at-ṭāhira li-tufīdanā 'l-ḥalās*.

III)

19

Sec. IX/XV ?; 0,195 × 0,145; ff. 102 di 13-17 righe; *nashī* grossolano, non vocalizzato, ripassato in rosso nei ff. 1-16; il f. 31 di mano diversa; rubriche in rosso; quadrati magici specialmente ai ff. 30-31, 38-46, 52-53, 88, 97-99; ff. 1-58 rozzamente inquadriati in rosso e nero, ff. 59 e 66 in nero; carta di colore azzurro (sbiadito nei ff. 97-102, restaurati lungo i margini); numerazione araba delle pagine da 5 a 214; rileg. recente in pelle, con dorso a nervature e l'interno dei piatti inquadriato da elegante fregio in oro; sul piatto inferiore, le armi e il nome di Leone Caetani impressi in oro.

¹ (ff. 1-16) Operetta astrologica anonima e acefala (mancano il *bāb al-ḥamal* e il *bāb at-tawr*), divisa in due parti, contenenti rispettivamente gli oroscopi per gli uomini e per le donne, e in 12 + 12 = 24 *bāb*. Incomincia dall'ultima parte del 2° *bāb*, a cui seguono: il 3° (f. 1 r) *al-ḡawzā'*; il 4° (f. 2 r) *as-saratān*; il 5° (f. 3 v) *al-asad*; il 6° (f. 4 r) *as-sunbula*; il 7° (f. 5 r) *al-mīzān*; l'8° (f. 6 r) *al-'aḡrab*; il 9° (f. 6 v) *al-qaws*; il 10° (f. 7 r) *al-ḡady*; l'11° (f. 7 v) *ad-dakw*; il 12° (f. 8 r) *al-ḥūt*. Vengono, quindi, nel medesimo ordine, i *bāb* con gli oroscopi per le donne, ai ff. 9 r (*wa-ḥādīhi taḥliyat nuḡūm an-nisā'*), 9 v, 10 r, 10 v, 11 r, 12 r, 12 v, 13 v, 14 r, 14 v, 15 r, 15 v.

Term.: والله اعلم بحذر عليها من سنتين من مولدها او اثنا عشر سنة او اربعين سنة فاذا جاوزت ذلك عاشت خمسة وسبعين سنة والله اعلم واحكم واروف (sic) وارحم تمت

Senza data. Copista: Muḥammad b. Aḥmad b. Šāliḥ b. 'Abdallāh Bā'abbād (Berl. 9909 cita un 'Abdallāh b. Muḥammad b. 'Abdarraḥmān Bā'abbād, dotto yemenita m. 687/1288, forse antenato del copista. In tal caso il ms. si potrebbe datare al sec. IX/XV ca.).

² (ff. 17-102) *ḵ. al-Fawā'id wa's-ṣalāwāt wa'l-'awā'id*. N. 340² del presente catalogo.

Autore: *Ḥihābaddīn Aḥmad b. Aḥmad b. 'Abdallaṭīf a š-Šarḡī*.

L'op. è mutila, interrompendosi poco prima della fine della *fā'ida* 82. Della divisione in 100 *fā'ida*, come pure della loro numerazione progressiva, non vi è traccia nel testo, che presenta invece una divisione irregolare in paragrafi chiamati, fino al f. 26, *bāb* o *fā'ida* e in seguito *bāb fā'ida*. La redazione del testo, specialmente all'inizio, è abbreviata.

Inc., dopo la *basmala*: الحمد لله رب العالمين في جميع محامده على جميع عواتده جدا يكافى نعمه ويوافي مزيده... اما بعد فقد قال رسول الله صلعم احب الخلق الى وانفعهم لعباده

IV)

27

² (ff. 101 v-112 v) (Hawāṣṣ al-Burda fī bur' ad-dā').

Autore: 'Abdassalām b. Idrīs (al-Marrākuṣī) (m. 660/1262).

Operetta sull'uso dei versi (riportati a gruppi ineguali; manca il v. 6) della *Burda* di al-Būṣīrī a scopo magico-terapeutico. I ff. 101 v-100-103 r contengono il racconto dello ṣayḥ 'Abdarrahmān b. 'Abdalwāhid b. 'Abdarrahmān at-Tamīmī ar-Raba'ī (?), che nel ramadān 860 (1456) fece una copia dell'opera per l'emiro Bardabak, *dawīdār* del sultano al-Mālik al-Ašraf (Sayf-addīn Īnāl al-'Alā'ī az-Zāhirī) al-Ağrūd (cf. E. de Zambaur, *Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam* 105).

Br. G I 266, S I 469.

N.B. — I fogli del codice essendo stati disposti in un ordine erroneo, il testo va letto in questa successione: ff. 99, 101, 100, 103, 102 (quest'ultimo rilegato lungo il margine esterno).

V)

40

Sec. XII-XIII/ XVIII-XIX ?; 0,210 × 0,150; ff. 152 (in realtà 153, essendoci un f. 12 bis) di 14 righe; *nashī* grosso, non vocalizzato; rubriche in nero; scarsissime note marginali; ff. 1-14, 137-152 restaurati lungo i margini; lacune tra i ff. 1 e 2, 126 e 127, 133 e 134, 134 e 135, 136 e 137, 138 e 139, 150 e 151, 151 e 152; rileg. occidentale in mezza pelle, con dorso a nervature e filetti in oro; nell'interno del piatto superiore, l'ex-libris di Leone Caetani.

Opera di etica, non identificata, acefala e apoda, divisa in numerosi capitoli senza alcuno schema, contenenti tradizioni anche profane, canoniche e apócrife. Tutti i *bāb* incominciano con le parole *fī dīkr* e terminano, salvo qualche variante, così: نَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ الْمَوْلَى الْكَرِيمَ اَنْ يُّوَفِّقَنَا لِمَا نَحْتَمِلُهُ وَيَمُنَّ عَلَيْنَا وَبِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ وَيُبَدِّدَ كُنَا بِرَحْمَتِهِ وَيَمِينِنَا مُسْلِمِينَ اِنَّهُ هُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Eccone i titoli: (f. 1 r) 'uqūq al-wālidayn; (f. 3 r) al-ḥayā; (f. 5 r) ar-rahma wa's-šafaqa; (f. 7 v) al-iṣlāḥ bayn an-nās wa-ḥusn al-ḥulq; (f. 10 r) at-tawāḍuḥ; (f. 12 bis r) al-kibar; (f. 14 r) al-'aḡab; (f. 16 r) ar-ri'ā; (f. 26 v) al-'amal bi'n-niyya; (f. 30 r) at-tafwīd ilā 'Ulāh wa'r-riḍā bi-qadā'ihī; (f. 31 v) aṣ-ṣabr

'alā 'l-balā' wa's-šidda; (f. 34 r) bāb aḡar fī dīkr aṣ-ṣabr ilh.; (f. 39 v) bāb aḡar fī dīkr aṣ-ṣabr 'alā 'l-maṣā'ib; (f. 41 v) at-tawakkul; (f. 50 v) bāb aḡar fī dīkr at-tawakkul; (f. 59 v) al-ḥirṣ wa-tūl al-'amal; (f. 76 r) ad-dunyā wa't-taḡarrud; (f. 80 r) ad-dunyā wa-fitnatihā wa-ḡurūrihā; (f. 83 v) bāb aḡar fī dīkr ad-dunyā wa't-taḡarrud; (f. 87 v) karāhiyya ḡam' al-māl; (f. 92 r) bāb aḡar fī dīkr ḡam' al-māl wa-fitnatihī wa-āfātihī; (f. 97 r) bāb aḡar fī dīkr ḡam' al-māl wa-kasbihī; (f. 100 r) ḡam' al-māl wa-kasbihī min al-ḡalāl wa'l-ḡarām; (f. 103 r) kasb ar-ribā; (f. 106 v) al-ḥirfa wa't-tiḡāra; (f. 110 r) al-qanā'a wa'l-istiḡnā' 'an an-nās; (f. 112 r) al-faqr wa-dīq al-ma'īša; (f. 116 r) al-ḡū' wa-tawābihī wa-fadlihi; (f. 118 v) karāhiyyat al-ma's'ala; (f. 119 v) as-saraḡ wa'l-libās wa'l-binā' wa-ḡayr ḡalika; (f. 121 r-v) al-amr bi'l-ma'rūf wa'n-nahy 'an al-munkar; (f. 125 v) birra al-wālidayn wa-'ltizām ta'ātihimā; (f. 132 v) ḡaqq al-wālid 'alā 'l-walad wa-kafālat al-wālid; (f. 136 v) ar-riḡq bi'l-'abīd wa'l-iḡsān ilā 'l-yatīm; (f. 137 v) ḡazm al-ḡayṣ wa-karāhiyyat al-ḡaḡab; (f. 142 r) bāb aḡar fī dīkr at-tawba wa-ṣurūtiḡā; (f. 149 r) ṡā'at Allāh wa'n-nahy 'an ma'ṣiyatihi.

VI)

54

Il *Mūḡiz fī t-tibb* non è contenuto per intero, ma soltanto nelle parti seguenti: (f. 1 v) 1° fann fī qawā'id ḡuz'ay at-tibb a'nī 'ilmiyyatihi wa-'amaliyyatihi; (f. 29 r) 2° fann fī qawā'in quwā' l-adwiya wa'l-aḡḡiya al-mufrada wa'l-murakkaba, interrotto da una lacuna (ff. 61-69 vac.) appena dopo l'inizio dell'ultimo *bāb fī 'l-adwiya al-murakkaba*; dal f. 70 è in corso il *bāb fī amrād al-'aṣab* del 3° fann fī 'l-amrād al-muḡtaṣṣa bi-'aḡw dūn 'aḡw; (f. 179 r) 4° fann fī 'l-amrād allātī lā yaḡtaṣṣ bi-'aḡw dūn 'aḡw, che s'interrompe poco prima della fine del 3° *bāb fī 'l-awrām wa'l-butūr wa'l-ḡudām wa'l-waba' wa't-taḡaddur 'anhā*. Mancano i *bāb* 5° e 6°.

VII)

250

Sec. IX/XVI ?; 0,173 × 0,110; ff. 105 di 15 righe, numerati a penna a rovescio, partendo dalla fine del testo, e rinumerati a matita nel senso esatto; *nasta'liq* grosso, non vocalizzato; numerosissime note marginali e interlineari; ff. 1-96 inquadri perlopiù in rosso, talvolta in nero, con testo egualmente inquadri; ff. 104 v, 105 r vac.; il f. 105 v contiene l'indicazione « Cod. Cors. 1093. Codex turcicus continens tractatus varios theologicos iuxta doctrinam Mavmetis. Mss. di carte 104 »; rileg. italiana del '700 in pelle, con il dorso a nervature e fregi in oro; i fogli sono stati rilegati in una successione errata, pertanto il testo si svolge secondo l'ordine seguente: ff. 31-38, 11-30, 1-10, 39-104 r; inoltre, esso è mutilo all'inizio di uno o più fogli e presenta due lacune, tra il f. 38 e il f. 11 e tra il f. 52 e il f. 53.

(Šarḡ al-'Aqā'id an-Nasafiyya).

Autore: (Sa'daddīn Mas'ūd b. 'Umar a t - Ta ft. a z ā n ī) (m. 792/1390).

Commento alle *'Aqā'id* di Nağmaddīn Abū Ḥafṣ 'Umar b. Muḥammad a n - N a s a f ī (m. 537/1142).

Br. G I 427 II 216, S I 758; da aggiungere Bagdad Awqāf² 177, Wien Gl. 31. Sarkīs 637 852-853 1854.

Inc. (f. 34^r): قال اهل الحق وهو الحكم المطابق للواقع يطلق على الاقوال والعقائد والاديان والمذاهب

Term.: انما هو في امر التجرد وفي اظهار الآثار القوية لا في مطلق الشرف والكمال فلا دلالة على افضلية الملائكة والله اعلم بحقيقة الحال وبحقيقة الافعال.

Prospetto cronologico dei codici.

Sec. VII/XIII: 320 332

Sec. VIII/XIV: 321

Sec. IX/XV: 318

Sec. X/XVI: 336

Sec. XI/XVII: 302 307 311 312 314 317 319 328² 333 334 335 341 342 343
345 346 349 367 (?)

Sec. XI-XII/XVII-XVIII: 304 310 316

Sec. XII/XVIII: 309 313 a 327⁴ 328^{3 4} 329 340 348 351 354

Sec. XII-XIII/XVIII-XIX: 344 352

Sec. XIII/XIX: 303 305 308 313 b 315 327³ 330 337 338 339 345⁵ 347 350
353 371 373 374 366 (?)

Sec. XIV/XX: 301 306 322 323 324 325 326 327^{1 2} 331 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 368 372

Di data non precisata: 355 370

Elenco in ordine cronologico dei manoscritti datati.

Anno dell'Egira	Numero	Anno dell'Egira	Numero
091	320	1225	315
786	321	1240	371
858	318 ^{r 2}	1244	313 b
961	336 ³	1250	344 ⁸
962	336 ⁴	1251	344 ^{2 4}
1027	328 ²	1255	374
1028	346	1267	345 ⁵
1052	335 ^{1 6}	1267	352 ⁸
1054	335 ^{2 3 16}	1282	308
1056	311	1282	339 ¹¹
1056	341 ^{2 4}	1284	330
1056	343	1285	352 ¹⁰
1057	307 ²	1286	350 ³
1060	319 ^{1 2}	1287	339 ³
1061	319 ³	1288	339 ⁷
1069	342 ⁶	1291	339 ¹⁹
1070	314 ¹	1293	339 ^{16 20}
1070	342 ⁵	1296	339 ²⁹
1071	342 ²	1297	339 ¹⁷
1084	334 ^{1 3}	1300	338
1089	334 ³	1302	327 ¹
1091	333 ⁶	1303	327 ²
1091	345 ³	1309	368
1092	310 ⁶	1314	337 ⁶
1104	340 ²	1325	360 ¹
1144	344 ⁴	1327	301
1148	313 a	1341	363 ⁵
1149	354	1342	372
1173	309	1349	359
1177	369	1350	358
1178	327 ⁴	1350	363 ³
1184	328 ³	1350	364
1185	348	1350	365
1198	328 ^{4 a b}	1352	323
1199	352 ⁶	1352	324
1202	305 ²	1353	326
1204	305 ^{4 6}	1353	362
1208	310 ²	1354	325
1209	305 ⁷	1356	306 ²

INDICE PER MATERIE.

Avvertenza. — Sono usate le seguenti abbreviazioni: Comm. = Commento;
Comp. = Compendio; Compl. = Complemento.

I. Corano 369 370 373⁴ (solo 3 sūre).

II. Scienze coraniche:

a) opere generali:

'Abdalbāqī b. 'Abdallāh az-Zabīdī, *Buġyat al-qāri'* 348.

b) ortoepia:

Ibn al-Ġazārī, *Muqaddima fī 't-taġwīd*.

Comm.: Zakariyyā' al-Anṣārī, *ad-Daqā'iq al-muḥkama* (al-muḥak-
kima) 336⁵.

c) varianti:

'Abdallāh al-Ba'danī, *Tabṣirat al-muḍākir* 336⁴.

Muḥammad b. Ṣalāḥ, *ad-Durar al-ḥisān* 336³.

an-Nāṣirī, *al-Infirāda* 336¹.

Anonimi 336² 336⁶ f. 154 r (framm.).

d) esegesi:

Aḥmad b. Muḥammad al-Ḥallāl, *ar-Radd 'alā 'l-Ġabriyya* 332.

as-Saġawandī, *'Ayn al-ma'ānī* 342⁸ (framm.).

Ṣāḥib az-Za'farān, *an-Nāsiḥ wa'l-mansūḥ* 334⁴.

Commento alla *basmala* 305¹.

III. Tradizione:

a) Sunniti:

Ibn Ḥaġar al-'Asqalānī, *Bulūġ al-marām* 351.

Comm.: al-Amīr, *Subul as-salām* 371.

Durar al-kalām fī masā'il 'Abdallāh b. Salām 333^{3 b}.

ad-Dimyāṭī, *Faḍl al-ḥayl* 368.

k. aḍ-Ḍarūriyya 373².

Anonimo 373¹.

Iġāza 339¹ f. 13 r.

Ḥadīṭ al-mi'rāġ 352⁶.

Ḥadīṭ isolati 310^{4 b} 314³ f. 161 r e v 314³ ff. 167 v-168 r 317¹ 321 f. 87 v

339²⁵ f. 124 v 352⁹ f. 51 v.

b) Sciiti:

- Ibn Bahrān, Ğawāhir al-aḥbār wa'l-āṭār 307².
 'Alī ar-Riḍā, Ṣaḥīfa 335¹⁴.
 al-Qazwīnī, Mağma' al-maṣā'ib 374¹.
 id., Tatimmat Mağma' al-maṣā'ib 374².
 Muḥammad b. Aḥmad Muṣaḥḥam, Zahr ar-rawḍ al-mandūd 327³.
 al-Manṣūr al-Qāsim, Buğyat aṭ-ṭālib 328².
 Yaḥyā b. al-Ḥusayn, al-Iṣāba 327².
 Anonimo 302².

IV. Teologia:

a) Sunniti:

- an-Nasafī, 'Aqā'id.
 Comm.: at-Taftazānī App. VII.
 'Iyāḍ al-Yaḥṣubī, aṣ-Ṣifā'.
 Comm.: al-Qāri' al-Harawī, Raf' al-ḥafā' 354.
 Bayān 'aqīdat ahl as-sunna wa'l-ğamā'a 339¹⁹.

b) Zayditi:

- ar-Raṣṣāṣ, al-Mu'aṭṭirāt 318².
 id., aṭ-Ṭalātūn al-mas'ala.
 Comm.: Ibn Ḥābis, al-Īdāḥ 346.
 Muḥammad al-Muftī, Wāsiṭat ad-darārī.
 Comm.: dell'A., al-Badr as-sārī 334¹.
 al-Manṣūr al-Qāsim, al-Asās.
 Comm.: dell'A., Ṣifā'.
 Comp.: aṣ-Ṣarafī, 'Uddat al-akyās 304.
 an-Nāṣir al-Uṭrūṣ, al-Bisāṭ 335¹.
 Yaḥyā al-Quraṣī, Minhāğ at-taḥqīq 318¹.
 Elenco delle trenta questioni 352⁹ f. 50 v.

c) Mu'taziliti:

- 'Abdalğabbār, al-Muḥiṭ bi't-taklīf 320.

d) Polemica zaydita e antizaydita:

- 'Izzaddīn Ḥabīballāh Muḥammad b. 'Abdallāh, Risāla fī kufr al-Bāṭi-
 niyya 339³.
 Muḥammad Ibn al-Wazīr, Nihāyat at-tanwīh 335².
 an-Nāṣir al-Mu'ayyadī, Asnā 'l-'aqā'id 335⁶.
 Anonimi 339^{5 7 8}.

e) escatologia:

- ad-Dīrīnī, Qilādat ad-durr 333^{3b}.
 as-Suyūṭī, al-Kaṣf 'an muğāwazat ḥādīhi 'l-umma al-alf 333^{5b}.
 Maḥmūd b. Muḥammad as-Suhrawardī, al-'Ayn wa'l-'iyān 333⁴.
 Appunti vari 333^{5a}.

Preghiere:

a) preghiere particolari:

- Muḥammad b. Usāma, Awrād al-usbū' 335¹⁸.
 al-Wāsi'ī, ar-Rātib al-'aẓīm 339⁶.
 Raccolta di preghiere recitate da Maometto e da 'Alī 352⁵.
 Ṣahāda 349 f. 62 v.
 Varie 304 f. I 310 f. 22 v 336⁶ ff. 154 v 156 r 159 r 341¹ ff. 2 r 4 r e v 345⁶
 f. 140 352⁹ f. 49.

b) nomi divini:

- Abū Madyan, Ḥirz al-aqsām 352⁴.
 Manzūmat al-asmā' al-ḥusnā 352³.
 Fā'ida 310^{4a}.

c) prediche:

- Ḥuṭbat al-istisqā' 314³ ff. 160 v 162 r.
 Ḥuṭbat awwal ġum'at šahr ramaḍān 339³².
 Ḥuṭbat ṭāliṭ ġum'a fī ramaḍān 339³¹.
 Ḥuṭba fī 'l-ğihād 314⁴ f. 167 v 339¹ f. 4 333¹⁵.
 Ḥuṭbat ṣalāt al-kusūf 314³ f. 160 r.
 Ḥuṭba fī ni'mat Allāh 314³ f. 160 v.
 Ḥuṭba generiche 314⁴ f. 168 r.

V. Diritto:

a) fonti:

- Aḥmad Daḥlān, Waraqāt al-uṣūl 337².

b) diritto positivo:

- α) Ḥanafiti
 an-Nasafī, Kanz ad-daqa'iq.
 Comm.: al-'Aynī, Ramz al-ḥaqā'iq 308¹.
 β) Ṣāfi'iti
 az-Zubayrī, Fayḍ al-malik al-'allām.
 Comm.: al-Baṭṭāḥ, Iršād al-anām 350³.

al-Qazwīnī, al-Ḥāwī.

Comm.: al-Muqri', Iršād al-ġawī 337⁶.

Muḥammad al-Amīr, aṭ-Ṭamānī 'l-masā'il 313 b.

al-Malibārī, Qurrat al-'ayn.

Comm.: dell'A., Faṭḥ al-mu'in 330.

an-Nawāwī, Minhāġ aṭ-ṭalībīn.

Comm.: Ibn Ḥaġar al-Haytamī, Tuḥfat al-muḥtaġ 309¹.

γ) Zayditi

Aḥmad b. 'Īsā, Badā'i' al-anwār (al-Amālī) 302¹.

al-Ḥusayn b. al-Qāsim, ad-Durr al-muḍī' 327⁴.

Ḥamīd b. Muḥammad al-Ḥudūrī, al-Fawā'id al-muḥtaṣara fī masā'il min aš-šari'a al-muṭahhara 347.

al-'Ulufī, al-Aġwiba al-mufida 329 339 f. 8 v (framm.).

'Imādaddīn Ibn Muẓaffar, al-Bayān aš-šāfi.

Comm.: 'Izzaddīn Ibn Muẓaffar, al-Bustān al-ġāmi'.

Compl.: id., at-Tarġumān al-mufattiḥ 319².

Muḥammad Ibn al-Wazīr, Mas'ala fī bayān iqāmat al-ġum'a 327¹.

al-Mahdī Ibn al-Murtaḍā, al-Azhār 341².

Comm.: Ibn Miftāḥ, al-Anwār.

Comp.: Ibn al-Mu'āfā, al-Anhār 303.

Compl.: Ibn Ḥābis, Ġāyat at-taḥqīq 313 a.

Ibn al-Wazīr, al-Hidāya 317².

id., al-Baḥr az-zahḥār.

Comm.: Ibn Bahrān, Ġawāhir al-aḥbār wa'l-āṭār 307².

Comp.: Ibn al-Mu'āfā, al-Anhār 303.

an-Nāṭiq al-Buḥānī, at-Tahrīr.

Comm.: 'Alī b. al-Ḥusayn, al-Luma'.

Comm.: Naġmaddīn Yūsuf, az-Zuhūr al-mušriqa 312.

an-Naḥwī, at-Taḍkira al-fāhira 311 a.

Comm.: Ibn Muẓaffar, al-Kawākib an-nayyira 311 b.

Responsi giuridici zayditi 307^{1 b 3} 311 f. 276 r 317¹ f. 6 v 329 f. 164 r e v

334² 339¹ f. 7 v 339^{2 18 23 25 27 29} 342^{1 4} 349² f. 3 350² f. 4 v.

Altri responsi giuridici 330 f. 181 v.

Frammenti vari 339¹ ff. 2 v 6.

c) diritto positivo – diritto successorio:

α) Šafi'iti

ar-Raḥbī Ibn al-Mutaqqina, Buġyat al-bāḥiṭ 344³.

Ibn al-Hā'im, Risāla fī 'l-munāsaḥa 305⁴.

β) Zayditi

al-'Uṣayfirī, Miftāḥ al-fā'iḍ 341⁴.

Comm.: an-Nāzirī, Ġawharat al-farā'id 305².

al-Ḥalidī, Iḍāḥ al-ġāmiḍ 305⁷.

al-'Ulufī, Ḥāšiya 305⁵.

Frammenti e appunti vari 339¹ f. 11 339²⁵ f. 120 350² ff. 3 v 4 v 6 r.

d) atti e documenti:

Anonimo 339¹¹.

VI. Etica, politica:

as-Suhrawardī, massime morali 349⁵.

Zaynaddīn Ibn al-Wardī, Naṣiḥat al-iḥwān 352⁸.

Comm.: di anonimo, ibid.

al-Mahdī Ibn al-Murtaḍā, Ḥayāt al-qulūb 341⁵.

al-Hādī Yaḥyā b. al-Ḥusayn, Waṣiyya 341³.

Frammento di un trattato anonimo di etica zaydita 349⁴

Waṣiyyat an-nabī li-mawlānā 'Alī 373³.

Anonimi 334⁸ App. V.

VII. Filosofia:

Appunti di logica 339¹ ff. 13 r e v.

VIII. Matematica, metrologia:

aṭ-Ṭalā'i, Mufīd fī ma'rifat al-ḥisāb 305^{6 b}.

aš-Šardafī, Muḥtaṣar al-Hindī 305^{6 a}.

Muḥammad al-Ahdal, Kašf al-hamm 'an qā'idat mudd 'aġwa wa-dirham 337⁵.

Ibn al-Yāsaminī, al-Urgūza al-yāsaminīyya 350¹.

Frammenti vari 350² f. 3.

IX. Astronomia, cronologia, astrologia:

Našwān al-Ḥimyarī, Urgūza fī 'š-šuhūr ar-rūmiyya 352¹ f. 3 v.

al-Hāmili, Zill az-ziyāda.

Comm.: Muḥammad al-Ahdal, al-Qawl al-aḥrā 337¹.

Nubḍa min 'ilm al-falak 340⁶.

Anonimi 345^{1 2} App. III¹.

Tabelle e calendari 339²⁴ 340¹ 345⁶ f. 142 v.

Versi di contenuto astronomico 352¹ ff. 2 4 5.

Appunti vari 333^{5 a} 352⁹ f. 50 r.

Frammenti e appunti di astrologia 340² f. 26 v 345^{2 4} 345⁶ f. 142 r 352 f. 19 r.

X. Medicina, veterinaria, scienze naturali:

Ibn Sīna, Kifāyat al-murtāḍ 306^r.
id., al-Qānūn.

Comp.: Ibn an-Nafīs, al-Mūğiz.

Comm.: Anonimo App. I.

al-‘Āmirī, at-Tuḥfa al-ğāmi‘a li-mufradāt aṭ-ṭibb an-nāfi‘a 352^{ro}.

al-Māridīnī, ar-Risāla aš-šihābiyya 345^s.

Muḥammad al-Aḥdal, Risāla fī aḥkām al-mustahāḍa 337^r.

Muḥammad b. ‘Umar Baḥraq, Kāfiya dī ‘l-lubb fī uşūl ‘ilm aṭ-ṭibb.

Comm.: dell’A. 352^s.

Ricette 349^s ff. 57 v 60 v.

Appunti vari 349^s.

ad-Dimyāṭī, Faḍl al-ḥayl 368.

al-Malik al-Aşraf, al-Muğni fī ‘l-bayṭara 343.

Nomi yemeniti di piante 306^s ^a b.

Fā’ida fī ḥawāşş al-qāt 306^s ^a.

XI. Scienze occulte:

aş-Şarğī, al-Fawā’id 340^r App. III^r.

al-Marrākuşī, Ḥawāşş al-Burda App. IV.

Inārat al-‘ilm 340^s.

k. at-Taḍkira 352^{rs} (framm.).

Ğadwal ḥisāb al-ğālib wa‘l-mağlūb 333^{rb}.

Anonimi 340^r 345^r 352^{rs}.

Opera anonima di geomanzia 340^s.

Magia coranica 352^r f. 1 v 352^{rs} f. 132 v 355.

Quadrati magici 339^{rs} 349^r f. 2 v.

Ricette, formule e talismani 306^{sb} 340^r ff. 26 v 341^r f. 2 v 345^s f. 146 v

345^s 349^r ff. 58 r e v 59 v 352^{rs} ff. 108 v 110 v.

Versi anonimi sul valore magico delle lettere 305^s.

XII. Giuochi:

Ibn al-Habbāriyya, Urğūza fī ‘ş-şatranğ 333^{rc}.

XIII. Geografia:

al-Hamdānī, Şifat ğazīrat al-‘Arab 301.

Ibn al-Wardī, Ḥarīda 333^s.

XIV. Storia:

a) storia universale:

al-Kibsi, Ta’riḥ az-zamān 358.

al-Maqdisi, Estr. di Bad’ al-ḥalq 333^{sc}.

b) biografia:

‘Alī b. ‘Alī as-Sawādī, Rawḍat al-mağālis 357.

‘Umar b. Yūsuf, Ṭurfat al-aşḥāb 324.

al-‘Aydārūs, Şidq al-wafā’ 334^r.

al-Mahdī Ibn al-Murtaḍā, Tazyīn al-mağālis 349^s.

Ibn al-Wardī, Nubḍa min aḍ-Ḍahab al-masbūk 333^{sa}.

Karāmāt aş-şālihīn 333^{sd}.

Raccolta di aneddoti su santoni yemeniti 333^r.

Biografie: di Ibrāhīm b. Muḥammad Ibn al-Wazīr 314^r;

di as-Suyūṭī 333^{sf} f. 263 v;

di al-‘Aynī 308^{sa}.

Notizie: su Aḥmad al-Amīr b. Ḥaddām (?) 327 f. 14 r;

su Aḥmad b. Muḥammad an-Nāṭifī 308^{sb}.

su az-Zamaḥşarī 327 f. 13 v;

su Muḥammad b. Aḥmad as-Sarahşī 308^{sb}.

Genealogia: di Aḥmad b. ‘Aṭṭāf Ibn ‘Alawān 350^r f. 12 r;

di Muḥammad b. Aḥmad Şar‘ān, ibid.

c) Maometto, Compagni di Maometto:

al-Aşḥarī, Wurayqa fī ḍikr man fī ‘ş-Şaḥīḥayn huwa wa-abūhu şaḥā-
biyyān 350^r f. 10 v.

Anonimi 345^r (framm.) 363^s (framm.).

d) ‘Alī e ‘Alidī:

al-Mahdī Ibn al-Murtaḍā, Sīrat Amīr al-mu‘minīn 319^r.

Faḍā’il Amīr al-mu‘minīn 335^{ro}.

Taşnīf uḍn al-alma‘ī 339^{ro}.

al-Miswarī, al-Asbāṭ min walad al-Ḥasanayn 335^o.

ar-Raḍī, Nahğ al-balāğa.

Comm.: Ibn Abī ‘l-Ḥadīd 342^r (framm.).

Abū Bakr al-Ḥuwārizmī, Risāla (sull’ahl al-bayṭ) 335^{ra}.

e) Yemen:

al-Ānisi, Iṭḥāf ḍawī ‘l-fiṭan 361 365.

Ḥumayd al-Maḥallī, al-Ḥadā’iq al-wardiyya.

Compl.: Ibn az-Zuḥayf, Ma’āṭir al-abrār 314^r.

ad-Dayba’, Qurrat al-‘uyūn 360^r 372.

ar-Rāzī, Ta’riḥ Şan‘ā’ 342^s.

ar-Raşīd, Buğyat al-murīd 315.

- 'Abdallāh b. 'Alī Ibn al-Wazīr, Ġāmi' al-mutūn 356.
 al-Kibsi, Ta'riḥ az-zamān 358.
 id., al-Laṭā'if as-saniyya 362 364.
 Muḥammad al-Habal, Rawḍat al-maytā' 316².
 Mahdī Amīn aṣ-Ṣāfi, Taqwīm 'aġīb Yaman 326.
 al-Mawza'i, al-Iḥsān 360².
 an-Nātiq al-Buḥānī, al-Ifāda 335³.
 al-Hamdānī, al-Iklil (vol. 8^o) 322, id. (vol. 10^o) 323.
 Ibn Ḥābis (?), ar-Risāla an-nāṣiḥa 335¹⁶.
 Qāsim b. Aḥmad, Risāla wā'iḥa 339⁹.
 Yaḥyā al-Quraṣī, Risāla 339^{16 20}.
 Risāla fī ḍamm ahl aṣ-Ṣām 339¹².
 Lettere e proclami di imām zayditi 314³ ff. 165 r 166 v 335^{8 10 12 15 17}
 339^{10 13 21}.
 Qaṣīde storiche:
 As'ad Tubba', Qaṣīda 363.
 Naṣwān al-Ḥimyarī, al-Qaṣīda al-ḥimyarīyya 334⁹ (framm.).
 Comm.: di anonimo, Ḥulāṣat as-siyar.
 Estr.: di anonimo, 'Iqd ad-durar 363³.
 Ibn al-Wazīr, al-Bassāma.
 Comm.: Ibn az-Zuḥayf, Ma'āṭir al-abrār 314¹.
 Ibn Muẓaffar 319^{2 b}.
 Biografia di an-Nāṣir al-Mu'ayyadī 335⁵.
 Band min sirat al-imām al-Mutawakkil Yaḥyā 314³.
 Frammenti con notizie 314¹ ff. 9 r 10 v.

XV. Grammatica, lessicografia:

- al-Āġurrūmī, al-Muqaddima al-Āġurrūmiyya.
 Comm.: al-Azharī, Ṣarḥ al-Āġurrūmiyya 344⁶.
 id., I'rāb al-Āġurrūmiyya 344¹.
 'Abdalḥāliq al-murjāji, Faḥ al-bāb 344⁸.
 al-'Amrīṭī, ad-Durra al-bahiyya 344⁵.
 Ibn Ġamā'a, Ġāyat al-amānī 310².
 al-Ḥarīrī, Durrat al-ġawwāṣ 339²² (framm.).
 id., Muḥat al-i'rāb 344¹.
 al-Ḥaṭṭāb ar-Ru'aynī, Mutammimat al-Āġurrūmiyya.
 Comm.: al-Fākihī, al-Fawākih al-ġaniyya 310⁶.
 Ibn Durayd, Qaṣīda fī 'l-maqṣūr wa'l-māmdūd 342⁷.
 az-Zamahṣārī, al-Unmūḍaġ 310³.
 id., al-Mufaṣṣal 310⁵ 321.
 Zaynaddīn Ibn al-Wardī, at-Tuḥfa 344².

- Ibn Mālik, Qaṣīda sui verbi di terza radicale debole 339³⁰.
 Quṭrub, al-Muṭallat.
 Versificazione: al-Bahnasī, al-Quṭrubīyya 345³.
 Muḥammad b. 'Abdallāh al-murjāji, Īnās al-aḥillā' 344⁹.
 Ibn Hišām, Qaṭr an-nadā.
 Comm.: al-Mirġanī, Daf' al-malām 353.
 Grammatica anonima delle lingue persiana, turca e mongola 367¹.
 Vocabolario persiano-turco 367².
 Frammenti e appunti vari 310^{1 4 c} 339¹ f. 12 r 344⁷ 352⁹ f. 52 v.

XVI. Retorica:

- Aḥmad Daḥlān, Risāla 337³.

XVII. Enciclopedia:

- Pseudo Muḥammad b. Ḥabīb, Estr. di Ra's māl an-nadīm 342⁶.

XVIII. Poesia:

- Ibn 'Abdūn, al-Bassāma.
 Comm.: Ibn Badrūn, Aṭwāq al-ḥamāma 319³.
 al-Buṣīrī, al-Burda.
 Tasbī': 'Abdallāh aṣ-Ṣāmī (?) 328³.
 Ibn Bahrān, Lāmiyya 328^{4 b}.
 Taḥmīs: di anonimo 317¹ f. 3.
 at-Tuġrā'i, Lāmiyyat al-'Aġam 328^{4 c} (framm.).
 'Abdallāh Ibn al-Wazīr, Aqrāṭ ad-dahab 325.
 Falīta: Estr. del Dīwān 334⁶.
 Ka'b b. Zuhayr, Bānat Su'ād 339¹⁷.
 Taḥmīs: framm. anonimo 317¹ f. 4 v.
 al-'Vitrī, Qaṣīda fī madḥ ḥayr al-bariyya 368 bis¹.
 Taḥmīs: al-Warrāq ibid.
 Versi di imām zayditi 314⁴ ff. 166 r 167 r e v 317¹ f. 10 r 341¹ ff. 6 v 7 v
 346 f. 120.
 Poesie o versi di singoli poeti e anonimi 307^{1 a} 314³ f. 168 v 317¹ ff. 7 r
 e v 10 r e v 318³ 327 f. 62 v 328^{1 4 a} 331 333^{2 a 7} 334^{5 9} 335^{4 7 11 13} 336
 ff. 129 v 157 r 337 f. 16 v 339¹ ff. 3 v 7 341¹ ff. 5 6 v 7 r 342³ 344 ff. 23 v
 116 v 345⁶ f. 146 350⁴ 351 f. 1 352¹ f. 5 v 352⁷ 352¹¹ f. 109 359⁹ f. 54 v
 363^{1 2} 368 bis¹.

XIX. Prosa ornata:

- al-Ḥarīrī, al-Maqāmāt.
 Comm.: di anonimo 349¹ (framm.).

Aḥmad b. 'Abdallāh az-Zafīrī, at-Tuḥaf al-maḥzūna wa'd-durar al-maknūna 338.

XX. Narrativa:

at-Ta'labī, Qiṣṣat Sulaymān wa-Bilqīs 359.
Mille e una notte: Ḥabar madīnat an-nuḥās 333⁶.
Racconti vari 335⁷ 336⁶ f. 156 v.

XXI. Manoscritti arabi cristiani:

Muḥtaṣar aš-šarī'a 366¹.
al-Qawānīn fī 'z-zīgāt 366².
al-Bānī, Rusūm Ġahannam App. II.

INDICE DEI NOMI DI PERSONA.

I nomi sono elencati secondo l'ordine dell'alfabeto arabo e secondo il prenome (*ism*), al quale si rimanda dalle altre denominazioni, con cui le persone sono eventualmente note. Nell'ordinamento alfabetico non contano al-, Ibn (b.), Abū e gli elementi onomastici messi in parentesi quadre. I numeri in carattere corsivo indicano che il nome è soltanto citato; quando si tratta degli autori delle opere contenute nei mss., i numeri sono in carattere tondo.

- Ibn Āgurrūm: Muḥammad b. Muḥammad.
al-Ānīsī: Aḥmad b. Aḥmad, Aḥmad b.
'Abdarrahmān, 'Abdarrahmān b. Yahyā,
'Abdalmalik b. Ḥusayn, Muḥammad b.
al-Muntaṣir.
Ibrāhīm b. Ḥalīd al-'Ulufī 305⁵ 329
339¹ f. 8 v.
Ibrāhīm b. 'Abdallāh al-Ḥasanī al-imām
335³.
Ibrāhīm b. 'Abdallāh al-Ġalībī 339²³.
Ibrāhīm b. 'Abdarrahmān b. Salama 327⁴.
Ibrāhīm b. 'Umar al-Ġa'barī 348
f. 119 v.
Ibrāhīm b. Muḥammad al-Ḥuṣaybarī
333¹.
Ibrāhīm b. Muḥammad Šar'ān 350^{4a}.
Ibrāhīm b. Muḥammad aš-Šahārī 352⁹
f. 50 v.
Ibrāhīm b. Muḥammad al-Hā'imī (?) 339¹⁷.
Ibrāhīm b. Muḥammad Ibn al-Wazīr
314¹ 314² 317¹ f. 10 r e v 317² 319^{2b}.
Ibrāhīm b. Yahyā as-Suḥūlī 334²
f. 152 r.
Aḥmad III 352⁷.
Aḥmad b. Aḥmad al-Ānīsī 316^{1c}.
Aḥmad b. Aḥmad aš-Šargī 340² App.
III².
Aḥmad b. Ismā'il al-'Ulufī 339¹ f. 7 v.
Aḥmad b. Ismā'il al-Malik an-Nā-
ṣir 360¹.
Aḥmad al-Amir b. Ḥaddām (?) 327 f. 14 r.
Aḥmad b. Ġābir al-Kusānī 335³.
Aḥmad Ḥablān (?) al-Ḥadramī 309².
Aḥmad b. al-Ḥasan Barakāt 327 f. 63 r.
Aḥmad b. al-Ḥasan al-Kannī 302².
Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Mutanabbī
334⁵.
- Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hamadānī
Badī' az-zamān 352⁹ f. 52 r.
Aḥmad b. Zaynī Daḥlān 337²³.
Aḥmad b. Sulaymān al-Hādī al-Mu-
tawakkil al-imām 317¹ f. 10 r.
Aḥmad b. Šālīḥ Ibn Abī 'r-Riḡāl
339²⁵.
Aḥmad b. 'Abdallāh b. Ḥamza 317¹ f. 7 r.
Aḥmad b. 'Abdallāh [b. Ismā'il] ad-Ḍana-
nīr (?) al-Wāqidī al-Ḥarīṭī 306^{3a}.
Aḥmad b. 'Abdallāh al-Bakrī 352⁶.
Aḥmad b. 'Abdallāh ar-Rāzī 342⁵.
Aḥmad b. 'Abdallāh [b. Yahyā] az-Zafīrī
338.
Aḥmad b. 'Abdallāh [b. Sa'id] al-Habal
316².
Aḥmad b. 'Abdallāh Ibn al-Wazīr
317¹ f. 7 r.
Aḥmad b. 'Abdarrahmān al-Ānīsī 331
ff. 14 v 16 r 17 v 23.
Aḥmad b. 'Abdalwāsī' al-Wāsī'ī 339 f. 1 r
339⁶.
Aḥmad b. 'Atṭāf Ibn 'Alawān 350²
f. 12 r.
Aḥmad b. 'Alī al-Iḥšīd 332.
Aḥmad b. 'Alī al-Buskarī 334⁷.
Aḥmad b. 'Alī Ibn Ḥaḡar al-'Asqa-
lānī 351 371.
Aḥmad b. 'Alī Muṣaḥḥam 339¹⁷.
Aḥmad b. 'Umar al-Ḥuṣaybarī 333¹.
Aḥmad b. 'Isā b. Zayd 302¹.
Aḥmad b. Muḥammad Bāḡābir 334⁷.
Aḥmad b. Muḥammad at-Ta'labī 333^{5a}
359.
Aḥmad b. Muḥammad at-Talā'ī 305^{6b}.
Aḥmad b. Muḥammad Ibn Ḥaḡar al-
Haytamī 309¹ 339²⁵ f. 123.

Ahmad b. Muhammad al-Ḥalidī 305⁷.
 Ahmad b. Muhammad [b. Ḥafṣ] al-Ḥal-
 lāl 332.
 Ahmad b. Muhammad [b. Hārūn] al-
 Ḥallāl 332.
 Ahmad b. Muhammad ar-Raṣṣāṣ 346.
 Ahmad b. Muhammad [b. Ṣalāḥ] aṣ-Ṣa-
 rafī 304 335¹⁵ 339¹⁶.
 Ahmad b. Muhammad aṭ-Ṭaḥāwī 339¹⁹.
 Ahmad b. Muhammad b. Fulayta (Fa-
 lita) 328¹ ff. 4r 6r 6 bis v 10v 334⁶.
 Ahmad b. Muhammad al-Kibsi 339¹⁴.
 Ahmad b. Muhammad al-Maḥṭūrī 352⁷
 f. 5v.
 Ahmad b. Muhammad [Sa'daddīn] al-Mis-
 warī 327 f. 14r 335^{4 5 7 9 11 13} 342³.
 Ahmad b. Muhammad المشرع 345⁶ f.
 146.
 Ahmad b. Muhammad an-Nāṭifi 308^{2 b}.
 Ahmad b. Muhammad Ibn al-Hā'im
 305⁴.
 Ahmad b. [al-Manṣūr] Muhammad b. al-
 Hādī 342¹.
 Ahmad Ibn Munīr aṭ-Ṭarābulusī
 ar-Raffā' 352¹¹ f. 109v.
 Ahmad b. Mūsā Ibn 'Uḡayl 345 f. 14r.
 Ahmad b. Hāšim [b. Rasūlallāh] al-Man-
 šūr bi-'llāh al-imām 339¹ f. 7v.
 Ahmad b. Yaḥyā Ibn Ḥābis ad-Daw-
 wārī 313 a 335¹⁶ (?) 346.
 Ahmad b. Yaḥyā Ibn al-Murtaḍā
 al-Mahdī al-imām 303, 305⁵ 311
 f. 276r 317² f. 10v 317² 319¹ 332 335¹⁷
 339²¹ 341¹ f. 6r 341^{2 5} 349⁶.
 Ahmad b. Yaḥyā an-Nāšir al-imām
 335³.
 al-Aḥnaf b. Qays 341¹ f. 5.
 al-Aḥḍarī: aṣ-Ṣadr b. 'Abdarrahmān.
 al-Azharī: Ḥalīd b. 'Abdallāh.
 Ishāq b. Yūsuf aṣ-Ṣardafī 305^{6 a}.
 As'ad Kāmil Tubba' 363⁴.
 [Pseudo] al-Iskandar (Alessandro Magno)
 352¹¹.
 Ismā'il b. Abī Bakr al-Muqri' 337⁶
 352³.
 Ismā'il b. Ḥusayn Ḡaḡmān 339¹ f. 7.
 Ismā'il b. al-Qāsim al-Mutawakkil
 'alā 'llāh al-imām 307³ 334² 349²
 f. 3.
 Ismā'il b. Muhammad al-Ḥaḍramī 334⁸.

Ismā'il b. Muhammad al-Mukarramī 339⁷.
 al-Aṣḥar: Muhammad b. Abī Bakr.
 al-Uṭrūš: al-Ḥasan b. 'Alī.
 Akmal al-Maḡlisī: Muhammad b. Muham-
 mad.
 al-Akwa': al-Ḥasan b. Muhammad, Zayd
 b. 'Abdallāh.
 al-Amīr: Muhammad b. Ismā'il.
 al-Anbārī: Muhammad b. al-Qāsim.
 al-Anṣārī: Zakariyyā' b. Muhammad.
 al-Ahdal: Sulaymān b. Yaḥyā, 'Abdalbāqī
 b. 'Abdarrahmān, Muhammad b. Ahmad,
 Muhammad b. 'Abdarrahmān, Muham-
 mad b. Muhammad.
 al-Ūšī: 'Alī b. 'Uṭmān.
 al-Bānī: Yūsuf b. Ġirḡis.
 al-Bahrānī: 'Abdallāh b. Nūrallāh.
 Baḥraq: Muhammad b. 'Umar.
 Badr b. 'Umar as-sultān 334⁸.
 Ibn Badrūn: 'Abdalmalik b. 'Abdallāh.
 Badī' az-zaman: Ahmad b. al-Ḥusayn.
 Barakāt: Ahmad b. al-Ḥasan.
 al-Buskarī: Ahmad b. 'Alī.
 al-Baṭṭāḥ: Yūsuf b. Muhammad.
 al-Buḥḥānī: Yaḥyā b. al-Ḥusayn.
 al-Baḡawī: al-Ḥusayn b. Mas'ūd.
 Abū Bakr b. Ibrāhīm al-Ḥuṣaybarī
 333⁷.
 Abū Bakr b. Ibrāhīm ad-Dahl 333⁷.
 Abū Bakr b. 'Alī Ibn Ḥiḡḡa al-Ḥa-
 mawī 334⁹.
 Abū Bakr b. 'Alī al-Hāmīlī 337¹ 345¹
 ff. 10r 14r 24r 30v 34r.
 al-Bakrī: Ahmad b. 'Abdallāh, Muhammad
 b. 'Abdarrahmān, Muṣṭafā b. Kamālad-
 din.
 Ibn Bahrān: Muhammad b. Yaḥyā, Mūsā
 b. Yaḥyā.
 al-Bahnasī: 'Abdalwahhāb b. al-Ḥasan.
 al-Būširī: Muhammad b. Sa'īd.
 al-Bayḍawī: 'Abdallāh b. 'Umar.
 al-Bayhaqī: al-Muḥsin b. Muhammad.
 Tubba': As'ad Kāmil.
 at-Taftazānī: Mas'ūd b. 'Umar.
 at-Tilimsānī: Šu'ayb b. al-Ḥasan.
 aṭ-Ta'labī: Ahmad b. Muhammad.
 aṭ-Talā'i: Ahmad b. Muhammad.

al-Ḡubbā'i: Muhammad b. 'Abdalwahhāb.
 al-Ḡaḥḥāfi: al-Ḥusayn b. Zayd, Yaḥyā b.
 b. Ibrāhīm.
 al-Ḡurmūzī: al-Ḥusayn b. al-Muṭahhar, al-
 Muṭahhar b. Muhammad.
 Ibn al-Ḡazārī: Muhammad b. Muhammad.
 Ḡa'far b. Ḥarb 332.
 Abū Ga'far ar-Ru'āsī 342⁷.
 al-Ḡu'fī: al-Mufaḍḍal b. 'Umar.
 al-Ḡalāl: al-Ḥasan b. Ahmad.
 Ibn Gamā'a: Muhammad b. Abī Bakr.
 Ibn al-Ḡawzī: 'Abdarrahmān b. 'Alī.
 al-Ḡilī: 'Abdalqādir b. 'Abdallāh.
 Ibn Ḥābis ad-Dawwārī: Ahmad b. Yaḥyā.
 al-Ḥāḡirī: 'Abdarrahīm b. 'Alī, 'Isā b.
 Saḡar.
 Ḥāḡizī (?) 328¹ f. 3r.
 Ḥāmid b. al-Ḥasan Šakir 329.
 Ḥāmid b. Muhammad al-Ḥudūrī 347.
 Ibn Ḥiḡḡa al-Ḥamawī: Abū Bakr b. 'Alī.
 al-Ḥāḡḡāḡ b. Yūsuf 321 f. 87r.
 Ibn Ḥaḡar al-Asqalānī: Ahmad b. 'Alī.
 Ibn Ḥaḡar al-Haytamī: Ahmad b. Muham-
 mad.
 Ibn Abī'l-Ḥadīd: 'Abdalḥamid b. Hibatallāh.
 al-Ḥurr al-Āmīlī: Muhammad b. al-Ḥasan.
 al-Ḥarīrī: al-Qāsim b. 'Alī.
 al-Ḥasan b. Ahmad al-Ḡalāl 334⁹.
 al-Ḥasan b. Ahmad al-Ḥaymī 307³
 334² ff. 148v 159r.
 al-Ḥasan b. Ahmad Ibn Muttawayh
 320.
 al-Ḥasan b. Ahmad al-Hamdānī 301
 322 323.
 al-Ḥasan b. Ismā'il Šibām al-Mukarramī
 339⁷.
 al-Ḥasan b. al-Ḥusayn al-Hāšimī 345¹
 ff. 11r 25v.
 al-Ḥasan b. al-Ḥamza [Šarafaddīn] al-
 Kaḥlānī 335²⁰.
 al-Ḥasan b. Ṣalāḥ ad-Dā'i 339²⁰.
 al-Ḥasan b. 'Alī al-Uṭrūšan-Nāšir
 li'l-ḥaqq 335¹ 335³.
 al-Ḥasan b. 'Alī b. Abī Ṭalīb 335^{3 14} 374².
 al-Ḥasan b. 'Alī aṭ-Ṭuḡrā'i 328^{4 c}.
 al-Ḥasan b. 'Alī al-Mu'ayyadī an-
 Nāšir al-imām 335⁵ 335⁶.
 al-Ḥasan b. [al-Manṣūr] al-Qāsim b. Mu-
 ḥammad 335¹³.
 al-Ḥasan b. Muhammad al-Akwa' 345⁶.

al-Ḥasan b. Muhammad al-Ḥuṣaybarī
 333⁷.
 al-Ḥasan b. Muhammad ar-Raṣṣāṣ
 318².
 al-Ḥasan b. Muhammad al-Mukarramī 339⁷.
 al-Ḥasan b. Muhammad al-Manṣūr
 bi-'llāh al-imām 335¹⁶.
 al-Ḥasan b. Muhammad an-Naḥwī
 311 a.
 al-Ḥasan b. Yaḥyā as-Suḥūlī 334²
 f. 152r.
 al-Ḥusayn b. Ahmad ad-Ḍaḡyānī 339¹ f.
 13r.
 al-Ḥusayn b. Ismā'il Ḡa'mān 339².
 al-Ḥusayn b. Zayd Ḡaḥḡāf 345⁶.
 al-Ḥusayn b. 'Abdallāh Ibn Sinā 306¹.
 al-Ḥusayn b. 'Abdarrahmān al-Ḡafri 350³
 f. 76r.
 al-Ḥusayn b. 'Alī b. Abī Ṭalīb 335³ 374¹.
 al-Ḥusayn b. 'Alī al-Faḥḡī al-imām 335³.
 al-Ḥusayn b. 'Alī al-Kibsi 339² f. 15v.
 al-Ḥusayn b. 'Alī al-Wazīr al-Maḡ-
 ribī 335 f. 172v.
 al-Ḥusayn b. [al-Manṣūr] al-Qāsim 327⁴
 335¹¹.
 al-Ḥusayn b. Muhammad al-Mu'ayyadī 339¹
 ff. 12v 13r.
 al-Ḥusayn b. Mas'ūd al-Baḡawī 314³.
 al-Ḥusayn b. al-Muṭahhar al-Ḡurmū-
 zī 317¹ f. 9r.
 al-Ḥusayn b. Yaḥyā as-Suḥūlī 334²
 f. 152r.
 al-Ḥuṣaybarī: Ibrāhīm b. Muhammad, Aḥ-
 mad b. 'Umar, Abū Bakr b. Ibrāhīm,
 al-Ḥasan b. Muhammad, 'Abdallāh b.
 Ahmad, 'Umar b. 'Umar, 'Isā b. Muham-
 mad.
 Ḥiḍr b. 'Aṭā'allāh al-Mawṣilī 327 f. 13v.
 Ḥafṣ b. Sulaymān 336².
 Ḥafṣ b. 'Abdal'azīz ad-Dawrī 336¹.
 al-Ḥillī: 'Abdal'azīz b. Sarāyā.
 al-Ḥamawī: Abū Bakr b. 'Alī Ibn Ḥiḡḡa.
 Ḥumayd b. Ahmad al-Maḡallī 314⁷
 352⁵.
 Ḥamidaddīn: Muhammad b. Yaḥyā.
 al-Ḥimyarī: Naṣwān b. Sa'īd.
 al-Ḥaymī: al-Ḥasan b. Ahmad.
 Ḥalīd b. Bahrām 338.
 Ḥalīd b. 'Abdallāh al-Azharī 344^{4 6}.
 al-Ḥalīdī: Ahmad b. Muhammad.

al-Ḥabişi: Muḥammad b. Abī Bakr.
 al-Ḥazraġi: 'Alī b. al-Ḥasan Ibn Wahhās.
 al-Ḥaṭṭāb: Muḥammad b. Muḥammad ar-Ru'aynī.
 al-Ḥallāl: Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥafṣ, Aḥmad b. Muḥammad b. Hārūn.
 al-Ḥuwārizmī: Muḥammad b. Aḥmad, Muḥammad b. al-'Abbās.
 Ḥawla bint al-'Azwar 331 f. 18 v.
 ad-Dāni: 'Uṭmān b. Sa'īd.
 Dāwūd b. Yūsuf al-Malik al-Mu'ayyad 334⁶.
 Daḥlān: Aḥmad b. Zaynī.
 Ibn Durayd: Muḥammad b. al-Ḥasan.
 ad-Dimyātī: 'Abdalmu'min b. Ḥalaf, Nūraddīn (Aṣiladdīn).
 ad-Dawwārī: Aḥmad b. Yaḥyā Ibn Ḥābis.
 ad-Dawrī: Ḥafṣ b. 'Abdal'azīz.
 ad-Dayba': 'Abdarrahmān b. 'Alī, 'Alī b. Muḥammad.
 ad-Dīrīnī: 'Abdal'azīz b. Aḥmad.
 ad-Daylamī: Muḥammad b. al-Ḥasan.
 ar-Rāzī: Aḥmad b. 'Abdallāh.
 Ibn ar-Rā'ī 339¹⁶.
 Rabī' b. Sulaymān 335¹⁹.
 Ibn Abī'r-Riġāl: Aḥmad b. Šāliḥ.
 ar-Raḥbī Ibn al-Mutaqqina: Muḥammad b. 'Alī.
 Ibn Rasūlallāh: al-Qāsim b. Muḥammad, 'Isā b. Luṭfallāh.
 ar-Rašīd: 'Āmir b. Muḥammad.
 ar-Raṣṣās: Aḥmad b. Muḥammad, al-Ḥasan b. Muḥammad.
 ar-Riḍā: 'Alī b. Mūsā.
 ar-Ru'aynī: Muḥammad b. Muḥammad.
 ar-Raffā': Aḥmad Ibn Munir.
 ar-Ru'āsī: Abū Ġa'far.
 az-Zubayrī: Muḥammad b. Šāliḥ.
 az-Zaġġāġi: 'Abdarrahmān b. Ishāq.
 Ibn az-Zuḥayf: Muḥammad b. 'Alī.
 az-Zarkašī ('Ubaydallāh b. Muḥammad?) 339¹ f. 12 r.
 Ibn az-Zaqqāq 334 f. 229 v.
 Zakariyyā' b. Muḥammad al-Anšārī 336⁵.
 az-Zamaḥšarī: Maḥmūd b. 'Umar.
 Zayd b. al-Ḥasan al-Bayhaqī 302².
 Zayd b. al-Ḥasan al-Kindī Tāġaddīn 334⁹.
 Zayd b. Sahl 350 f. 1 r.

Zayd b. 'Abdallāh al-Akwa' 305⁵.
 Zayd b. 'Abdalwahhāb al-Masūḥī 333^{2a7}.
 Zayd b. 'Alī b. al-Ḥusayn b. 'Alī b. Abī Ṭalīb 335⁵.
 Zaynaddīn: 'Umar b. al-Muzaḥfar.
 Zaynaddīn b. Ġazzāl al-Malibārī 330.
 as-Saġāwandī: Muḥammad b. Ṭayfūr.
 as-Suḥūlī: Ibrāhīm b. Yaḥyā, al-Ḥasan b. Yaḥyā, al-Ḥusayn b. Yaḥyā.
 as-Saraḥsī: Muḥammad b. Aḥmad.
 Sa'ādāt b. 'Alī al-'Attārī 329 f. 164.
 Ibn as-Sikkīt: Ya'qūb b. Ishāq.
 Sulaymān b. Yaḥyā al-Ahdal 350² f. 4 v.
 as-Samāwī: 'Abdallāh b. 'Alī, 'Alī b. Aḥmad.
 Sinān as-Saġīr pāšā 335¹⁰.
 as-Sūdī: 'Abdalḥādī b. 'Alī.
 as-Suhrawardī: 'Umar b. Muḥammad, Maḥmūd b. Muḥammad.
 Ibn Sīnā: al-Ḥusayn b. 'Abdallāh.
 as-Suyūṭī: 'Abdarrahmān b. Abī Bakr.
 as-Šāfi': Muḥammad b. Idrīs.
 aš-Šarġī: Aḥmad b. Aḥmad.
 Šar'an: Ibrāhīm b. Muḥammad, Muḥammad b. Aḥmad.
 Šarafaddīn: Muḥammad b. Aḥmad al-Hādī.
 aš-Šarafī: Aḥmad b. Muḥammad.
 Šu'ayb b. al-Ḥasan at-Tilimsānī Abū Madyan 352⁴.
 aš-Šammā': 'Umar b. Aḥmad.
 aš-Šahārī: Ibrāhīm b. Muḥammad, 'Abdallāh b. Aḥmad, al-Muḥsin b. Aḥmad.
 Šāḥīb az-Za'farān: 'Abdallāh b. al-Ḥusayn. Šāliḥ b. 'Abdallāh b. al-Ḥasan 317¹ f. 10 v.
 aš-Šadr b. 'Abdarrahmān al-Aḥḍarī 352³.
 aš-Šardafī: Ishāq b. Yūsuf.
 aḍ-Ḍiġā'i: 'Uṭmān b. Aḥmad.
 Ṭālī' b. Sālim مسم 339⁸.
 aṭ-Ṭabarsī: al-Faḍl b. al-Ḥasan.
 aṭ-Ṭaḥāwī: Aḥmad b. Muḥammad.
 aṭ-Ṭuġrā'i: al-Ḥasan b. 'Alī.
 'Ašīm b. Abī'n-Nuġūd 336².
 'Āmir b. Muḥammad ar-Rašīd 315.
 al-'Āmirī: Yaḥyā b. Abī Bakr.
 al-'Abbās b. 'Abdarrahmān al-Mu'ayyad bi-'llāh al-imām 339⁸.

al-'Abbās b. 'Alī al-Malik al-Afdal 339¹⁶.
 al-'Abbāsī: 'Abdarrahīm b. 'Abdarrahmān. 'Abdallāh b. Aḥmad al-Ḥaḍramī 334⁷.
 'Abdallāh b. Aḥmad aš-Šahārī 352¹ f. 5 v.
 'Abdallāh b. Aḥmad العنثري 339⁸ 339²⁵.
 'Abdallāh b. Aḥmad al-Fākihi 310⁶.
 'Abdallāh b. Aḥmad al-Qiṣayṣī 328¹ f. 6 v.
 'Abdallāh b. Aḥmad مشكع 339¹ f. 13 r.
 'Abdallāh b. Aḥmad an-Nasafi 308¹.
 'Abdallāh b. As'ad al-Yāfi'ī 333^{5a}.
 'Abdallāh b. al-Ḥusayn Dulāma 339²⁵.
 'Abdallāh b. al-Ḥusayn Šāḥīb az-Za'farān 334⁴.
 'Abdallāh b. al-Ḥusayn (al-Ḥasan) Abū'l-Ġanā'im 335⁹.
 'Abdallāh b. Ḥamza al-Manšūr bi-'llāh al-imām 335¹⁶.
 'Abdallāh b. Zayd b. Sahl 350 f. 1 r.
 'Abdallāh b. Salām 333^{3b}.
 'Abdallāh aš-Šāmī ad-Dimašqī 328³.
 'Abdallāh b. 'Abbās 352⁹ f. 54 v.
 'Abdallāh b. 'Alī al-Ba'dānī 336⁴.
 'Abdallāh b. 'Alī as-Samāwī 334⁵.
 'Abdallāh b. 'Alī Ibn al-Wazīr 325 356.
 'Abdallāh b. 'Umar al-Bayḍāwī 328³.
 'Abdallāh b. 'Umar al-Maḍhiġī 348.
 'Abdallāh b. Abī'l-Qāsim Ibn Miftāḥ an-Naġ(a)rī 303 313 a.
 'Abdallāh b. Muḥammad [b. Ibrāhīm] Faḥraddīn 314³.
 'Abdallāh b. Muḥammad al-Manšūr 335⁷.
 'Abdallāh b. Muḥammad Ibn al-Yāsami'nī 350¹.
 'Abdallāh b. Marwān b. Muḥammad 335⁷.
 'Abdallāh al-Mazzāh 317¹ f. 7 r 328² ff. 3 v 7 r 12 r 14 r 15 r 342³ f. 44 r.
 'Abdallāh b. Muslim Ibn Qutayba 339³⁰.
 'Abdallāh b. Nūrallāh al-Baḥrānī 374¹.
 'Abdallāh b. [al-Mutawakkil] Yaḥyā 317¹ f. 7 v 331 f. 18 v.
 'Abdallāh b. Yūsuf b. Abī's-Šarīf 339²⁵.
 'Abdallāh b. Yūsuf Ibn Hišām 353.
 'Abdalbāqī b. 'Abdallāh al-'Adanī az-Zabīdī 348.
 'Abdalbāqī b. 'Abdarrahmān al-Ahdal 350² f. 12 r.

'Abdalġabbār b. Muḥammad al-Astarābādī 320.
 'Abdalḥamīd b. Aḥmad Ibn al-Mu'āfā 303.
 'Abdalḥamīd b. Hibatallāh Ibn Abī'l-Ḥadīd 335²⁰ 342².
 'Abdalḥāliq b. 'Alī المزجاني 344⁸.
 'Abdarrahmān b. Ibrāhīm al-'Alawī 328¹ f. 8 r 9 v.
 'Abdarrahmān b. Ishāq az-Zaġġāġī 310^{4a}.
 'Abdarrahmān b. Abī Bakr as-Suyūṭī 313 f. 1 r 327³ 333^{5a} 333^{5b} 339²⁵.
 'Abdarrahmān al-Ġabalī 328¹ f. 12 v.
 'Abdarrahmān b. 'Alī Ibn al-Ġawzī 333^{3a} 349⁶.
 'Abdarrahmān b. 'Alī ad-Dayba' 360¹ 372.
 'Abdarrahmān b. 'Umar al-Ḥubayšī 345 f. 54 r.
 'Abdarrahmān b. Yaḥyā al-Ānisī 331 f. 12.
 'Abdarrahīm b. 'Abdarrahmān al-'Abbāsī 352²⁹ f. 51 v.
 'Abdarrahīm b. 'Alī al-Ḥāġirī 340⁶.
 'Abdarrahīm al-Maḥzūmī al-Ḥufāšī 307^{2b}.
 'Abdassalām b. Idrīs al-Marrākušī App. IV.
 'Abdaššamad b. Ismā'il al-Mawza'ī 360².
 'Abdal'azīz b. Aḥmad ad-Dīrīnī 333^{3d}.
 'Abdal'azīz b. Taqīyyaddīn al-Ḥabīṭī (?) 330²⁵.
 'Abdal'azīz b. Zaynaddīn al-Malibārī 330.
 'Abdal'azīz b. Sarāyā al-Ḥillī 303.
 'Abdalġaffār b. 'Abdalkarīm al-Qazwīnī 337⁶.
 'Abdalġanī b. Ismā'il an-Nābulusī 352³.
 'Abdalġādir b. Aḥmad 339¹ f. 3 r.
 'Abdalġādir b. Šayḥ al-'Aydarūs 334⁷.
 'Abdalġādir b. 'Abdallāh al-Ġilī 352³.
 'Abdalġādir b. 'Alī al-Muḥayrisī 311 f. 276 r 334² ff. 156 r 158 v.
 'Abdalġādir b. 'Isā b. Mūsā al-Ḥiġāzī 307^{1a}.
 'Abdalġādir b. Muḥammad aš-Šāḍilī 333^{5b}.
 'Abdalkarīm b. Aḥmad al-Kawkabānī 331 f. 22 v.
 'Abdalmaġīd b. 'Abdalġaffār al-Astarābādī 302².

- 'Abdalmagīd Ibn 'Abdūn 319³.
'Abdalmalik b. al-Ḥusayn al-Ānīsī 361
365.
'Abdalmalik b. 'Abdallāh Ibn Badrūn
319³.
'Abdalmu'min b. Ḥalaf ad-Dimyāfi
368.
'Abdahlādī b. 'Alī as-Sūdī (as-Sawdī)
334⁹.
'Abdalwāsī' b. Yaḥyā al-Wāsī'ī 339⁶.
'Abdalwahhāb b. al-Ḥasan al-Bahnāsī
345³.
'Abdalwahhāb al-Maliki 334⁵.
Ibn 'Abdūn: 'Abdalmagīd.
'Ubaydallāh b. Aḥmad al-Mikālī 335
f. 172 v.
'Uṭmān b. Aḥmad aḍ-Ḍiḡā'ī 330 f. 181 v.
'Uṭmān b. Sa'id ad-Dānī 348 f. 120 r.
'Uṭmān b. 'Umar an-Nāšīrī 336¹.
'Uṭmān b. Muḥammad al-Ġaznawī
348 f. 119 v.
Ibn 'Ugayl: Aḥmad b. Mūsā.
'Izzaddīn b. al-Ḥasan al-Hādī al-imām
335¹⁶ 339¹⁶ 341¹ f. 7 v.
al-'Uṣayfiri: al-Faḍl b. Abī 's-Sa'd.
al-'Ulufi: Ibrāhīm b. Ḥālid, Aḥmad b.
Ismā'il.
Ibn 'Alawān: Aḥmad b. 'Aṭṭāf.
al-'Alawī ('Abdarrahmān b. Ibrāhīm ?) 328¹
ff. 8 r 9 v.
'Alawī al-Bašra: 'Alī b. Muḥammad.
'Alī b. Aḥmad al-Ḥuṣaybarī 333¹.
'Alī b. Aḥmad as-Samāwī 334⁵ 349
f. 4 r.
'Alī b. Aḥmad al-Kawkabānī 331 f. 14 r.
'Alī b. Aḥmad al-Habal 316².
'Alī b. Abī Bakr al-Margīnānī 308^{2c}.
'Alī b. Abī 'l-Ḥazm Ibn an-Nafīs
App. I.
'Alī b. al-Ḥasan Ibn Wahhās al-
Ḥazraḡī 360¹.
'Alī b. al-Ḥusayn b. Yaḥyā 312.
'Alī b. Dāwūd al-Malik al-Muḡā-
hid 334⁶.
'Alī b. Šalāḥ b. 'Alī al-Manšūr al-
imām 335¹⁷ 339²¹.
'Alī b. Abī Ṭālib al-Āmulī 302².
'Alī b. Abī Ṭālib Amīr al-mu'minīn 314⁴
321 f. 87 v 335¹⁷ 336⁶ f. 159 r 339²⁶
341¹ f. 6 v 374².
'Alī b. 'Abdallāh al-'Amrānī 331 f. 31 v.
'Alī b. 'Uṭmān al-Ūšī 302².
'Alī b. 'Alī as-Sawādī 357.
'Alī b. Muḥammad [b. Ibrāhīm] Ġamālād-
dīn 314³.
'Alī b. Muḥammad [b. Ġa'far] al-Ḥasanī
302².
'Alī b. Muḥammad ad-Dayba' 348
f. 122.
'Alī b. Muḥammad [b. al-Ḥasan] aš-Šaḡḡī
339¹ f. 12 v.
'Alī b. Muḥammad 'Alawī al-Bašra
363².
'Alī b. [Sulṭān] Muḥammad al-Qāri'
al-Harawī 354.
'Alī b. Muḥammad al-Mahdī al-imām
339²⁶ 352¹ f. 1 v.
'Alī al-Maḡribī 349⁹ f. 58 r.
'Alī b. Mūsā ar-Riḍā al-imām 335¹⁴
374².
'Alī b. Yaḥyā aḍ-Ḍānibī (?) 317¹.
'Alī b. Yaḥyā aḍ-Ḍamadī 334⁹.
Ibn al-'Imād 333^{5c}.
'Umar b. Aḥmad aš-Šammā' 319¹.
'Umar b. al-Ḥaṭṭāb 314³.
'Umar b. 'Abdal'azīz 321 f. 87 r.
'Umar b. 'Umar al-Ḥuṣaybarī 333¹.
'Umar b. Muḥammad as-Suhrawardī
349⁴.
'Umar b. Muḥammad an-Nasafī App.
VII.
'Umar b. al-Muzaḡfar [b. Aḥmad] Ibn
al-Wardī Sirāḡaddīn 333³.
'Umar b. al-Muzaḡfar [b. 'Umar] Ibn al-
Wardī Zaynaddīn 333³ 344² 352⁸.
'Umar b. Yūsuf al-Malik al-Ašraf
324 343.
al-'Amriṭī: Yaḥyā b. al-Ḥasam.
al-'Awwām 328¹ f. 1 v.
'Iyāḍ b. Mūsā al-Yaḥṣubī 354.
al-'Aydārūs: 'Abdalqādir b. Šayḡ.
'Isā b. Saḡar al-Ḥāḡiri 328¹.
'Isā b. Luṭfallāh Ibn Rasūlallāh 341¹ f. 6 v.
'Isā b. Muḥammad al-Ḥuṣaybarī
333¹.
'Isā b. Minā' Qālūn 336¹⁴ 348.
al-'Aynī: Maḡmūd b. Aḥmad.
al-Ġaznawī: 'Uṭmān b. Muḥammad.
al-Ġazzī: Muḥammad b. Muḥammad.
Abū 'l-Ġanā'im: 'Abdallāh b. al-Ḥusayn.

- al-Fākihi: 'Abdallāh b. Aḥmad.
al-Faḍl b. al-Ḥasan aṭ-Ṭabarsī 335¹⁴.
al-Faḍl b. Abī 's-Sa'd al-'Uṣayfiri
305² 305⁷ 341⁴.
al-Falakī: Muḥammad b. Šalāḡ.
Fulayta: Aḥmad b. Muḥammad.
al-Fayyūmī 328¹ f. 9 r.
al-Qāri' al-Harawī: 'Alī b. Muḥammad.
al-Qāsim b. Ibrāhīm al-imām 335³ 335¹⁵.
al-Qāsim b. Aḥmad b. Zayd b. al-Muṭah-
har 339⁹.
al-Qāsim b. 'Alī al-Ḥarīrī 303 338
339²² 344¹ 349¹ 352¹¹ f. 104 v.
al-Qāsim b. Muḥammad al-Manšūr
bi-'llāh al-imām 304 316² f. 7 r 317¹
f. 10 v 328² 334¹ 335^{10 15} 335¹⁶ 339¹ f. 3 v
339³ 339⁹ 356.
Qālūn: 'Isā b. Minā'.
Ibn Qutayba: 'Alī b. Muslim.
al-Qurašī: Yaḥyā b. al-Ḥasan.
Qurayš b. Muḥammad al-Qazwīnī 374^{1 2}.
al-Qazwīnī: 'Abdalḡaffār b. 'Abdalkarīm,
Qurayš b. Muḥammad.
al-Quḍā'i: Muḥammad b. Salama.
Quṭrub: Muḥammad b. Aḥmad.
al-Kāzim: Mūsā b. Ġa'far.
al-Kībsī: Aḥmad b. Muḥammad, al-Ḥusayn
b. 'Alī, Muḥammad b. Ismā'il.
al-Kisā'i: Muḥammad b. 'Abdallāh.
Ka'b b. Zuhayr 317¹ f. 4 v 339¹⁷.
al-Laḡmī: Muḥammad b. Aḥmad.
Luṭfallāh b. 'Alī b. Luṭfallāh 327 f. 62 v.
al-Māridīnī: Muḥammad b. Ibrāhīm.
[Sībṭī] al-Māridīnī: Muḥammad b. Muḥam-
mad.
Ibn Mālik: Muḥammad b. 'Abdallāh.
al-Mubarrad: Muḥammad b. Yazīd.
al-Mutanabbī: Aḥmad b. al-Ḥusayn.
al-Mutawakkil 'alā 'llāh: Aḥmad b. Sulay-
mān, Ismā'il b. al-Qāsim, al-Muḥsin b.
Aḥmad, Yaḥyā b. Aḥmad, Yaḥyā b. Mu-
ḥammad.
Ibn Muttawayh: al-Ḥasan b. Aḥmad.
Muḡriz b. Ḥalaf b. Ṭābit 352⁴.
al-Muḡsin b. Aḥmad aš-Sahārī al-qāḍī 339².
al-Muḡsin b. Aḥmad aš-Šahārī al-
Mutawakkil al-imām 339² 339^{9 11}.
Muḡsin b. 'Abbās b. Ismā'il 339¹².
al-Muḡsin b. Muḥammad al-Bayhaqī
335 f. 172 v.
al-Maḡallī: Ḥumayd b. Aḥmad, Muḥammad
b. Aḥmad.
Muḥammad b. Ibrāhīm Badraddīn 314³.
Muḥammad b. Ibrāhīm al-Ḥasanī al-imām
335³.
Muḥammad b. Ibrāhīm al-Māridīnī
345⁵.
Muḥammad b. Ibrāhīm Ibn al-Wazīr
327¹ 342³.
Muḥammad b. Ibrāhīm Ibn al-Wazīr
al-Hādī 317¹ f. 7 r 335² 342³.
Muḥammad b. Aḥmad al-Ahdal 337^{1 5}.
Muḥammad b. Aḥmad al-Ḥuwārizmī
352⁹ f. 52 v.
Muḥammad b. Aḥmad as-Saraḡsī
308^{2b}.
Muḥammad b. Aḥmad Šar'ān 350² f. 12 r.
Muḥammad b. Aḥmad al-'Anbas 335¹².
Muḥammad b. Aḥmad Quṭrub 345³.
Muḥammad b. Aḥmad al-Laḡmī 342⁷.
Muḥammad b. Aḥmad al-Maḡallī 309¹.
Muḥammad b. Aḥmad Muṣaḡḡam 327³.
Muḥammad b. Aḥmad Ibn Muzaḡfar
319².
Muḥammad b. Aḥmad an-Nāzirī 305².
Muḥammad b. Aḥmad al-Hādī Šaraf-
addīn al-imām 339^{12 18 27}.
Muḥammad b. Aḥmad al-Habal 316².
Muḥammad b. Idrīs ar-Rāzī 355.
Muḥammad b. Idrīs aš-Šāfi'ī 337 f. 16 v.
Muḥammad b. Usāma 335¹⁸.
Muḥammad b. Iṣḡāq Ibn an-Nadīm 332.
Muḥammad b. Ismā'il al-Amīr 313 b
339²⁵ 371.
Muḥammad b. Ismā'il al-Kībsī 339²
358 362 364.
Muḥammad b. Ismā'il al-Mu'ayyad
bi-'llāh al-imām 316² f. 86 v 335⁸.
Abū Muḥammad b. Barakāt b. Muḥammad
314³ f. 165.
Muḥammad b. Abī Bakr al-Aṣḡar 333^{5a}
350² f. 10 v.
Muḥammad b. Abī Bakr Ibn Ġamā'a
310².
Muḥammad b. Abī Bakr al-Ḥabišī 339¹.
Muḥammad b. Abī Bakr al-Witri 328^{4a}
368 bis¹.

- Muhammad al-Bakrî 317¹ f. 7v.
 Muhammad b. Ga'far b. 'Alî al-Ḥasanî 302².
 Muhammad b. Ḥabîb al-Bagdâdî 342⁶.
 Muhammad b. al-Ḥasan al-Ḥurr al-
 'Āmîlî 374¹.
 Muhammad b. al-Ḥasan al-Ḥuṣaybarî 333¹.
 Muhammad b. al-Ḥasan Ibn Durayd 342⁷.
 Muhammad b. al-Ḥasan Dallâl 331 f. 10v.
 Muhammad b. al-Ḥasan ad-Daylamî 339³.
 Muhammad b. al-Ḥasan b. [al-Manşūr] al-Qāsim 334² f. 154r 339¹ f. 2v.
 Muhammad b. al-Ḥasan al-Kalā'î 323.
 Muhammad b. al-Ḥasan al-Mahdî al-imām 335³.
 Muhammad b. Ḥaḍîr al-Başrî 350³ f. 26r.
 Muhammad Ibn Dihqān 310⁴.
 Muhammad b. Sa'îd al-Būşîrî 328³.
 Muhammad as-Salāmî Badraddîn 339¹ f. 11.
 Muhammad b. Salama al-Qudā'î 334⁸.
 Muhammad b. Şālîḥ az-Zubayrî 350³.
 Muhammad b. Şālîḥ Ibn al-Ḥabbārîyya 333^{2c}.
 Muhammad b. Şalāḥ [b. Yaḥyā] العطارى 317¹.
 Muhammad b. Şalāḥ al-Falakî 317¹ f. 6v 334⁸ f. 154r.
 Muhammad b. Şalāḥ Muşahḥam 339¹².
 Muhammad b. Şalāḥ b. Mahdî b. Mudā'is (?) 336³.
 Muhammad b. Tayfūr as-Sağāwandî 342⁸ 348 f. 119v.
 Muhammad b. al-'Abbās al-Ḥuwārizmî 335²¹.
 Muhammad b. 'Abdallāh b. al-Ḥusayn 316^{1b}.
 Muhammad b. [al-Manşūr] 'Abdallāh b. Ḥamza 317¹ f. 7r.
 Muhammad b. 'Abdallāh 'Izzaddîn Ḥabîbal-lāh 339³.
 Muhammad b. 'Abdallāh al-Kisā'î 359.
 Muhammad b. 'Abdallāh Ibn Mālik 339³⁰.
 Muhammad b. 'Abdallāh [b. Muhammad] المزجاجى 344⁹.
 Muhammad b. 'Abdallāh Ibn Abî 'n-Nağm 335¹⁴.
 Muhammad b. 'Abdallāh an-Nafs az-zakiyya 335³.
 Muhammad b. 'Abdallāh [b. al-Hādî] Ibn al-Wazîr 317¹ f. 10r.
 Muhammad b. 'Abdallāh al-Wazîr al-Manşūr bi-'Ilāh al-imām 339¹⁰ 339¹² 339¹³ 347.
 Muhammad b. 'Abdallāh b. [al-imām] Yaḥyā 331 ff. 15v.
 Muhammad b. 'Abdarrahmān al-Ahdal 353.
 Muhammad b. 'Abdarrahmān al-Bakrî 350^{4b} 352⁶ (?).
 Muhammad b. 'Abdal'azîz al-Warrāq 368 bis¹.
 Muhammad b. 'Abdallaṭîf Maḥdūmzādê 334⁷.
 Muhammad b. 'Abdalwāḥîd an-Nuzaylî 307^{2a}.
 Muhammad b. 'Abdalwahhāb al-Ġubbā'î 332.
 Muhammad b. 'Uṭmān al-Mîrgānî 353.
 Muhammad 'Izza pāşā 358.
 Muhammad b. 'Izzaddîn al-Muftî 334¹.
 Muhammad 'Afîr 328¹ f. 13r.
 Muhammad b. 'Alî ar-Raḥbî Ibn al-Mutaqqîna 344³.
 Muhammad b. 'Alî az-Zanātî 345² f. 38v.
 Muhammad b. 'Alî Ibn az-Zuḥayf 314¹².
 Muhammad b. 'Alî as-Sirāġî 339²⁵ ff. 122 124v.
 Muhammad b. 'Alî an-Nāşîr li-dîn Allāh 335².
 Muhammad b. 'Umar Baḥraq 352².
 Muhammad b. 'Umar Ğammāl (?) 334⁸.
 Muhammad b. 'Umar aş-Şaymarî 332.
 Muhammad b. 'Anqā' al-Yamanî 350² f. 12r.
 Muhammad b. Abî 'l-Ġayṭ al-Kamrānî 307^{2b}.
 Muhammad b. al-Qāsim al-Anbārî 342⁷.
 Muhammad b. al-Qāsim al-Mu'ayyad bi-'Ilāh al-imām 316² f. 26r 335⁸ 35.
 Muhammad b. Muhammad Ibn Āğurūm 310⁶ 344⁴ 344⁶ 8.
 Muhammad b. Muhammad al-Abşî 344⁷.
 Muhammad b. Muhammad Akmal al-Mağlisî 374¹.

- Muhammad b. Muhammad al-Ahdal 337¹.
 Muhammad b. Muhammad Ibn al-Ġazarî 336³ 336⁴.
 Muhammad b. Muhammad al-Ḥaṭṭāb ar-Ru'aynî 310⁶.
 Muhammad b. Muḥammad Sibṭ al-Māridîni 345⁵.
 Muhammad b. Muḥammad al-Ġazzî 344 f. 23v.
 Muhammad b. al-Muntaşîr al-Hadawî al-Ānisî (?) 341¹.
 Muhammad b. Manşūr al-Murādî 302¹.
 Muhammad b. Yaḥyā Ibn Baḥrān 307² 317¹ f. 3 328^{4b} 363⁵ (?).
 Muhammad b. Yaḥyā Ḥamîdaddîn al-Manşūr al-imām 331 f. 20 339².
 Muhammad b. Yaḥyā al-Murtaḍā al-imām 335³.
 Muhammad b. Yazîd al-Mubarrad 334⁵.
 Maḥmūd b. Aḥmad al-'Aynî 308¹ 308^{2ac}.
 Maḥmūd b. 'Umar az-Zamaḥşarî 310³ 310^{4a} 310⁵ 321 327 f. 13v 336⁶.
 Maḥmūd b. Muhammad al-Ġaznawî as-Suhrawardî 333⁴.
 al-Muḥayrisî: 'Abdalqādir b. 'Alî. Maḥdūm b. 'Abdal'azîz b. Zaynaddîn 330. Maḥdūmzādê: Muhammad b. 'Abdallaṭîf. Abū Maḥrama al-Ḥaḍramî 344³. Abū Miḥnaf 374¹.
 Abū Madyan: Şu'ayb b. al-Ḥasan. al-Maḍḥiġî: 'Abdallāh b. 'Umar. al-Murādî: Muhammad b. Manşūr. al-Murtaḍā: Muhammad b. Yaḥyā. Ibn al-Murtaḍā: Aḥmad b. Yaḥyā. al-Marġînānî: 'Alî b. Abî Bakr. al-Mazzālî: 'Abdallāh.
 Mas'ūd b. 'Umar at-Taftazānî App. VII.
 al-Masūḥî: Zayd b. 'Abdalwahhāb. al-Miswarî: Aḥmad b. Muhammad. Muşahḥam: Aḥmad b. 'Alî, Muhammad b. Aḥmad, Muhammad b. Şalāḥ. Muştafā b. Kamāladdîn al-Bakrî 352³. Ibn Maṭrūḥ: Yaḥyā b. 'Isā. al-Muṭahhar b. Ṭāḥîr al-Maqdisî 333^{3c}. al-Muṭahhar b. Muhammad b. Tāġaddîn 317¹ f. 10r.
 al-Muṭahhar b. Muhammad al-Ġurmūzî 317¹ f. 9r.
 al-Muṭahhar b. Muhammad al-Wāṭiq bi-'Ilāh 319 (foglietto volante tra f. 104 e f. 105) 328¹ f. 14v (?) 334⁵.
 al-Muṭahhar b. [al-Mutawakkil] Yaḥyā b. Aḥmad 314³.
 Abū Muṭlaq (?) 331 ff. 11 34.
 Ibn Muzaḥfar: Muhammad b. Aḥmad, Yaḥyā b. Aḥmad.
 al-Muzaḥfar al-Marwazî 352⁹ f. 51v.
 Ibn al-Mu'āfa: 'Abdalḥamîd b. Aḥmad. Mu'āwiya b. Sufyān 331 f. 2r 335¹⁷.
 Ibn Miṭṭāḥ: 'Abdallāh b. Abî 'l-Qāsim. al-Muftî: Muhammad b. 'Izzaddîn. al-Mufaḍḍal b. 'Umar al-Ġu'fî 374¹.
 al-Maqdisî: al-Muṭahhar b. Ṭāḥîr. al-Muqri': Ismā'îl b. Abî Bakr. al-Malik al-Aşraf: 'Umar b. Yūsuf. al-Malik al-Afḍal: al-'Abbās b. 'Alî. al-Malik al-Muġāḥid: 'Alî b. Dāwūd. al-Malik al-Mu'ayyad: Dāwūd b. Yūsuf. al-Malik an-Nāşîr: Aḥmad b. Ismā'îl. al-Malibārî: Zaynaddîn b. Ġazzāl, 'Abdal-'azîz b. Zaynaddîn.
 al-Manşūr bi-'Ilāh: Aḥmad b. Ḥāşim, al-Ḥasan b. Muhammad, 'Abdallāh b. Ḥamza, 'Abdallāh b. Muhammad, 'Alî b. Şalāḥ, al-Qāsim b. Muhammad, Muhammad b. 'Abdallāh, Muhammad b. Yaḥyā. al-Mahdî: Aḥmad b. Yaḥyā, 'Alî b. Muhammad, Muhammad b. al-Ḥasan. Mahdî Amîn aş-Şāfî 326.
 al-Mawza'î: 'Abdaşşamad b. Ismā'îl. Mūsā b. Ga'far al-Kāzim al-imām 374². Mūsā b. Yaḥyā Ibn Baḥrān 334⁹.
 al-Mu'ayyad bi-'Ilāh: al-'Abbās b. 'Abdarrahmān, Muhammad b. Ismā'îl, Muhammad b. al-Qāsim, Yaḥyā b. Ḥamza. al-Mu'ayyadî: al-Ḥasan b. 'Alî. al-Mîrgānî: Muhammad b. 'Uṭmān. al-Mikālî: 'Ubaydallāh b. Aḥmad.
 an-Nābulusî: 'Abdalġanî b. Ismā'îl. an-Nāşîrî: 'Uṭmān b. 'Umar. an-Nāşîr: Aḥmad b. Yaḥyā. an-Nāşîr li'l-ḥaqq: al-Ḥasan b. 'Alî. an-Nāşîr li-dîn Allāh: Muhammad b. 'Alî. an-Nāşîfî: Aḥmad b. Muhammad. an-Nāṭiq bi'l-ḥaqq: Yaḥyā b. al-Ḥusayn. an-Nāzîrî: Muhammad b. Aḥmad.

an-Nağ(a)rî: 'Abdallâh b. Abî 'l-Qâsim Ibn Miftâh.
 Ibn Abî 'n-Nağm: Muḥammad b. 'Abdallâh.
 an-Naḥwî: al-Ḥasan b. Muḥammad.
 Ibn an-Nadîm: Muḥammad b. Ishâq.
 an-Nasafî: 'Abdallâh b. Aḥmad, 'Umar b. Muḥammad.
 Naşwân b. Sa'id al-Ḥimyarî 334⁹ 352¹ f. 3 v 363³.
 an-Nafs az-zakiyya: Muḥammad b. 'Abdallâh.
 Ibn an-Nafs: 'Alî b. Abî 'l-Ḥazm.
 an-Nawâwî: Yaḥyâ b. Şaraf.
 Nûraddîn (Aşladdîn) ad-Dîmyâti 352³.
 al-Hâdî: Aḥmad b. Sulaymân, 'Izzaddîn b. al-Ḥasan, Muḥammad b. Ibrâhîm, Muḥammad b. Aḥmad, Yaḥyâ b. al-Ḥusayn.
 al-Hâşimî: al-Ḥasan b. al-Ḥusayn.
 al-Hâmîlî: Abû Bakr b. 'Alî.
 Ibn al-Hâ'im: Aḥmad b. Muḥammad.
 Ibn al-Habbâriyya: Muḥammad b. Şâlih.
 al-Habal: Aḥmad b. 'Abdallâh, 'Alî b. Aḥmad, Muḥammad b. Aḥmad.
 Ibn Hişâm: 'Abdallâh b. Yûsuf.
 al-Hamdânî: al-Ḥasan b. Aḥmad.
 al-Hamađânî: Aḥmad b. al-Ḥusayn.
 al-Wâtiq bi-'llâh: al-Muḥahhar b. Muḥammad.
 al-Wâsî'î: Aḥmad b. 'Abdalwâsî', 'Abdalwâsî' b. Yaḥyâ.
 al-Witrî: Muḥammad b. Abî Bakr.
 al-Warrâq: Muḥammad b. 'Abdal'azîz.
 Ibn al-Wardî: 'Umar b. al-Muzaḥhar Zaynaddin, 'Umar b. al-Muzaḥhar Sirâğaddin.
 Ibn al-Wazîr: Ibrâhîm b. Muḥammad, Aḥmad b. 'Abdallâh, 'Abdallâh b. 'Alî, Muḥammad b. Ibrâhîm, Muḥammad b. Ibrâhîm al-Hâdî, Muḥammad b. 'Abdallâh al-Wazîr al-Mağribî: al-Ḥusayn b. 'Alî.
 Ibn Wahhâs al-Ḥazrağî: 'Alî b. al-Ḥasan.

Ibn al-Yâsamîni: 'Abdallâh b. Muḥammad.
 al-Yâfi'î: 'Abdallâh b. As'ad.
 Yâqût b. Abdallâh al-Ḥamawî 302².
 Yaḥyâ b. Ibrâhîm al-Ġaḥḥâfî 316^{1a}.
 Yaḥyâ b. Aḥmad al-Mutawakkil al-imâm 314³ 334⁹ 342⁴.
 Yaḥyâ b. Aḥmad Ibn Muzaḥhar 311 b 319².
 Yaḥyâ b. Abî Bakr al-'Âmirî 352¹⁰.
 Yaḥyâ b. al-Ḥasan al-'Amriṭî 344⁵.
 Yaḥyâ b. al-Ḥasan al-Quraşî 318¹³ 339¹⁶ 20.
 Yaḥyâ b. al-Ḥusayn b. [al-Manşûr] al-Qâsim 327² 356.
 Yaḥyâ b. al-Ḥusayn b. [al-Mu'ayyad bi-'llâh] Muḥammad 327² 356.
 Yaḥyâ b. al-Ḥusayn an-Nâfiq bi'l-ḥaqq al-Buḥḥânî al-imâm 302² 312 328² 335³.
 Yaḥyâ b. al-Ḥusayn al-Hâdî ilâ 'l-ḥaqq al-imâm 335³ 341³.
 Yaḥyâ b. Ḥamza al-Mu'ayyad bi-'llâh al-imâm 335¹².
 Yaḥyâ b. Zayd al-Ḥusaynî al-imâm 335³.
 Yaḥyâ b. Şaraf an-Nawâwî 309¹.
 Yaḥyâ b. 'Abdallâh al-Ḥasanî al-imâm 335³.
 Yaḥyâ b. 'Abdallâh الوكال 331 f. 15 r.
 Yaḥyâ b. 'Isâ Ibn Maṭrûḥ 334⁹.
 Yaḥyâ b. Muḥammad al-Ḥuṭî 339²⁵.
 Yaḥyâ b. Muḥammad al-Mutawakkil al-imâm 331 f. 10 v 331 f. 20 362.
 Yaḥyâ b. [Faḥraddin al-imâm] al-Hâdî 331 f. 29 v.
 Ya'qûb b. Ishâq Ibn as-Sikkîr 339³⁰.
 Yûsuf b. Aḥmad b. Muḥammad Şamsaddin 312.
 Yûsuf b. Ġirğis al-Bânî App. II.
 Yûsuf b. 'Alî al-Ḥamâṭî 339²⁵.
 Yûsuf b. [al-Manşûr] al-Qâsim 335¹³.
 Yûsuf b. Muḥammad al-Baṭṭâḥ 350³.

COPISTI.

Ibrâhîm b. Muḥammad b. Ibrâhîm b. Aḥmad b. 'Abdallâh aš-Şahârî 328^{4a}.
 Aḥmad b. Aḥmad aš-Şarafî az-Zabidî 305² 4 5 6 7.
 Aḥmad b. Sa'id b. ناحر al-Masârî al-Muzaḥharî 345⁴.

Aḥmad b. 'Abdallâh aš-Şa'dî.
 Aḥmad b. 'Abdarrahman b. Abî Kaṭîr 334⁷.
 Aḥmad b. 'Alî al-Ḥaddâdî 340² 342³.
 Aḥmad b. 'Alî b. Luṭfallâh al-Kibî 341².
 Aḥmad b. 'Alî b. Muḥammad al-Yamanî 341⁴.

Aḥmad b. Muḥammad b. Ibrâhîm b. Aḥmad b. 'Abdallâh b. Aḥmad 328³.
 Aḥmad b. Muḥammad b. Sawâd 337¹ 5 344⁹.
 Aḥmad b. Nâşir al-Ḥaymî 319² 3.
 Ismâ'il b. Aḥmad b. al-Ḥasan aš-Şiddîq 323 324 359.
 Amin b. 'Alî 369.
 Ġirğî Rizqallâh Ballîṭ al-Ḥalabî 368.
 al-Ḥasan b. Aḥmad b. Şâlih b. Aḥmad an-Nuḍârî 334¹.
 al-Ḥasan b. Aḥmad b. 'Abdallâh 'Âkiş 339⁷.
 al-Ḥasan b. Hâşim aš-Şahârî 352¹⁰.
 al-Ḥusayn b. Aḥmad b. 'Uṭayfa ('Aṭifa ?) b. Sa'id b. Ḥâğîb 314¹³.
 al-Ḥusayn b. Aḥmad al-Falqî 344⁶.
 al-Ḥusayn b. Zayd b. Aḥmad al-Habal 344⁴.
 al-Ḥusayn b. 'Abdarrabb (?) b. Aḥmad b. 'Alî... b. Ḥamza b. Rasûlallâh 371.
 al-Ḥusayn b. 'Abdalmağîd b. 'Abdalkarîm Ḥayyâṭ al-Qazwînî 374.
 al-Ḥusayn b. 'Alî b. Muḥammad aš-Şarîf (?) al-Hadawî ad-Dâ'î 339²⁵ f. 124.
 al-Ḥusayn b. Muḥammad b. Muḥsin b. Şamsaddin 339¹ f. 8 v 339¹⁹ 20 339²⁵ f. 127.
 Ḥamûd b. 'Abdallâh b. aš-Şiddîq al-Ahdal 372.
 Raşîd b. Muḥammad b. 'Abdallâh az-Zafirî az-Zuhdî al-'Adlî 333⁶.
 'Âmir b. 'Abdallâh b. 'Âmir 335³.
 'Abdallâh b. Aḥmad b. Ibrâhîm aš-Şarafî 335¹ 2 3 6 8 9.
 'Abdallâh b. Muḥammad b. Aḥmad b. 'Abdallâh b. Yaḥyâ b. Ḥamza 318¹.

'Abdarrahmân b. Ibrâhîm Şar'an 350³.
 'Abdahlâdî b. 'Alî ad-Dumaynî 339¹⁶.
 'Alî b. al-Ḥusayn b. Şamsaddin Muḥammad b. Ibrâhîm Ġaḥḥâfî 313 a.
 'Alî b. Şâlih b. Aḥmad b. Qâsim b. 'Alî as-Sibâ'î 334³ 4.
 'Alî b. Şalâḥ الضالحي 342².
 'Alî b. 'Abdahlâdî b. 'Alî ad-Dumaynî 339¹⁷.
 'Alî b. Qâsim b. Muḥammad b. Mûsâ aš-Şa'dî 321.
 'Alî b. Yaḥyâ b. Aḥmad al-Baraṭî 310² 3 6.
 Muḥsin b. 'Alî b. Mûsâ b. Sa'id aš-Şamîrî 344² 3 8.
 Muḥammad b. Aḥmad b. Hâşim b. Ibrâhîm aš-Şahârî 352⁴ 8.
 Muḥammad b. al-Ḥasan b. al-Ḥusayn b. al-Ḥasan b. Muḥammad Dalâl 331 f. 5.
 Muḥammad b. al-Ḥasan b. Muḥammad al-Aḥfaş 349⁴.
 Muḥammad b. 'Abdallâh b. 'Alî b. Muḥammad b. Aḥmad as-Sabbâk 345⁵.
 Muḥammad b. 'Abdarrahmân Şar'an 350² f. 12 r.
 Muḥammad b. Muḥsin Mîr 330.
 Muḥammad al-Mawlawî 370.
 Muḥammad an-Nâmiq 369.
 Muḥammad b. Yaḥyâ b. Ibrâhîm aš-Şahârî 352⁹ f. 50 v.
 Muḥammad b. Yaḥyâ aš-Şuwayṭa (?) 315.
 al-Hâdî b. Sa'id b. 'Alî b. Ġâbir as-Sukayn at-Tihâmî 352⁶.
 Yaḥyâ b. al-Ḥusayn al-Mağannî (?) 313 b.
 Yaḥyâ b. 'Alî b. Ḥumayd (?) al-Ânisî 358.

- ش' المفصل 310^{aa}
مفيد في معرفة الحساب 305^b
مقال الناصحين 334⁸
مقامات للحريري 349^r
المقدمة الآجرومية: الآجرومية
المقدمة الجزرية في التجويد 336^s
ش' المقدمة الجزرية: الدقائق المحكمة
المقدمة في النحو لابن الوردي 352⁸
ق' في المقصور والممدود 342^r
ملحة الاعراب ونسخة الآداب 303 344^r 352⁸
المنتزع المختار من الغيث المدرار 303 313a
ق' في المنازل 345^r ff. II r 25 v
منهاج التحقيق ومعاسن التلفيق 318^r 339^{re}
ش' منهاج التحقيق ومعاسن التلفيق: المعراج
منهاج الطالبين 309^r
ح' على منهاج الطالبين 350³ f. 28 v
المؤثرات ومفتاح المشكلات 318^r
الموجز في الطب App VI
ش' الموجز App. I
الموشح 339^r
الناسخ والمسنوخ 334^r
الر' الناصحة بالبراهين الواضحة 335^{re}
نزهة عيون المشتاقين 335⁹
النشر في القراءات العشر 336³
نصاب الاخبار وتذكرة الاخبار 302²
- نصيحة الاخوان ومرشدة الخلان 352⁸
نفاثس العرائس السخ: عرائس المجالس في
قصص الانبياء
نهاية التنويه في ازهاق التويه 335²
النهاية في شرح البداية 308^{2a}
ش' نهج البلاغة 342² 335²⁰
نور الابصار وجلاء خواطر الافكار 306³⁹
نوايغ الكلم 310^{4a}
هداية الافكار الى معاني الازهار 317²
مخ' الهندي 305^{6a}
الر' الوازعة لصالح الامة عن الاعتراض على
الاثمة 335¹²
واسطة الدرازي 334^r
ش' واسطة الدرازي: البدر الساري
الوافي في الفروع 308^r
الق' الوترية في مدح سيد البرية 328^{4a}
368 bis^r
ورقات الاصول 337²
وصية النبي الى علي بن ابي طالب 373³
وصية الهادي يحيى بن الحسين 341³
وصية ابن الوردي: نصيحة الاخوان
ومرشدة الخلان
الوقف والابتداء 348 f. II 9 v
الر' الياسمنية 350^r
يواقيت السير شرح الجواهر والدرر 319^r
349⁶

روضة الميثاء في تاريخ الامام القاسم واولاده
 الخلفاء 316²
 رياضية 303
 زهر الروض المنضود في اخبار الحوض المورود
 327³
 الزهور المشرفة والنفحات العبقرة 312
 سبل السلام الموصلة الى بلوغ المرام 371
 سراج التوحيد 333⁵
 ر' في السماع (sic) ورواع اهل الزبيغ والميل
 الى المحرمات والابتداع 350³ f. 28 v
 سوق الفواكه ونزهة المتفاهة: ديوان ابن
 فلينتة
 شه' سيرة اصحاب سيد البشر: ضياء القمر
 سيرة الامام المتوكل شرف الدين 314³
 سيرة امير المؤمنين 319²
 شرح السنة 314³
 ار' في الشطرنج 333⁵
 شه' الشفاء في تعريف حقوق المصطفى:
 رفع الخفاء عن ذات الشفاء
 شفاء صدور الناس 304
 شهاب الاخبار من الاحاديث النبوية 334⁸
 الر' الشهادية في الصناعة الطبية 345⁵
 ار' في الشهور الرومية 3 v f. 352¹
 صحيفة الرضى 335¹⁴
 صدق الوفاء بحق الاخاء 334⁷
 صفة جزيرة العرب 301
 ك' الضرورية 373²
 ضياء القمر 319²
 طبقات المعتزلة 332
 طرفة الاصحاب في معرفة الانساب 324
 طريقة في المناسخة 305⁴
 من' في طلوع الفجر 146 f. 345⁶
 شه' ظل الزيادة الكبرى والصغرى: القول
 الاحرى
 عدة الاكياس 304
 عرائس المجالس في قصص الانبياء 359

ك' العسجد 360²
 شه' العقائد النسفية App. VII
 عقد الدرر السلوانية 363³
 عقد الدرر في عدة السور 119 v f. 348
 ك' العلم المكنون والسر المخزون 339³
 عوالم العلوم 374²
 عين المعاني في تفسير السبع المثاني 342⁸
 العين والعيان عن وقعات آخر الزمان 333⁴
 غاية الافكار ونهاية الانظار 319⁷
 غاية الاماني في علم المعاني 310²
 غاية التحقيق ونهاية التدقيق 313 a
 غرر الفوائد: الاجوبة المفيدة على السؤالات
 الحميدة
 الغيث المدرار 313 a 303
 فتح الباب من الكريم الوهاب لمن اراد
 الدخول في عام الاعراب 344⁸
 فتح ذي العزة والكرام لاولي الهمم 350³
 f. 28 v
 فتح الرحمان يغتفر للموافق من الاركان
 350³ f. 28 v
 فتح المجيب ببلد الحبيب 350³ f. 28 v
 فتح المعين 330
 الر' الفتحية في اعمال الجيبية 345⁵
 فضائل امير المؤمنين 335²⁰
 فضل الخيل 368
 فهرست ابن النديم 332
 الفوائد والصلوات والعوائد App. III 340²
 الفوائد المختصرة في مسائل من الشريعة
 المطهرة 347
 الفواكه الجنية على متممة الآجرومية 310⁶
 فيض الملك العلام لما اشتمل عليه النسك
 من الاحكام 350³
 شه' القاموس الفاضل في علم الفرائض 305⁶
 القرآن الشريف 370 369
 قررة العين بمهمات الدين 330
 شه' قررة العين: فتح المعين

قررة العيون بتاريخ اليمن الميمون 372 360²
 قصة سلمان... وبلقيس 359
 قطر الندى وبل الصدى 353
 القطرانية 345³
 قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور
 333^{3d}
 فايد عقائد آل محمد 339³
 القول الاحرى في شرح ظل الريادة الصغرى
 والكبرى 337²
 القول الكاف في مسائل الاستخلاف 350³
 f. 28 v
 الر' الكاشفة للغممة عن الاعتراض على الائمة
 335¹²
 شه' الكافية: الموشح
 شه' كافية ذي اللب في اصول علم الطب
 352²
 كرامات الصالحين 333^{2d}
 الكشف عن حقائق التنزيل 336⁶
 الكشف عن مجاوزة هذه الامة الالف 333^{5b}
 كشف الهم عن قائدة مد عجوة ودرهم
 337⁵
 الكشف والبيان عن حوادث آخر الزمان
 333⁴
 كفاية المرتاض في معرفة علم النبض والامراض
 306²
 الكفاية والاعلام فيمن ولي اليمن وسكنها في
 الاسلام 360²
 ر' في كفر الباطنية 339³
 كمامة الزهر وفريدة الدهر: اطواق الحمامة
 كنز الدقائق في الفروع 308²
 الكواكب الدرية في مدح خير البرية: البردة
 الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التنكرة
 311 b
 الآلئ المضيئة في اخبار الائمة الزيدية
 339¹⁶
 لامية ابن بهران 328^{4b} f. 3 317²

لامية العجم 328^{4c}
 لامية ابن الوردي: نصيحة الاخوان ومرشدة
 الخلان
 اللطائف السنية في اخبار الممالك اليمنية
 364 362
 اللمع الى ك' التحرير 312
 اللواحق الندية للحدائق الوردية: مآثر
 الاربار
 مآثر الاربار في تفصيل مجملات جواهر
 الاختيار 314²
 ك' الممتدأ والمتمهي 339³
 ك' المنتشاه: الرد على الجبرية القدرية
 متممة الآجرومية 310⁶
 مثلث قطرب 345³
 مجمع المصائب في نوائب الاطياب 374²
 مجموع في المحيط بالنكليف 320
 محاسن الازهار في فضل مناقب العترة
 الاطهار 352⁵
 ك' المحبر 342⁶
 ك' المحصول 339³
 مختصر الشريعة 366²
 مسألة في بيان اقامة الجمعة من غير امام
 327¹
 ق' للمسوحى 333^{2a}
 شه' مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم:
 الايضاح على المصباح
 المضبوط في بيان القراءات السبع 348
 f. 119 v
 معاهد التنصيص 51 v f. 352⁹
 المعتمد من حديث سيدنا المصطفى محمد
 363⁵
 معجم البلدان 302²
 المعراج 339¹⁶
 المغني في البيطرة 343
 مفتاح العلوم 52 v f. 352⁹
 المفصل في علم الاعراب 321 310⁵ 310⁴

بحار الانوار 374^r
 البحر الزخار الجامع لمناهج علماء الامصار
 303 307^r 319^r
 بدء الخلق والتاريخ 333^r
 بدء الدنيا وقصص الانبياء 359
 بدائع الانوار ومحاسن الآثار 302^r
 البدر السارى 334^r
 البدور السافرة في امور الآخرة 327^r
 بديعية ابن حجة 334^r
 البردة 328^r
 البساط 335^r
 القاموس البسامية (بسامة ابن عبدون) 319^r
 شمس البسامية: اطواق الحماسة
 البسامية الصغرى (بسامة اهل البيت)
 314^r 319^a b
 البستان الجامع 319^r
 بغية (غنية) الباحث عن جمل المواير
 344^r
 بغية الطالب وتحفة الراءب 328^r
 بعية القارئ المجيد من طلاب القرآن
 المجيد 348
 بغية المرشد وانس الفريد 315
 كمال البلاغ الاكبر 339^r
 بلوغ المرام من ادلة الاحكام من احاديث
 سيد الانام 351
 شمس بلوغ المرام من ادلة الاحكام: سبل
 السلام الموصلة الى بلوغ المرام
 بهجة العابدين 333^r
 البيان الشافي عن البرهان الكافي 319^r
 شمس البيان الشافي: البستان الجامع
 بيان عقيدة اهل السنة والجماعة 339^r
 بيان مذهب الباطنية وبطلانه 339^r
 تاريخ الرازي 342^r
 تاريخ الزمان وسبب تفرق الناس في
 البلدان 358

5 تاويل الشريعة 339^r
 تبصرة المذاكر ونزهة الناظر 336^r
 القاموس التنزيهية f. 109 v 352^r
 نعمة الارجوزة الرحبية 344^r
 نعمة مجمع المصائب في نوايب الاطياب
 374^r
 التحرير في الفقه 312
 التحفة المختزونة والدرر المكنونة 338
 التحفة الجامعة لمفردات الطب النافعة
 352^r
 تحفة المحتاج بشرح المنهاج 309^r
 تحفة المطالع وبغية المتخالع: ديوان ابن
 فليته
 التحفة الوردية 344^r
 تحفة الوعاظ 349^r
 تخرج احاديث البحر الزخار: جواهر الاخبار
 والآثار
 تخميس بانة سعلات f. 4 v 317^r
 تخميس لامية ابن بهران f. 3 317^r
 كمال التذكرة 352^r
 التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة 311 a
 الترخان المفتوح لثمرات كماتم البستان 319^r
 ترتيب المجالس بذكر التحفة النفاثس 349^r
 تسبيح البردة 328^r
 تشنيف اذن الالهي 339^r
 كمال التنظيم 374^r
 تقويم عجيب يمن 326
 تكميل شرح الازهار: غاية التحقيق ونهاية
 التدقيق
 تيسير الوصول الى جامع الاصول من حديث
 الرسول 360^r
 شمس الثلاثين المسألة: الايضاح على المصباح
 الثماني المسائل المرضية في بيان اتفاق اهل
 السنة على سنن الصلاة والزهدية 313 b
 جامع الاحكام في الحلال والحرام 335^r

الجامع الصغير 339^r
 جامع المتنون في اخبار اليمن الميمون 356
 الجامع المفيد لطالب القرآن 348
 جدول فيه حساب الغالب والمغلوب
 333^a b
 جدول في مداخل الشهور الرومية 345^r
 الجدول المفيد الناهج 345^r
 جزء ضخيم في كرامات الاولياء 28 f. v 350^r
 جلاء الاضمار 335 f. 172 v
 جمع الشنيت f. 1 r 313
 جواهر الاخبار: البسامية الصغرى
 جواهر الاخبار والآثار 307^r
 جواهر التقليد المحذر من التلبيس
 والتقليد 335^r
 شمس الجواهر والدرر من (في) سيرة سيد
 البشر 319^r
 الجواهر السنية 374^r
 جواهر الذخائر في الصغائر والكبائر 344
 f. 23 v
 جوهرة الفرائض الكاشف لمعاني علم الفرائض
 305^r
 حاشية العلفي 305^r
 شمس الحاوي: ارشاد الغاوي
 الحدائق في اخبار ذوي السوابق 335^r
 الحدائق الوردية 314^r
 حرز الاقسام 352^r
 شمس حزب النووي f. 28 v 350^r
 القاموس الحميرية 363^r 334^r
 شمس القاموس الحميرية: خلاصة السير الجامعة
 لاخبار الملوك المتتابعة حيدر
 حياة القلوب في احياء عبادات غلام الغيوب
 341^r
 خبر مدينة النحاس 333^r
 خريدة العجائب وفريدة الغرائب 333^r
 خطبة اول جمعة شهر رمضان 339^r
 خطبة ثالث جمعة في رمضان 339^r

خطبة في الجهاد 339^r f. 4
 خلاصة السير الجامعة لاخبار الملوك المتتابعة
 من حيدر 363^r
 مخزن خلاصة السير الجامعة الخ: عقد الدرر
 السلوانية
 خواص البردة App. IV
 شمس الدامغة 339^r
 الدرر المضيء 327^r
 الدرر الحسنان في آداب القرآن 336^r
 درر الكلام في مسائل عبد الله ابن سلام
 333^a b
 الدررة البهية 344^r
 درة الغواص 339^r
 كمال دعائم الاسلام 339^r
 دفع الملام عن قارئ قطر ابن هشام 353
 الدقائق في طلب الصنعة 352^r
 الدقائق المحكمة في شرح المقدمة (الجزرية)
 336^r
 ديوان ابن فليته 334^r
 الدريعة الشافية لمريد العفو والعافية 334^r
 ذكر حديث المعراج 352^r
 ذكر مقتل الحسين بن علي 374^r
 الذهب المسبوك في سير الملوك 333^r
 الراتب العظيم والورد الكريم 339^r
 مخزن من راس مال النديم 342^r
 ارشاد رحبية: بغية (غنية) الباحث عن
 جمل المواير
 الرد على الجبرية القدرية 332
 رشد اللبيب الى معايشة الحبيب 334^r
 كمال الرضاع 339^r
 رفع الخفاء عن ذات الشغاء 354
 رمز الحقائق 308^r
 مخزن في الرمل f. 38 v 345^r
 روايتي قالون والدوري 336^r
 روضة المجالس في قصص الملوك النفاثس
 357

فهرست الكتب والرسائل الموصوفة والمذكورة

حل الرموز وهي لا تعتبر في الترتيب الهجائي: 'ار' = ارجوزة 'ح' = حاشية 'ر' = رسالة 'ش' = شرح 'ق' = قصيدة 'ك' = كتاب 'م' = مختصر 'مذ' = منظومة 'ذ' = نظم

- اصلاح المنطق 339³⁰
'س' الاصول 332
اطواق الحماسة 319³
اعراب الآجرومية 344⁴
الافادة في تاريخ الائمة السادة 335³
اقراط الذهب في المغامرة بين الروضة وبئر العزب 325
الاكليل في انساب جبر 322 323
امالي احمد بن عيسى: بدائع الانوار ومحاسن الآثار
الامالي في الاخبار 328²
املاء علي المغربي 349² f. 58 r
انارة العلم 340⁵
انباء الزمن في اخبار اليمن 356
مخ' انباء الزمن في اخبار اليمن: اتحف ذوي الفطن
انفرادة الناشري في مذهب قالون والدوري 336²
انموذج في النحو 310³
الانهار المتفجرة 303
اوراد الاسبوع 335¹⁸
ايضاح الغامض الكاشف لمعاني مفتاح القائض 305⁷
الايضاح على المصباح 346
ايناس الاخلاء بجمع احكام كلا 344⁹
'ق' بانث سعاد 339²⁷ f. 4 v 317²
- الآجرومية 344⁶⁸ 344⁵ 310⁶
ش' الآجرومية للازهري 344⁶
ذ' الآجرومية: الدورة البهية
آداب الكاتب 339³⁰
اتحف ذوي الفطن 361 365
الاجوبة المفيدة على السؤالات الحميدة 329 339² f. 8 v
الاحسان في دخول مملكة اليمن تحت ظل عدلة آل عثمان 360²
ر' في احكام المستحاضة 337⁴
ش' اختلاج الاعضاء الكنية من جسد الانسان 352²¹ f. 110 v
اختلاف علماء اهل البيت: بدائع الانوار ومحاسن الآثار
ارشاد الانام الى شرح فيض الملك العلام 350³
ارشاد الغاوي في مسالك الحاوي 337⁶
الازهار في فقه الائمة الاطهار 303
311 f. 276 r 317² 341²
ش' الازهار: المنتزع المختار
ح' على الازهار (؟) 305⁵
الاساس المتكفل بكشف الالتماس 304
اسعاف 327 f. 13 v
'ق' لاسعد الكامل 363⁴
مذ' الاسماء الحسنى 352³
اسنى العقائد في اشرف المطالب وازلف المقاصد 335⁶
ك' اشتقاق (اسماء الله؟) 310^{4a}
الاصابة فيما يجب من رعاية حق الصحابة 327²

